

۱۹-۱

خزینہ عملیات

یعنی

آخری عملیات

مغرب عملیات و تعویذات اور نقوش قرآنی کا مستند اور انمول ذخیرہ جو ہر قسم کی بیماریوں اور حاجتوں میں انتہائی زود اثر اور تیر بہدف ثابت ہو چکا ہے۔

مصنف : مولانا صوفی محمد عزیز الرحمن پانی پتی

۴۰۔ بی، اردو بازار، لاہور
فون: ۷۳۵۲۷۹۵

پروگریسو پبلسٹکس



خزینہ عملیات

یعنی

آئینہ عملیات

مغرب عملیات و تعویذات اور نقوش قرآنی کا مستند اور انمول ذخیرہ جو ہر قسم کی بیماریوں اور حاجتوں میں انتہائی زود اثر اور تیر بہدف ثابت ہو چکا ہے۔

مصنف : مولانا صوفی محمد عزیز الرحمن پانی پتی

یوسف مارکیٹ غزنی سٹریٹ

اردو بازار لاہور ☎ 7352795

پروگرامنگ

نام کتاب : _____ خزینہ عملیات یعنی آئینہ عملیات

مؤلفہ : _____ مولانا صوفی محمد عزیز الرحمن پانی پتی

مطبع : _____ حاجی حنیف اینڈ سنز پرنٹرز

تصحیح کتابت : _____ اے ن ۵۵۸ ندیم شاہد

ناشر : _____ چوہدری غلام رسول

میاں جواد رسول

قیمت : _____ روپے

ملنے کے پنے

• پروگریسو بکس • فیصل مسجد • اسلام آباد

• اسلام بک ڈپو • ۱۲- گنج بخش روڈ • لاہور

فہرست خزینہ عملیات

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
۲۸	لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کا عمل	۱۰
۲۰	نقش برائے تسخیرِ خلائی	۱۲
۳۰	نقش دیگر دلوں کو فتح کرنے کے لیے	۱۹
۳۰	مخالف کو راہِ راست پر لانے اور حُب کے لیے	۲۱
۳۱	مخالف کو رام کرنے کے لیے ایک اور عمل	۲۳
۳۱	میاں بیوی کی محبت کیلئے مجرب عمل	۲۴
۳۲	عمل برائے محبت زوجین (خاوند بیوی)	۲۴
۳۳	محبت پیدا کرنے کے لیے ایک عمل	۲۵
۳۴	ایک اور کثیر الفوائد عمل	۲۵
۳۴	محبت کے لیے اکیسویں مجرب نقش	۲۶
۳۵	محبوب بیقرار ہو کر حاضر ہو	۲۶
۳۵	مطلوب کا دل مطیع ہو	۲۶
۳۶	مطلوب و محبوب تا بعد از ہو جائے	۲۶
۳۶	نقش جو محبت کیلئے مجرب ہے۔	۲۶
۳۷	ترکیب دیگر برائے حُب	۲۷
۳۷	میاں بیوی میں محبت کیلئے مجرب نقش	۲۷
۳۸	آقا یا عدالت کو مطیع کرنیکا عمل	۲۸

عزمن ناشر

فہرست مضامین

احوال واقعی

حرف آغاز

جدول ساعات سب سے سیدہ

عاطمین کے لیے ضروری قواعد و ضوابط

تسخیر و حُب کے عملیات و نقش

تسخیرِ خلائی

شخص جاہ و عزت اور تسخیر کیلئے مجرب عمل

تسخیر کے لیے ایک اور مجرب عمل

عمل اسم باری تعالیٰ تسخیر کیلئے مجرب

تسخیر عوام کے لیے عمل

تسخیر کے لیے ایک اور عمل

بادشاہ حکام رؤسا و امراء کو تابع کرنے کیلئے عمل

کسی بھی شخص کو مسخر کرنے کا عمل

رؤسا سے حاجت پوری کرنے کا عمل

زوجین میں ناچاقی ہو یا آقا خفا ہو

کسی سے اپنی حاجت پوری کرنیکا عمل

تسخیر کا ایک اور عمل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۸	اتحاد و اتفاق کیلئے مجرب عمل	۳۸	میاں بیوی میں محبت کیلئے عمل
۲۸	مطلوب کو بیقرار کرنے کا نقش	۳۹	محبت کے لیے ایک اور مجرب نقش
۲۸	ظالم امیر سے کام نکلانے کیلئے نقش	۳۹	محبت و الفت کیلئے نقش مکرم
۲۹	حاکم کو مہربان کرنے کیلئے نقوش	۴۰	نقش جس کو عورت پاس رکھے تو شوہر مہربان ہو۔
۵۰	سورہ اخلاص کا نقش برائے محبت	۴۱	محبت کے لیے ایک اور مجرب نقش
۵۰	نقش برائے محبت و تسخیر	۴۴	کسی کو اپنی محبت میں بیقرار کر نیک عمل
۵۱	ایک اور نقش برائے محبت	۴۲	محبت کے لیے ایک اور عمل
۵۱	عمل برائے محبت	۴۲	مطلوب کو مسخر کرنے کیلئے عمل
۵۲	عمل مطلوب کو حاضر کرنے کے لیے	۴۲	میاں بیوی میں موافقت و محبت کیلئے
۵۲	نقوش برائے محبت، تپ دق اور جلا امراض کے لیے	۴۳	محبت کیلئے ایک دوسرا عمل
۵۲	عمل و جاہت و عزت اور محبت کیلئے	۴۳	زوجین میں محبت و کے لیے نقش
۵۱	نقش معظّم اور و جاہت کے لیے	۴۴	نقش برائے محبت
۵۵	عمل محبت و الفت کے لیے مجرب	۴۵	محبت کا ایک اور زوداثر عمل
۵۶	عمل برائے محبت	۴۵	ظالم حاکم کو نرم کرنے کا نقش
۵۶	نقوش برائے محبت	۴۶	حاکم کو مہربان کرنے کا عمل
۵۸	تعویذ برائے محبت	۴۶	مطلوب کو تابع کرنے کا عمل
۵۹	نقش میاں بیوی میں موافقت کیلئے	۴۶	دشمنوں کی دشمنی ختم کرنے کا عمل
۶۰	عمل برائے حاضری مطلوب	۴۷	میاں بیوی یا کسی دو شخصوں میں
۶۰	عمل، محبت کیلئے اور مجرب عمل	۴۷	اتفاق کے لیے عمل

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۷۰	عمل زبان بندی اور بہت سے کاموں کے لیے مجرب	۶۰	دعا برائے محبت
۷۱	نقش، زبان بندی کیلئے نہایت مجرب	۶۱	بغض وعداوت و دشمنی
۷۲	اعمال دشمنوں کی زبان بندی کے لیے	۶۲	عمل۔ دو شخصوں میں جدائی کرانے کیلئے
۷۵	دو عمدہ عمل	۶۳	عمل۔ دو شخصوں میں جدائی کے لیے
۷۵	اعمال دشمن اور ظالم و حاکم کی زبان بندی کے لیے	۶۴	دوسرا عمل
۷۶	نقوش، زبان بندی کیلئے دو مجرب نقش	۶۵	عمل۔ دشمن کیلئے تین مجرب عمل
۷۷	اعمال، زبان بندی کیلئے دو مجرب عمل	۶۶	نقوش، بغض و عداوت کیلئے مجرب
۷۸	عمل، دشمن کی شکست اور ہزیمت	۶۷	نقش برائے دشمنی مجرب
۷۹	توقی رزق اور فراخی کیلئے	۶۸	برائے دشمنی
۸۰	عمل ترقی رزق و روزگار کیلئے بہترین	۶۹	عمل برائے قطع محبت و تعلق
۸۱	عمل کسی اہم اور بڑے کام میں کامیابی کے لیے	۷۰	نقش دو آدمیوں میں تفریق کیلئے
۸۰	گمان رزق ملنے کا عمل	۷۱	عمل۔ اگر کسی عورت سے تعلق ہو جائے اس کے لیے
۸۱	ترقی رزق و تونگری کیلئے تین عمل	۷۲	تقریب برائے دشمنی
۸۲	نقش عمل برائے ترقی و فراخی رزق	۷۳	نقوش دشمنی و عداوت کے لیے
۸۳	غیب رزق کیلئے اور عمر زیادہ ہو	۷۴	عمل۔ برائے تفریق
۸۴	ہکام میں ترقی اور کشائش رزق کیلئے	۷۵	نقش، دو شخصوں میں جدائی کیلئے
۸۵	ترقی رزق اور فراخی کیلئے چند عمل	۷۶	نقش جدائی دشمنی کے لیے
		۷۷	عمل دو آدمیوں میں جدائی کیلئے
			<u>برائے زبان بندی</u>

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۲۷	قید سے رہائی کیلئے چند معجزہ اعمال	۸۸	عمل برائے فتوحات
	قرآن مجلی واسقاط حمل و مسان کیلئے	۸۸	عمل سورہ لیس شریف برائے ترقی
۱۲۹	جس کسی کو حمل نہ ٹھہرتا ہو یا ضائع ہو جاتا	۸۱	عمل سورہ منزل، مقاصد میں کامیابی کے لیے
۱۱۳	ہو یا کوئی عورت بانجھ ہو اس کیلئے		
	نہایت مجرب اعمال و نقوش	۹۰	اعمال، ادائیگی قرض کے لیے چند
۱۲۲	جن بچوں کو سوکھے کامرض ہو یا سوکھ کر		مغرب اعمال
۱۵۸	کانٹا ہو گئے ہوں اور مر جاتے ہوں ان		
	کے لیے نہایت مجرب نقوش و تعویذ	۹۳	آسیب و غبرہ کے اعمال
	اور اعمال نہایت مستند	۹۳	نقوش، آسیب زدہ کیلئے دو بہترین نقوش
	حاجات اور خواب کیلئے	۶۷	آسیب کے لیے مجرب
۱۵۹	ہر قسم کی مصیبت پریشانی و مشکلات دشمن	۱۰۰	تعویذ آسیب زدہ کیلئے چند عمل
۱۶۸	پر فتح غرض ہر قسم کی حاجات اور مقاصد کیلئے	۱۰۲	قتیلہ، شیاطین و جنات کو دفع کرنے کیلئے
۱۶۸	نہایت مجرب مستند اعمال تعویذات اور نقوش		تعویذ قتلہ برائے آسیب نظر بد اور
۱۶۹	کسی زندہ یا مرد شخص کو خواب میں دیکھنے		ہر مرض کیلئے
	کے اعمال	۱۰۶	سحر و جادو کیلئے اعمال و نقوش
۱۷۰	جس چیز کو خواب میں دیکھنا چاہے اس کا عمل	۱۰۶	عمل برائے دفع سحر نہایت مجرب
۱۷۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت	۱۱۲	نقوش و اعمال جادو اور سحر کے دفعیہ کیلئے
۱۷۱	دینی و دنیوی کاموں کو خواب میں دیکھنے کے اعمال	۱۱۵	آفات اللہ تعالیٰ کی حفاظت مجرب اعمال
۱۷۷	بھلے ہوئے اور ہوشم کے درد	۱۱۶	سفر و قیام میں امن کے لیے
۱۷۷	پیدائش میں آسانی	۱۱۶	عمل برائے درد سر مجرب
		۱۲۷	درد سر آدھے سر کا درد، ڈارھ کے درد کیلئے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۱۶ ۲۱۸	نہایت زود اثر اعمال سوتے ہوئے ڈرنا، ڈراؤنے خواب دیکھنا تیند کا اچاٹ ہونا وغیرہ کیلئے بہترین اعمال و نقوش	۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳	کوئی شخص بھانگ گیا تو اسکی ویسی کیلئے مجرب اعمال پیٹ کے درد، خون کے دست اور ہر طرح کے درد کیلئے نہایت مجرب اور مستند اعمال و نقوش پیدائش میں آسانی اور سہولت کیلئے نہایت مستند اعمال و نقوش
۲۱۹ ۲۲۲	موگی چھپک بچہ کی پسلی مرگی کے امراض اور دوروں سے شفا یابی کیلئے نہایت مجرب اعمال و نقوش	۱۷۴ ۱۷۵	بچہ کے رونے، دودھ کے امراض عورت کے مخصوص ایام بچوں کے رونے دھونے اور پریشان کرنے کیلئے نہایت مجرب و مستند اعمال و نقوش
۲۲۵ ۲۲۷	چھپک نکلنے سے پہلے حفاظت اور نکلنے کے بعد جلد شفا یابی کیلئے چند مستند نقوش اور اعمال	۱۷۶ ۱۷۷	عورت کے دودھ بڑھنے گھٹنے کے متعلق اعمال
۲۲۸ ۲۳۱	جس بچہ کی پسلی پتی ہو یا کوئی اور مرض ہو اس کے لیے مجرب اعمال و نقوش لو اسیر بد نظرناف ٹلنا، تلی بوٹھنا	۱۷۸ ۱۷۹	ماہواری کی زیادتی و کمی اور دوسری تکالیف کیلئے اعمال و تعویذات نہایت مجرب
۲۳۲ ۲۳۳	خونی یا بادی ہرسم کی لو اسیر کیلئے نہایت آزمودہ اور مجرب اعمال، نقوش اور گنڈے وغیرہ	۱۸۰ ۱۸۱	بخار، دل کی گھبراہٹ، سوتے ہوئے ڈرنا
۲۳۸ ۲۴۳	نظر بد لگنے چاہے کسی ہی خراب حالت میں کیلئے تعویذ اور نقوش و عملیات مجرب اعمال	۱۸۲ ۱۸۳	ہرسم کے بخار اور تب کیلئے نہایت زود اثر اور مجرب عملیات، تعویذات اور نقوش
۲۴۴ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۱	کسی کی ناملتی ہو تو اس کیلئے چند مجرب اعمال کسی کی تلی بڑھ گئی ہو تو اس سے شفا کیلئے مستند اعمال	۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶	گھبراہٹ، اختلاج قلب، اضطراب اور خفقان غرض دل کے امراض میں

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۸۱	ہر کام کیلئے حزب البحر کا نقش		آنکھ دکھنا حفاظت مکان اور بلدی حافظہ
۲۸۲	عمل برائے حبس مخلوق	۲۵۲	دکھنی آنکھ اور ارفاق چشم کے لیے مجرب اعمال
۲۸۲	طاعت کی توفیق کیلئے مجرب عمل	۲۵۳	جن بھوت پریت چور ڈاکو سے مکان کی حفاظت
۲۸۲	حاجات کیلئے یا قوم کے دو نقش	۲۵۵	کیلئے نہایت زود اثر اعمال و نقوش وغیرہ
۲۸۶	نقش برائے امساک	۲۵۹	جس کو قرآن مجید یاد نہ ہوتا ہو یا حافظہ کمزور ہو
۲۸۲	ہر قسم کی سختی و دشواری کیلئے نقش	۲۶۰	اس کیلئے نہایت مجرب اعمال
۲۸۶	اقتلاہ کیلئے عمل اور امساک کیلئے نقش	۲۶۰	ترقی دکان اور چوری سے حفاظت
۲۸۸	نامردی دور کرنے کے لیے	۲۶۱	کسی کی دکان چلتی ہو یا فائدہ نہ ہوتا ہو تو دکان کی
۲۹۰	دشمن پر غلبہ پانے کیلئے نقش	۲۶۲	ترقی وغیرہ کیلئے نہایت مستند اعمال و نقوش
۲۹۰	عورت و مرد کے باندھنے کے لیے نقش	۲۶۳	چوری سے حفاظت چور کا پکڑنا چوری شدہ مال
۲۹۱	بزرگار ملنے اور حاجت برآری کیلئے نقش	۲۶۳	واپس ملنے کیلئے بہت ہی مجرب اعمال
۲۹۲	بچوں کے ڈرنے یا چونکنے کے لیے		مختلف اور متفرق کاموں کے لیے
۲۹۳	آسیب کیلئے نہایت عمدہ نقش قلیل	۲۶۳	ہر قسم کی حاجت برآری کے لیے عمل
۲۹۴	ہر قسم کے مقصد میں کامیابی کے لیے	۲۶۵	ہر قسم کی مشکل اور بیماری کیلئے عمل و نقش
۲۹۶	ہر حاجت کیلئے نقش	۲۶۶	ہر حاجت کے لیے یا منفی کا نقش
۲۹۸	مفلسی دور کرنے اور غیبی مدد کیلئے	۲۶۸	ہر کام کے لیے حزب البحر کا نقش
۲۹۹	کام و شادی کیلئے مجرب عمل	۲۶۸	ہر مقصد کیلئے اللہ الصمد کا نقش
۳۰۰	بدن کے رجسٹر کے لیے	۲۶۹	پیمائش کے لیے مجرب نقش
۳۰۱	ہر شکل کے لیے عمل	۲۶۹	ہر قسم کی مہات کیلئے عمل
۳۰۲	حسن خاتمہ کیلئے عمل	۲۷۰	دست غیب اور غیبی مدد پریشانی سے نجات

صفحہ	معنا میں	صفحہ	معنا میں
۳۲۲	دو شخصوں میں جدائی ڈالنے کے لیے	۳۰۳	ہر کام پورا ہو
۳۲۵	خوشحالی اور دشمن پر غلبہ کے لیے	۳۰۴	جس عورت کے بچہ نہ پیدا ہوتا ہو اس کیلئے چند نقوش
۳۲۶	دشمن کو زیر کرنے یا کسی میں جتنے کیلئے عمل	۳۰۵	خانہ بالخیر ہونے کیلئے
۳۲۸	دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے	۳۰۶	آیات شفا برائے جملہ امراض
۳۳۰	دشمن مغلوب اور ہر ارادہ پورا ہو	۳۰۷	ذہریے جانوروں اور کتوں کے لیے
۳۳۲	یرقان چلیا کے لیے مجرب عمل	۳۰۸	بھوڑے پھنسی کے لیے
۳۳۳	رزق میں بابتی اور حل مشکلات کیلئے اعمال	۳۰۹	ہر حاجت کے لیے
۳۳۷	تجارت میں نفع اور دشمن کو مغلوب کرنے کیلئے	۳۱۰	کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو اس لیے
۳۳۹	یرقان یعنی چلیا کے لیے نقش	۳۱۱	نافرمان اولاد یا بیوی کو فرمانبردار کرنا عمل
۳۴۰	ام الصبیان کیلئے عمل	۳۱۲	آسیب زدہ کے لیے بہتر میں عمل
۳۴۱	بچے کے رونے اور خوب میں چونکنے کیلئے عمل	۳۱۳	جن دو شخصوں میں ناجائز محبت ہو اس کو ختم
۳۴۲	بہتہ کے سات دنوں کے سعد و نحس		کرنے کے لیے
۳۴۳	یعنی بہتہ کے دنوں میں کونسا دن سعد کونسا نحس	۳۱۴	درہنی و ذیوی مہات کے لیے عمل
	علم قیافہ سے حالات معلوم کرنا	۳۱۵	اگر کسی طاؤد کسی اور سے ناجائز تعلق رکھتا
۳۴۱	یسی انسان جسم کے تمام اعضا سے حال معلوم کرنا		ہو تو اس کے لیے
۳۵۰	جدول حال الامجد	۳۱۶	آیت تلبک عجیب و غریب اوصاف
۳۵۱	چہ نال نامہ حضرت زینال عابدین علیہ السلام	۳۱۸	ہر مقصد میں کامیابی کے لیے
۳۵۲	حضرت لقمان حضرت امام جعفر صادق	۳۱۹	بیاری اور آسیب سے شفا کے لیے
	کی طرف منسوب ہے	۳۲۰	کادبار کی تری کے لیے عمل
۳۵۳	حاجت از مضاف	۳۲۱	برائے اطاعت والدین
	قیمت	۳۲۲	ہر بیماری اور ہر مصیبت کے لیے عمل
		۳۲۳	کسی کو مکان دکان یا کسی جگہ سے دل برداشتہ کرنا ہو

احوالِ واقعی

حضرات! یہ مقدس مہربانیاں جو آپ کے مبارک ہاتھوں میں ہیں جناب مولانا صاحب صوفی عزیز الرحمن صاحب پانی پتی مدظلہ کے مہربانیاں ہیں چونکہ صوفی صاحب ہمیشہ سے خاموش اور سادہ زندگی گزارنے کے عادی ہیں اچھی پاکیزہ طبیعت میں شہرت، عز و جاہ اور ناموری کا کبھی کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا اس بنا پر کبھی یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوا کہ یہ مہربانیاں شائع کئے جائیں۔

ایک مرتبہ احقر راقم الحروف کے دل میں بیٹھے بیٹھے یہ خیال پیدا ہوا کہ صوفی صاحب کے مہربانیاں شائع ہونے چاہئیں یہ خیال پیدا ہوتے ہی فقیر نے صوفی صاحب سے کہا بھئی تم اپنے مہربانیاں شائع کیوں نہیں کرتے، مخلوق الہی کو نمانہ بھی پہنچے گا اور تمہاری یادگار بھی رہے گی، صوفی صاحب نے فرمایا کہ یا شائع کر کے کیا کرتا ہے یہ آئی گئی سی بات ہو گئی، خیر پھر چند ملاقاتوں میں بار بار کہا۔ آخر کار صوفی صاحب نے آمادگی کا اس شرط پر اظہار فرمایا کہ اس کا اخیر میں تمہیں بھی معاونت کرنی ہوگی، احقر نے وعدہ کر کے مطمئن کر دیا اور کام شروع کر دیا گیا، کچھ دنوں کی جدوجہد کے بعد اب خدا کے فضل و کرم سے مرتب ہو کر مشہور عام پر جلوہ گر ہو رہے ہیں، جو تیر بہدف ثابت ہو چکے ہیں ان مہربانیاں میں وہ وہ عملیات ہیں جن کا صوفی صاحب سالہا سال تک تجربہ کر چکے ہیں اور آپ ان ہی عملیات کے ذریعے خلق اللہ کی وہ بے لوث خدمت کر رہے ہیں جس کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے

صوفی صاحب کی تمام عمر قرآن عزیز کی تعلیم ہی میں گزری ہے خدا کے فضل و کرم سے سینکڑوں حافظ بن گئے اور اب تک اس پیرانہ سالی میں بھی اس خدمت عظیم کو انجام دے رہے ہیں یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ قاری بھی ہیں جب آپ اس سرزمین تجوید و قرأت پانی پت کے ہی رہنے والے ہوں اور جو حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب پانی پتی اور حضرت مولانا قاری عبدالسلام صاحب پانی پتی جیسے استاذ الالاساتذہ کے غوثہ چین ہو وہ بھلا اس فن شریف سے کیوں کہ محروم رہ سکتا ہے آپ اس فن شریف میں پوری دستگاہ رکھتے ہیں صوفی صاحب نے زمانے کی طرح بہت سی کروٹیں بدلی ہیں مثلاً ایک زمانے میں یہ شوق پیدا ہوا کہ زندہ علماء اور زندہ پیروں کی زیارت کا شرف حاصل کریں چنانچہ علامہ تھانوی کی خدمت میں چند بار حاضر ہو کر شرف نیاز حاصل کیا اور میاں صاحب حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب دیوبندی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

دیوبند کے اس سفر میں فقیر راقم الحروف بھی ہمراہ تھا میاں صاحب کے یہاں جاتے ہوئے ایک کھیرولے کی دکان سے گزرے صوفی صاحب نے فرمایا کہ واپسی میں یہاں کھیر کھائیں گے جب حضرت میاں صاحب نے کھیر کے دو پیالے عنایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لیجئے کھیر کھائیے! آپ کی خواہش بھی تھی (سبحان اللہ! یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں) پھر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حاضر ہوئے اور دیر تک حاضر رہی یہاں ہمان نوازی کی جوشان دیکھی یاد آیا کہ ابوالانیہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہمان نوازی کی یہ یادگار ہے اور چند علماء اور صوفیا کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا پھر کچھ زمانے کے بعد یہ جذبہ بھی پیدا ہوا کہ اب مرحوم علماء اور صلحاء کی بھی زیارت کا شرف حاصل کیا جائے چنانچہ اجیر، کلیر اور پاک پٹن وغیرہ کے سفر کیے اور ان سفروں میں جو کچھ بھی دیکھا دیکھا آخری دو

مقام کے سفر میں فقیر راقم الحروف بھی ہم سفر رہا ہے پھر سب سے بڑا سفر سفر حج ہے، اس مقدس سفر نے تمام سفری جذبات پست کر دیے۔

حیرت ہے کہ قرآن کریم کی مقدس تعلیم اور عملیات کا یہ بے پناہ ذوق و شوق عجوبہ نہیں تو اور کیا ہے حضرت مولانا حسرت موہانی کیا خوب فرما گئے ہیں۔

اک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی
ہے مشرق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی

یہ صحیح ہے کہ جناب صوفی صاحب اپنے شفیق ماموں حضرت مولانا قاری افضل الرحمن صاحب پانی پتی مرحوم کے تربیت یافتہ ہیں لیکن یہ روشن حقیقت ہے کہ قلبی صاحب مبرور عملیاتی سلسلے سے کچھ دل چسپی نہیں رکھتے تھے۔ واقعہ ہے کہ صوفی صاحب نے اس فن عملیات کو اپنے تجربات ہی سے اپنایا ہے کسی غیر کے مرہون منت نہیں یہ کون نہیں جانتا کہ آسیب جنات کا علاج کچھ آسان نہیں زمانہ گواہ ہے کہ ان ہی تجربات کی چھوچھا سے جناب صوفی صاحب نے ہزاروں آسیب زدہ مریضوں کا علاج کر کے زبردست کامیابیاں حاصل کی ہیں صوفی صاحب کو شعر و شاعری سے بھی کچھ ذوق و شوق رہا ہے جملہ اصناف سخن میں کافی دستگاہ حاصل ہے نعمتیں بھی کہیں اور غزلیں بھی کہیں اور غم سے بھی کہے اور قصائد بھی، ٹھہریاں بھی کہیں اور دادرے بھی آپ کا ایک دیوان بھی "دیوان عزیز" کے نام سے شائع ہو چکا ہے وہ اس قدر مقبول ہوا کہ پہلا ایڈیشن بالکل ختم ہو گیا۔

اب اس آخری دور میں آپ بالکل خاموش ہیں نہ عملیات سے ہی کچھ تعلق ہے اور نہ ہی شعر و شاعری سے ہی کچھ دلچسپی اب آپ ہیں اور قرآن عزیز کی مقدس تعلیم اور وہ بھی خصوصی اور امتیازی حیثیت رکھتی ہے ہاں اب اگر کوئی جذبہ باقی بھی ہے تو صرف حق کی تلاش اور اس

پر عملِ اخلاص، خدائے قدوس اسی جذبہِ حق اور ایمان پر خاتمہ فرمائے۔

حضرات! سطور بالا میں صوفی صاحب کے جو کوائف و حالات آپ کے سامنے پیش کئے، گئے ہیں یہ اکثر و بیشتر مسجدِ ارقم الحروف کے ہشتم وید واقعات ہیں بلکہ یہ کہنا بجا و درست ہوگا کہ صوفی صاحب کے پہلو بہ پہلو بیٹھ کر یہ مشاہدات کیے ہیں اور عملیاتی سلسلہ میں مریضوں کو چھوچھا کرتے اور بیماروں کو اچھا ہوتے ہوئے فقیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔

دنیا کو جب یہ عجیب سی بات معلوم ہوگی کہ فقیر کے صوفی صاحب سے ۴۳،۴۲ برس کے تعلقات ہیں فقیر بھی جوان تھا اور صوفی صاحب بھی جوان، اب اس وقت دونوں پیرانہ سال کی منزلیں طے کر رہے ہیں آپ ہر جمعرات فقیر کے غریب کدہ پر تشریف لاتے رہے اور فقیر بھی ہر جمعہ کا شانہ عزیز پر حاضر ہوتا رہا اور اب بھی یہ آمد و شد برابر جاری ہے صوفی صاحب بینائی کی کمزوری کی وجہ سے اب کچھ معذور سے ہیں۔

یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ انقلابِ زمانہ کی ستم ظریفی سے کوئی بھی فرد بستر نہیں بچتا، ہم دونوں میں بھی کبھی کبھی تلخیاں پیدا ہوئیں، لیکن گھنٹے دو گھنٹے کے اندر ہی اندر وہ تلخیاں قند و نبات بن گئیں یہ بھی ایک روشن اور تاباں حقیقت ہے کہ یہ ۴۳ سالہ تعلقات جو ۱۳۳۶ھ مطابق ۱۹۱۷ء سے قائم ہوئے تھے ان کا آج تک قائم رہنا عجوبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ خدائے بزرگ تو ان کی ذات سے یہ قوی امید ہے کہ آخرت میں بھی یہ تعلقات وابستہ رہیں گے۔

الْإِسْلَاءُ يَوْمَئِذٍ لِّعَنَتِهِمْ لِيَبْعِثُوا إِلَى الْمُنْتَقِينَ هـ
 کا پورا مشاہدہ ہوگا۔

فقیر ہر سال رمضان المبارک کی چھٹیوں میں اپنے وطن مالوف (حسین پور ضلع علی گڑھ) جایا کرتا تھا ایک سال اپنے وطن گیا معلوم ہوا کہ ریاست بھیکم پور ضلع علی گڑھ کے راجا لافٹا میں منعی

کی ضرورت ہے درخواست دی منظور ہوگئی فقیر نے ۵ برس تک دارالافتاء کی خدمات انجام دیں، ریاست کے زمانہ قیام میں بھی صوفی صاحب سے تعلقات قائم رہے خط و کتابت کے ذریعے نصف ملاقاتیں ہوتی رہیں ایک مرتبہ دارالافتاء میں میرے پاس چند حضرات بیٹھے ہوئے تھے ڈاکہ نے مجھے ایک لفافہ دیا میں نے اسے کھول کر پڑھا تو وہ صوفی صاحب کا گرامی نامہ تھا مکتوب پڑھ کر بڑی مسرت ہوئی لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ یہ کس کا خط ہے آپ اسے پڑھ کر بہت خوش ہو رہے ہیں میں نے جواب دیا کہ میرے ایک گہرے دوست کا یہ خط ہے، انہوں نے پھر مجھ سے دریافت کیا کہ آخر آپ کے یہ دوست کیسے ہیں؟ احقر نے صوفی صاحب کے چند اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ بھی بیان کر دیا کہ صوفی صاحب زبردست عامل بھی ہیں یہ سن کر ایک صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب! میری شادی شدہ ایک لڑکی پر آسیب کا زبردست اثر ہے بہت کچھ علاج کیے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ آپ ان سے کوئی تعویذ منگا دیجئے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی: میں نے صوفی صاحب کو لکھا صوفی صاحب نے چند فلیٹے لکھ کر میرے پاس روانہ کر دیے میں نے ان صاحب کو بلا کر فلیٹے انہیں دیتے ہوئے سب ترکیب سمجھا دی انہوں نے وہ فلیٹے جلائے لڑکی پر سے آسیب کا اثر بالکل جاتا رہا اور پھر کبھی کوئی شکایت نہ ہوئی، اس لڑکی کے اچھا ہونے کی اس قدر شہرت ہوئی کہ میرے پاس ہجوم ہونے لگا اور ہر قسم کے مرض کے متعلق مجھ سے شکایتیں کرنے لگے کہ حضرت ہمیں بھی فلاں فلاں مرض کا کوئی تعویذ، گھنڈا، فلیٹہ وغیرہ منگا دیجئے، اکثر و بیشتر ایسا ایسا کرتا رہا۔

جب میرے پاس اس قسم کا مجمع ہونے لگا اور دارالافتاء کی خدمات میں غفلت پڑنے لگا، تو میں نے ایک صاحب کو صوفی صاحب کا پتہ لکھ کر دے دیا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ فلاں صاحب کے پاس صوفی صاحب کا پتہ ہے جن لوگوں کو جو ضرورت ہو وہ براہ راست صوفی صاحب سے خط و

کتابت کریں اور اپنی درخواست پر میرے دستخط کرا لیا کریں اور چند بار میرے دعوت نامے پر آپ ریاست میں تشریف بھی لائے اس تشریف آوری سے لوگوں کو بڑا نفع پہنچا۔ مختصر یہ کہ ریاست بھیم پور اور اس کے گرد و نواح تک صوفی صاحب کے فیوض و برکات پہنچتے رہے پھر میں بھی اس منصب جلیل سے مستعفی ہو کر دہلی آیا اور اس وقت سے آج تک دہلی ہی میں یہ مستعار زندگی گزار رہا ہوں۔

صوفی صاحب کی ذکور وانات ۹ اولادیں ہیں ۴ لڑکے اور ۵ لڑکیاں، لڑکوں میں منگلے لڑکے ریاض الرحمن مرحوم نے جوان موت سے پیرانہ سالی میں داغ مفارقت دیا اب اس وقت ماشاء اللہ ۳ لڑکے اور ۵ لڑکیاں بقید حیات موجود ہیں سوائے بڑے لڑکے حافظ لطیف الرحمن سلمے کے قریب قریب سب بچے میری گود کے کھلائے ہوئے ہیں۔ خدائے حق یوم ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور نیک و صالح بنائے خدا کے یہ ہمیں ہمیشہ بھولتا پھلتا رہے اور صوفی صاحب اس جن میں مگن رہیں۔

صوفی صاحب کا ہمیشہ سے صلح کل مسلک رہا ہے ہر مذہب و ملت کے لوگوں سے یکساں اخلاق کریمانہ اور خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں ہر شخص کی حیثیت کے موافق گفتگو اور خاطر مدارت سے بھی دریغ نہیں کرتے۔

حضرات آپ یہ تعجب سا کر رہے ہوں گے کہ یہ ہزار مجموعہ اخلاق و خوبی صوفی کے لقب سے کیوں مشہور ہو اور حاضر میں تو یہ لفظ اپنی سیاہ کاریوں اور اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے بہت بدنام اور نفرت زا لفظ ہے واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اس حقیر فقیر نے بھی یہ محسوس کرتے ہوئے کہا کہ یار! یہ لقب تمہارے لیے مناسب نہیں فرمایا کہ یار کیا کہوں! حضرت ماموں صاحب مرحوم و معذور کا یہ خطاب عطا کر دہ ہے صرف اس کی لاج ہے درنہ میں خود بھی اس کو نفرت

کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اب ہم دونوں کی خدائے خیر و دانا سے یہ دعا ہے کہ الہی جب تک
 ہم دونوں دنیا میں رہیں تو اسلام میں زندہ رہیں اور اسلام کی خدمات انجام دیتے رہیں۔
 اور جب ہمیں موت آئے تو اسلام میں آئے اور ایمان پر فائز ہو جائے۔ آمین۔
 وَأَخِي دَعُونَا إِنِّي الْمُسْمِدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

فقیر سید حفیظ الدین احمد عنقرض

امام مسجد رنگریناں صدر بازار

باڑہ ہندوراؤ۔ دہلی

یکم محرم الحرام ۱۳۸۰ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ الْقَدِیْمِ الْوَاحِدِ الْوَحِیْدِ الْحَكِیْمِ
وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الرَّؤُفِ الرَّحِیْمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ
وَاَصْحَابِهٖ الَّذِیْنَ قَامُوْا عَلٰی الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیْمِ

حضرات! یہ ایک روشن اور کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ دنیا کے ہر کام کے لیے کچھ
اصول اور ایک پورا نظام ہونا ہے ان اصول اور نظام کے ماتحت ہو کر ہی کسی کام میں
کامیابی ہوتی ہے ہر فن اور ہر علم کو اس کے قواعد و قوانین ہی سے اپنایا جاتا ہے قانون
اور قاعدے کے بغیر کسی علم و فن کے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو یقینی اس میں
ناکامی ہوتی ہے۔

ٹھیک اسی طرح فن عملیات کے بھی کچھ قاعدے اور قانون ہیں اگر کوئی عامل
ان قانون اور قاعدے کے بغیر کوئی عمل کرنا چاہے سراسر وہ اس میں ناکام ہی رہے گا، اس
لیے سب سے پہلے اس فن شریف کے کچھ قاعدے اور قانون بیان کیے جاتے ہیں تاکہ عاملین
حضرات ان سے آگاہ ہو کر ہر عمل میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کر سکیں۔

یہ بالکل صحیح و درست ہے کہ فن عملیات اور سیدھی سادہ ستاروں، بروج اور

ساعتوں کا آپس میں ایسا ہی گہرا تعلق ہے جیسا روع اور بدن کا، کسی عمل کے پڑھنے یا کسی تعویذ کے لکھنے سے پہلے ان تین چیزوں کے لحاظ رکھنے میں عجیب و غریب تاثیریں پیدا ہو جاتی ہیں۔

(سبعہ ستیاریہ) انکسات سیاروں کو کہا جاتا ہے جو اپنی رفتار سے آسمان کا گشت کرتے ہیں اور آسمان کے ساتھ نہیں گھومتے ان کے یہ نام ہیں شمس (سورج) قمر (چاند) زہرہ شترجی، عطارد، زحل، مریخ، خالق کائنات نے ان ستاروں میں عجیب و غریب تاثیریں رکھی ہیں اور عالم سفلی (زمین) کو عالم علوی (آسمان) کا تابع قرار دیا ہے، کوئی ستارہ سعد (اچھا) ہے کوئی ستارہ نحس (بُرا) ہے جب ستارہ سعد ہوتا ہے تو کام بن جاتا ہے اور جب ستارہ نحس ہوتا ہے کام بگڑ جاتا ہے۔

یہ ستارے جنہیں سبعہ ستیاریہ کہا جاتا ہے رات دن دورہ اور گشت ہی میں لگے رہتے ہیں۔ اہل نجوم نے ان کی رات دن کی چوبیس ساعتیں مقرر کی ہیں اور ہر ساعت کی تاثیریں الگ الگ بیان کی ہیں۔ ہم نے عاملین حضرات کی سہولت کے لیے انہیں حسب ذیل جدول میں ظاہر کر دیا ہے۔

جدول اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

جَدْوَلُ

ساعات سبعه سیارہ سعد نحس شبانہ روزی

اس جدول کا قاعدہ یہ ہے کہ جو ستارہ جس روز کا مالک ہے پہلے ایک گھنٹہ اس کی ساعت رہے گی ایک ساعت کے بعد اسی روز دوسرے ستارے کی ایک گھنٹہ ساعت رہے گی چنانچہ اس طرح رات دن کے موافق بارہ بارہ ساعتیں ملتی رہتی ہیں ان میں صرف مریخ اور زحل نحس ہیں باقی سب سعد میں ساعت کا شمار طلوع آفتاب سے کیا جاتا ہے۔

یوم	وقت	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
پہلا شنبہ	زحل	ختری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	زحل
دو شنبہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	زحل
تیسرا شنبہ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	زحل
چوتھا شنبہ	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	عطارد
پنجم شنبہ	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	شمس
ششم شنبہ	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مشتری
ساتھ شنبہ	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	قمر
آٹھ شنبہ	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	زہرہ
نواں شنبہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	مریخ
دسواں شنبہ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	زحل
ایکادس شنبہ	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	عطارد

۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	عت سا اول	یوم
شمس	مریخ	مشتری	زحل	قمر	عطارد	زہرہ	شمس	مریخ	مشتری	زحل	قمر	شب جمعہ
مشتری	زحل	قمر	عطارد	زہرہ	شمس	مریخ	مشتری	زحل	قمر	عطارد	زہرہ	روز جمعہ
قمر	عطارد	زہرہ	شمس	مریخ	مشتری	زحل	قمر	عطارد	زہرہ	شمس	مریخ	شب شنبہ

اور برج بارہ ہیں ان کے نام یہ ہیں۔

- ۱۔ حمل
- ۲۔ ثور
- ۳۔ جوزا
- ۴۔ سرطان
- ۵۔ اسد
- ۶۔ سنبلہ
- ۷۔ میزان
- ۸۔ عقرب
- ۹۔ قوس
- ۱۰۔ جدی
- ۱۱۔ دلو
- ۱۲۔ حوت

یہ بروج انہیں (سبعہ سیارہ) ستاروں کے مقامات ہیں۔

ضروری قواعد

(قاعدہ نمبر ۱) عالمین کے لیے اکل حلال (حلال روزی) سچائی اور اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے

(قاعدہ نمبر ۲) عمل پڑھنے یا تعویذ لکھنے کے وقت نیت صاف رکھنا، دوسرا شیطان سے دور رہنا اور رجوع الی اللہ ہونا عالمین کے لیے بہت ضروری ہے۔

(قاعدہ نمبر ۳) جب کسی عمل کے پڑھنے یا تعویذ لکھنے کا ارادہ کیا جائے تو ستاروں پر جوں اور ساعتوں کا خیال رکھنا از بس ضروری اور لازم ہے۔

(قاعدہ نمبر ۴) جب محبت کے لیے کوئی عمل پڑھایا تعویذ لکھا جائے تو عروج ماہ (شروع مہینہ) جمعرات یا جمعہ کے دن مشتری یا زہرہ کی ساعت میں پڑھایا لکھا جائے۔

(قاعدہ نمبر ۵) اگر عدوت و دشمنی کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو زوال ماہ (آخر مہینہ) میں ہفتہ (سینچر) یا منگل کے دن زحل یا مریخ کی ساعت میں کیا جائے۔

(قاعدہ نمبر ۶) کسی عمل پڑھنے یا تعویذ کے لکھنے یا نقش بھرنے سے پہلے با وضو ہونا ضروری ہے۔

قاعدہ نمبر ۷) عمل پڑھنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عمل پڑھنے کے لیے ایک جگہ مقرر کرے۔ کبھی ایک جگہ اور کبھی دوسری جگہ، ایسا کرنے سے عمل کا اثر جاتا رہتا ہے۔ معطلی (جائے نماز) بھی خاص ہو۔

یہ وہ ہفت گانہ (ساتون) قواعد ہیں جن پر عاملین کو عمل کرنا لازم اور ضروری ہے اگر ان کے موافق کچھ عمل نہ کیا گیا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وقت الگ برباد ہوا اور محنت الگ اکارت گئی۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

احقر العباد، عزیزہ الرحمن عفا اللہ عنہ

یکم محرم الحرام ۱۳۸۰ھ

85021

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفسیر و حُب

تفسیر خلافت - عام لوگوں کو سنا کر نے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مندرجہ ذیل آیات گیارہ مرتبہ بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب پڑھے۔ اول آیت گیارہ مرتبہ درود شریف شریف "حُب ہے

يُحِبُّوْهُمُ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ
 حُبًّا لِلّٰهِ وَالْكَافِرِيْنَ الْعَقِيْبَةُ وَالْعٰفِيْنَ عَنِ النَّاسِ
 وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ اَوْ مَن كَانَ مَسِيْرًا
 فَلَجِيْنًا ۗ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ
 مَّثَلُہٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۗ كَذٰلِكَ
 زُيِّنَ لِلْكَٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۗ فَلَمَّا ذٰ اٰيٰتِنَا
 الْكُبْرٰى وَكُفِّرْنَ ۗ وَظَنَّ اَيُّوْبُ اَنۡ هُوَ مِنَ الْمَسٰكِيْنِ
 هٰذَا الَّذِيْ لَمْ يَخُذْ وَلَدًا ۗ لَوْ يَكُنۡ لَّہٗ

شَرِيكَ فِي الْمَلِكِ وَلَوْ لَيْتَ لَكَ دَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرًا
 تَكْبِيرًا هَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
 آذَىٰ مُوسَىٰ فَتَبَّ أَلَمْ يَأْتِ اللَّهَ مِمَّا قَالُوا ط وَكَانَ
 عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ه

دیگر

شخصی جاہ و عزت اور تسخیر کے لیے ذیل کا عمل دس بار پڑھ کر اپنے منہ پر مل
 کر جس کے پاس جائے گا وہ بے حد محبت کے ساتھ پیش آئے گا اور اس میں
 بہت سے فائدے ہیں۔ مجرب ہے۔

أَلَّا تَعْلَمُوْا عَلٰی وَا تُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ يَّا خَيْرُ
 الْبَقِيَّةِ دِيْنِ يَّا خَيْرُ الْمَطْلُوْبِيْنَ يَّا خَيْرُ الْمَجْهُوْبِيْنَ
 يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا اٰمَنُوْا
 حُبًّا لِلّٰهِ ه

دیگر

يَا بَدِيْعُ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيْعُ
 پانچ سو (۵۰۰) مرتبہ پڑھے اول آخر دس دس بار درود شریف خدا کے فضل و کرم سے تمام
 لوگ تابع رہیں گے کوئی وقت معین نہیں کوئی سا بھی وقت مقرر کر لے مجرب الجرب ہے

دیگر

عمل اسم باری تعالیٰ (اللہ) تسخیر کیلئے مجرب ہے اگر چاہیں کہ کسی کو دوست اور مسخر بنائیں یا کسی امیر سے نفع حاصل کرنا ہو تو چاہیے کہ عروج ماہ میں جمعرات یا جمعہ کے روز اس عمل کو شروع کریں۔ اس ترتیب سے کہ رات کے وقت دو زانو ہو بقیہ ہو کر بیٹھیں اور اپنی آنکھیں بند کریں پہلے گیارہ بار آیتہ الکرسی العلیٰ العظیم تک پڑھیں بعد ازاں ایک ہزار دس مرتبہ اسم ذات مع عبارت کے پڑھیں اور اپنے مطلوب کو سامنے دست بستہ کھڑا ہوا تصور کریں جب اسم تمام ہو جائے اس کے سینہ پر دم کریں اور اپنے دل میں اشارہ کریں کہ میرا مطیع ہو جا اسی طرح پندرہ روز تک بدستور پڑھیں اگر ممکن ہو تو کسی چیز پر دم کر کے مطلوب کو کھلائیں انشاء اللہ مطیع اور فرمانبردار ہو جائیگا اگر اس اسم کی زکوٰۃ چالیس روز تک ہر روز ہزار ہزار بار پڑھیں تو اس مبارک اسم کے عامل ہو جائیں پس جب وہ تسخیر میں (خواہ اپنے لیے ہو خواہ غیر کے لیے) عمل مذکور کام آتا ہے یعنی جس چیز پر دم کر کے کھلائیں گے یا پلائیں بڑا اثر پیدا ہو۔ زکوٰۃ میں آیتہ الکرسی بدستور مذکور ہر روز پڑھنی چاہیے اور جب چلہ تمام ہو تو شربت پر دم کر کے پیغمبر کی روح مبارک پر فاتحوں اور تھوڑا تھوڑا وظیفہ جاری رکھیں تاکہ ہمیشہ عمل میں رہے اسم ذات کے ساتھ یہ عبارت پڑھنی ہوگی **يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ كَلِّبْ قَلْبَهُ اَنَّىٰ** اور اگر عورت ہو تو کہیں **قَلْبَهَا اَنَّىٰ**.

دیگر

تسخیر عام کے لیے ذیل کا عمل بعد نماز فجر ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھنا بے حد

مغرب ہے اول آخر و درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ اللہم سخر لی هذا
الْبَدَدَ وَالرَّجَالَ

دیگر

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَانَ عَلَى كُرْسِيِّهِ جَدًّا ثُمَّ أَنَابَ اس
آیت کو رچھ سوا تھترام ہر روز کہ جنہا کے تیل پر دم کر کے جسے وہ تیل سنگھائے
گا وہ مسخر ہو جائے گا۔

دیگر

بادشاہ چنگام اور روسا و امراء کے تالیج کرنے کے لیے یادر حمن کل شیئی
وَرَأَيْتُهَا تَمِينُ دُنْ تَمَكْ بَرَابَرِ رُوزِ... ہا پڑھے اور چوتھے دن غبل کر کے...
مرتبہ پڑھے اور اپنی تھیلی پر رکھے اور امیر کے پاس جا کر اس کے سامنے ہا پڑھے
انشاء اللہ تعالیٰ فبت سے پیش آئے گا۔

دیگر

اگر کسی کو مسخر کرنا ہو تو ہر روز نہایت مرتبہ اس آیت اور اسامہ کو پڑھ کر شیرینی یا پھولوں پر
دم کریں اور محبوب کو کھلائیں یا سنگھائیں انشاء اللہ تعالیٰ مطیع و فرمانبردار ہو جائے گا مغرب و
آزمودہ ہے آیت اور اسامہ یہ ہیں: وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ يَا رَفِيقُ
يَا شَفِيقُ يَا نَجِيًّا مِّنْ كُلِّ هَوِيٍّ۔

دیگر

جو شخص اپنی حاجتیں امراء و روسا سے پوری کرانا چاہتا ہے۔ اور ان کو پوری

طرح مسخر کرنا چاہے تو باوجود سورہ یس پینتیس مرتبہ پڑھ کر امرار کے پاس جلنے،
انشاء اللہ تعالیٰ وہ اس کی عزت کریں گے اور اس کی تمام حاجتیں بھی پوری کریں گے

دیکھ

جس شخص سے اس کا بادشاہ یا آقا خفا ہو گیا ہو یا زوجین میں ناچاقی ہو گئی ہو
تو ملاقات کے وقت پوشیدہ طور پر ان آیات کا ورد رکھے، انشاء اللہ تعالیٰ جلد کامیاب
ہوگا۔ وَلَمَّا سَأَلْتُ عَنْ مُوسَىٰ الْغَضَبُ أَخَذَ الْاَلْوَاحَ وَفِي نُسخَتِهَا
هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ
پھر پڑھے۔

اَطْفَاتُ غَضَبٍ كَذَا وَكَذَا بِلَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاسْتَجَلِبْتُ
مُودَتَهُ بِمُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دیکھ

اگر کسی کو مسخر کرنا ہو اور اپنی کوئی حاجت اس سے پوری کرنی ہو تو اچھی طرح و منور
کے دو رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد تسبیح و تہلیل اور درود شریف پڑھ کر اپنی مزدت
کے لیے دعا مانگی اور پھر ان آیات کو بلا تعداد پڑھتا ہو اس کے پاس جائے اور
وہاں جانے کے بعد بھی بیٹھے بیٹھے پڑھتا رہے جب وہ ہم کلام ہو تو اس وقت پڑھنا
پھوڑے اور نوح میں وقفہ ملتا رہے تو اس اثناء میں ان آیات کو پڑھتا رہے انشاء اللہ تعالیٰ
مسخر ہو گا اور آپ کا کام پورا کرے گا۔ نہایت مجرب ہے آیات یہ ہیں۔

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ
 اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا إِذْ جَاءَكَ التَّنَادُ
 قَالُوا الشَّهَدُ أَنْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ بَعَلَهُ إِنَّكَ لِرَسُولِهِ ط
 وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ كَذِبُونَ ه

دیگر عمل برائے تسبیح

تو کیسے: بعد نماز عشاء تین تسبیح یا وود و یا روف یا رحیمہ
 اول آخر تین تین مرتبہ ورد شریف پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں، انشاء اللہ
 کامیابی ہوگی۔ تجربہ ہے یہ عمل گیارہ یوم ہوگا۔ نو چندی جمعرات کو شروع کیا جائے گا۔

دیگر

جو شخص لوگوں کے قلب میں اپنی عظمت، محبت و ہیبت ڈالنا چاہے تو اس دعا
 کو پڑھے یہ دعا حضرت سیدنا ابوالحسن شاذلی قدس سرہ سے منقول ہے۔

يَا اللَّهُ ۳ يَا رَبِّ ۳ يَا رَحْمَنُ ۳ يَا رَحِيمُ ۳ لَا تَكَلِّبْنِي
 إِلَى تَفْسِي فِي حِفْظِ مَا مَلَكَتَنِي كَمَا أَنْتَ أَمْلِكُ بِهِ
 مِنِّي وَامْدِدْنِي بِدَقَائِقِ امْسِكَ الْحِفْظَ الَّذِي
 حَفِظْتَ بِهِ نِظَامَ الْمَوْجُودَاتِ وَاسْمِي بِدَعْوِي
 كِفَايَتِكَ وَقَلْدِي نَصْرَكَ وَحَيَاتِكَ وَتَوَجُّبِي بِسَاحِ
 عِزِّكَ وَكُومِكَ وَرَدَائِي بِرِدَائِكَ وَرَكْبِي بِمَرْكَبِ

النِّجَاةَ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ بِعَقْرِ فَجَسَّ أُمَّتِهِ دَنِي
 بِدَقَاتِكِ اسْمِكَ الْقَهَّارِ تَدْفَعُ بِهِ عَنِّي مَنْ أَرَادَ نِي سُوءًا
 مِنْ جَمِيعِ الْمَوْزِيَّاتِ وَتَوَكَّلْنِي بِوِلَايَةِ الْعِزِّ تَخَضَعُ لِي بِسَهْلِهَا
 كُلِّ جَبَّارٍ عِنْدِي وَشَيْطَانٍ مُرِيدٍ يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ ۳ مَرَّةً
 اللَّهُمَّ أَلِقْ مِنْ نَيْتِكَ وَمِنْ مَحَبَّتِكَ وَكَرَامَتِكَ وَمِنْ
 نَعْوَتِ رُبُوبِيكَ مَا بَهَّوِيهِ الْقُلُوبُ وَتَذِلُّ بِهِ النَّفُوسُ
 وَتَخَضَعُ لَهُ الرِّقَابُ وَتَرْقِي بِهِ الْأَبْصَارُ وَتَحْبِرُ لَهُ الْأَفْكَارُ
 وَتَلْمِغُ لَهُ كُلَّ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ وَيَسْخَرُ لَهُ كُلَّ مَلِكٍ قَهَّارٍ
 يَا اللَّهُ يَا مَلِكُ يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ ۳ مَرَّةً يَا اللَّهُ يَا أَحَدُ يَا وَاحِدُ
 يَا قَهَّارُ اللَّهُمَّ سَخِّرْ لِي جَمِيعَ خَلْقِكَ كَمَا سَخَّرْتَ الْبَحْرَ
 لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَيْسَ لِي الْقُلُوبُ كَمَا لَيْسَتْ
 الْحَدِيدُ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ لَا يَنْطِقُونَ إِلَّا
 بِأُذُنِكَ وَأَمِيهِمْ فِي تَبَّتِكَ وَقُلُوبُهُمْ فِي يَدِكَ
 وَتَصْرَفُهُمْ فِي لَمْرُوكَ حَيْثُ شِئْتَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ
 يَا عَلَّامُ الْغُيُوبِ أَطْفَأْ عَضَبَ النَّاسِ بِلَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ وَاسْتَجَلِبْتَ مَحَبَّتَهُمْ لِبَيْدِ تَامِمٍ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا رَأَيْتَهُ الْكِبْرِيَّةَ
 وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقَلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا
 إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۵

دیگر

یہ نقش مبارک تسخیر خلائق کے لیے اکیر ہے با وضو لکھ کر اور عطر لگا کر

سیدھے بازو پر باندھے۔

۱۹۶	۱۹۹	۲۰۲	۱۸۹
۲۰۱	۱۹۰	۱۹۵	۲۰۰
۱۹۱	۲۰۳	۱۹۷	۱۹۴
۱۹۸	۱۹۳	۱۹۲	۲۰۳

دیگر

یہ نقش واسطے تالیف قلوب اور کسی کو رجوع کرنے کے لیے بھی مجرب ہے

لکھ کر بازو پر باندھے۔

۲۹۰۳	۲۹۰۶	۲۹۰۹	۲۸۹۵
۲۹۰۸	۲۸۹۶	۲۹۰۲	۲۹۰۷
۲۸۹۷	۲۹۱۱	۲۹۰۴	۲۹۰۱
۲۹۰۵	۲۹۰۰	۲۸۹۸	۲۹۱۰

حُب

اگر کوئی مخالف ہو گیا ہو تو اس کو راہ راست پر لانے اور اپنا محب بنانے کے لیے اسکا

پڑھنا بجا مفید ہے۔ بفضلہ تعالیٰ موافق ہو جائے گا مطلوب کا تصور کر کے ایک سو اکتالیس

مرتبہ بعد نماز عشاء ۲۱ دن تک پڑھے تو اول آخر درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ

بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ يَا سَيِّدَ الْكَرِيمِ
 بِحُومَةِ نِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمِنُ بِحَبِيبِ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاكَ
 أَنَا كَفَيْتُكَ الْمُسْتَهْزِئُونَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرُحْمَتِكَ أَسْتَفِيحُ اللَّهُمَّ
 سَهْلٌ وَكَيْسٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ هُ حَسْبِيَ عَنْ
 سُوءِ أَلِيٍّ عَلَيْكَ بِحَالِي سُبْحَانَ الْقَاهِرِ الْقَادِرِ الْكَافِي.

دیگر

يُحِبُّوْنَ نَهْمُ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ ط

تو کبیب: سات کنکریاں نمک لاہوری لے کر ہر کنکری پر یہ آیت سات بار پڑھے
 اسی طرح تین مرتبہ کر لے جس کی مجموعی تعداد اکیس بار ہوئی۔ یہ تعداد پوری کر کے پھر
 یہ کہے سو ختم دل بجان فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں اور وہ ساتوں کنکریاں
 آگ میں بلائے۔ اسی صورت سے روزانہ سات کنکریاں ۲۱ روز تک پوری کرے۔ اول
 آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار پڑھے۔

خدا کے فضل و کرم سے مطلوب بے قرار ہو کر حاضر ہوگا۔ واضح ہو کہ حرام کے لیے

اس عمل کو کام میں نہ لائیں۔

دیگر

عمل برائے بخت زوجین (میاں بیوی کی محبت میں) مجرب ہے۔

ترکیب: نوچندی جمعرات کو یہ عمل لکھ کر تکیہ کے اندر رکھ دے اور وہ تکیہ مطلوب کے سر کے نیچے رہے اگر اس تکیہ پر طالب کا سر بھی ہو تو کوئی مضائقہ نہیں انشاء اللہ درمیان خاوند و زوجہ کے محبت زیادہ ہو۔ مجرب ہے۔

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَأَهْلِهَا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدُ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا
 وَإِنْ أَمْرًا أَتَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا نُسُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ
 وَإِنْ لَحِسْتُمْ أَنْ تُتَّخَذُوا آيَةً فَانْهَوُا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
 وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
 عَظِيمًا وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَادَبْتُمْ مِنْهُمْ
 مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ذکر

عمل پر لے محبت زوجین (خاوند و بیوی)

ترکیب: عروج ماہ میں پیر یا جمعرات کے دن یہ عمل کرے اور یہ خیال رکھے کہ
 فلانہ کی جگہ جب کا نام اور فلاں کی جگہ محبوب کا نام لکھے اور بازو پر باندھے یا گلے میں ڈالے اور
 اگر کھلانا چاہے تو مذکورہ ذیل چیزوں پر دم کرے۔
 مٹھائی یا چھوڑے یا نمک پر پڑھ کر تعداد راکیس بار، گیارہ گیارہ بار اول آخر
 درود شریف مجرب ہے۔

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذِ تَمْشِي ط أَخْتِكَ تَقُولُ
 هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ قَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمَمِكَ كِي تَقْرَعُ عَيْنَاهَا وَلَا تَحْزَنَ
 وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا يَا مَعْزِبُ الْقُلُوبِ
 يَا مَسْغَرَاتِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضَيْنِ السَّبْعِ قَلْبُ
 لِفَلَانَةَ قَلْبُ فُلَانٍ بِالْخَيْرِ لِأَدَاءِ الْعُقُوقِ يَا وَدُودُ دُحَيْبُ حَبِيبُ
 يَا وَدُودُ ه

برائے حب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ
 عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً ط وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

عشاء کے بعد دو رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ
 کوسات سات دفعہ پڑھے۔ دونوں رکعتیں ختم کرنے کے بعد ستر دفعہ یوں دعا کرے قبل
 دعا کے اول گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھے کہ اے اللہ پاک فلا نے کا دل فلانے
 کے واسطے نرم کر دے جس طرح تو نے اپنی قدرت سے داؤد علیہ السلام کے واسطے لوہے کو نرم کیا تھا

دیگر

عمل برائے حب

جس شخص کا کسی مکان مخصوص کے ساتھ کچھ تعلق ہو یا کوئی چیز کم ہو گئی ہو یا کسی
 سے محبت کرنا چاہے تو اس دعا کو عصر و مغرب کے درمیان پانچ سو مرتبہ پڑھے اور

اول و آخر گیارہ گیارہ بار اس درود شریف کو پڑھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى شَفِيعِ الْمُرْسَلِينَ وَصِدِّ الْأَمْرُسَلِينِ
وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ختم ہو جانے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہے۔ جب مغرب کی نماز تیار ہو اس وقت اس جگہ سے اٹھے اس دعا کے پڑھتے وقت صدق نیت اور خدائے گہائی کو ہر چیز پر قادر ہونے کا کامل یقین رکھے۔ پس اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے گا یہ عمل عجیب و غریب ہے اور اس عمل میں اس شخص کے لیے عجیب اثر ہے جو تفریق ہو جانے کے بعد محبت کرنے کا ارادہ کرے اور اس شخص کے لیے جو علوم و فنون میں کمال حاصل کرنا چاہے اس عمل کے کرنے سے جمیع احوال و اقوال میں ممکن ہو جائے گا۔ وہ دعا یہ ہے۔

اللَّهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ط إِنَّ اللَّهَ
لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ط اِجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَ كَذَا وَكَذَا

یہ نقش محبت کے لیے اکسیر و مجرب ہے

۷۸۶

۸	۱۱	۱۲	۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۳	۱۶	۹	۶
۱۰	۵	۴	۱۵

الحب يا جبرئيل بحق آدم وهو اقل من بنت فلان ولعيتلا گردد بحق يا بد ورح يا بد ورح يا بد ورح

یہ نقش واسطے حُبِّ مُجْرِبِ ہے

ترکیب :- اس نقش کو لکھ کر وزنی پتھر کے نیچے دبائے انشاء اللہ تعالیٰ
محبوب بے قرار ہو کر حاضر ہوگا۔

۷۸۶

۹۵۹	۹۶۲	۹۶۵	۹۵۱
۹۶۲	۹۵۲	۹۵۸	۹۶۲
۹۵۳	۹۶۷	۹۶۰	۹۵۷
۹۶۱	۹۵۶	۹۵۲	۹۶۶

الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں بجرمۃ ابن نقش
بیقرار شد۔ زود بیاید۔ زود بیاید۔ زود بیاید۔

دیگر

عمل برائے حُبِّ

سَلِّ يَا رَسُولَ أَحْمَدِ اسْوَلُ بِحَقِّ إِسْرَاهِيَّآ مَالِكِ
يَوْمِ الدِّينِ هُ يَا أَذْهَمَ الرَّاحِمِينَ هُ

ترکیب :- اس کو صرف اتالیس مرتبہ پڑھ کر پان پر لکھ کر مطلوب کو کھلائے
انشاء اللہ تعالیٰ مطلوب کا دل مطیع و فرمان بردار ہو جائیگا، مجرب و آزمونہ بفضلہ تعالیٰ،

دیگر

عمل برائے محبت

ترکیب:۔ اول آخر دس دس بار درود شریف پڑھے اور درمیان اس کے اسم
یا بدو و ح کو بیس تیس یعنی دو ہزار مرتبہ پڑھ کر مٹھائی پر دم کر کے مطلوب کو کھلائے
انشاء اللہ تعالیٰ مطلوب تاجدار ہو جائے گا یہ عمل آزمودہ اور مجرب ہے۔

یہ نقش برائے محبت مجرب ہے

اس نقش کو لکھ کر جسے پلانے کا وہ محبت کرے گا۔
ایک روز چھوڑ کر پلایا جائے گا روز پلانے سے تاثیر باطل ہو جائے گی۔

۷۸۶

۸	۲	۱۰
۹	۷	۴
۳	۱۱	۶

یا بدو و ح تَبَدُّوْ حِبِّ مِّنَ الْبَدُوْ حِ فِي الْبَدُوْ حِ بَدُوْ حِ يَا
بَدُوْ حِ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ عَلِيٍّ حِبِّ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ

ترکیب دیگر برائے حب

اگر کوئی شخص کسی سے ناراض ہو تو اس عبارت کو جمعہ کے دن ساعت مشرقی میں لکھ کر آگ میں جلائے تو وہ کاغذ گرم نہ ہونے پائے گا کہ وہ شخص حاضر ہوگا یا جو کچھ مراد ہوگی وہ پوری ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ مجرب ہے۔
تو کیب: اس کے تین پرچے لکھے۔ ایک اسی ساعت میں جلائے دوسرا دو بجے، تیسرا شام کو غروب آفتاب سے پہلے۔

نوٹ: آگ میں جلاتے وقت مطلوب کا تصور ہونا چاہیے۔ عرض ہر جمعہ کو تین پرچے لکھے۔ پورے چار جمعہ غسل کیا جائے گا۔ وہ عبارت یہ ہے۔

مَا مَوْكَا وَمَا دُو وَلَصْدُ مَا تَيْمُو وَاَيْلُو وَمَنَا سَلْمَا عَبْدُ اللّٰهِ
بِنْدُ اللّٰهِ سِرِّي رَحَلْتُ قَلْبِ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ ، عَلِي حَبِ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ ۔
مہہ مہہ سَعْبُ يَلْحُ بَيْعُ عَشَقِ

نقش برائے محبت میاں بیوی

یہ نقش لکھے اور طالب اپنے بازو پر باندھے۔ وہ نقش یہ ہے۔
۷۸۶

۴۴۹	۴۴۱	۴۴۸
۴۴۷	۴۴۵	۴۴۳
۴۴۲	۴۴۹	۴۴۴

فلاں بن فلاں علی حبّ فلاں بن فلاں

دیگر برائے حُب

جو شخص اس نقش کو پگڑی یا ٹوپی میں موم جامہ کر کے اور عطر سے معطر کر کے اپنے پاس رکھے گا وہ عدالت یا اپنے آقا کے پاس جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ سب لوگ اس کے مطیع ہوں گے۔ وہ نقش یہ ہے۔

روزِ جمعہ
العیوم

۷۸۶

سورۃ
ہوالعی

۲۲	۲۶	۲۹	۱۶
۲۸	۱۷	۲۲	۲۷
۱۸	۳۱	۲۲	۲۱
۲۵	۲۰	۱۹	۳۰

يَا عَزِيزُ لِعِزَّتِكَ يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ

دیگر برائے حُب میاں بیوی

میاں بیوی میں محبت پیدا ہونے کے لیے اس آیت شریفہ کو سات سو سات دفعہ سات دن تک پڑھنا پھر جس کو اپنا کرنا مقصود ہو اسے پانی یا کسی اور چیز پر دم کر کے کھلانا یا پلانا نہایت مجرب اور مفید ہے آیت شریفہ یہ ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

اعتقاد اور خلوص نیت شرط ہے عمل نہایت مجرب ہے۔

دیگر برائے حب

خاصیت:۔ یا أَفْتَابَ الْمَسْحُورِ وَلَوْ آسِرَ لَبِئْتُمْ وَسَوْفَ تَمْرُدُونَ وَجَانِ
وَعَقْلٌ وَهَوَشٌ وَفَهْمٌ وَدَهْمٌ وَهَفْتٌ اَنْدَامٌ فَلَانَ بِنِ فَلَانَ عَلِيَّ حَبِ
فَلَانَ بِنِ فَلَانَ اسْرَعْمُ كَرْفَةَ الْعَيْنِ الْوَاَحَا السَّاعَةَ السَّاعَةَ

مغنی	رحمن	رحیم
مکریم	الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں	محمود
قادر	محب	محبیب

ب	د	و	ح
ع	د	د	ب
د	ب	ح	و
و	ح	ب	د

کَتَبَ هَذَا التَّعْوِذَ الْحَبَّ فَلَانَ بِنِ فَلَانَ عَلِيَّ حَبِ فَلَانَ بِنِ فَلَانَ
سَيِّدِ يَدِ الْعَبِّ لَا يَغْضَاءَ أَبَدًا بِحَقِّ يَا وَدُودِيَا وَدُودِي يَا وَرُودِي حَقِّي
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

دیگر برائے حب

یہ نقش مکرم اس آیت شریفہ کا ہے یعنی
يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَكْرَبُ إِلَيْهِ
محبت و الفت کے لیے مجرب ہے۔

۳۷۲	۳۷۶	۳۷۹	۳۷۵
۳۷۸	۳۷۶	۳۷۲	۳۷۷
۳۷۷	۳۸۱	۳۷۲	۳۷۱
۳۷۵	۳۷۰	۳۷۸	۳۸۰

الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

دیگر ایرائے حب

تو کبیب: جو عورت اس نقش کو اپنے پاس رکھے گی. شوہر کی نگاہ میں عزیز ہوگی اور جو اس کو دیکھے اس پر وہ مرنے لگے گا۔

نقش یہ ہے


۶۰۰۹	۶۰۱۲	۶۰۱۶	۶۰۰۲
۶۰۱۵	۶۰۰۳	۶۰۰۸	۶۰۱۲
۶۰۰۴	۶۰۱۸	۶۰۱۱	۶۰۰۷
۶۰۱۲	۶۰۰۶	۶۰۰۵	۶۰۱۷

الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

دیگر ایرائے حب

ترکیب :- مطلوب کے کپڑے پر یہ نقوش لکھ کر گھی کے چراغ میں جلائے اور چراغ کے پاس گلاب کا پھول رکھے وہ نقوش یہ ہیں۔

۹۹۸۶۴۱ کا ۹ ۱۱۱۱ و حط الساعۃ ۸۸۸ ماہ



الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

دیگر ایرائے حب

ترکیب :- اگر کوئی شخص اپنی محبت میں کسی کو بے قرار کرنا چاہے تو وہ کسی گلاس وغیرہ میں پانی لے کر اس پر یا بدوہ سات بار پڑھ کر دم کرے اور اس میں تھوڑا سا پانی اپنے منہ میں لے کر عزارہ کی طرح پانی کو حرکت دے پھر اسی گلاس میں والدے جو اسے پئے گا اس سے محبت کرنے لگے گا۔

دیگر برائے حب

ترکیب: بخری کا واپسنا شانہ لے کر اس پر سورہ یس جس قدر بھی لکھی جائے جمعہ کے بعد برہنہ ہو کر سکھے اور طالب و مطلوب کا نام لکھے لیکن یہ عمل عروجِ ماہ میں کیا جائے اس شانہ کو ہانڈی میں رکھ کر چولہے میں دبا دے تاکہ وہ گرم ہو، اس قدر آگ نہ ہو کہ وہ جل جائے مطلوب کا دل بے قرار ہو جائے گا اگر شانہ جلنے لگا تو مطلوب کا دل بھی جلنے لگے گا۔ راجب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں طالب و مطلوب کے ناموں کے ساتھ۔

دیگر برائے حب

ترکیب: گڑیا یا پان کسی پاؤ رکھانے کی چیز پر ہمارے دعا پڑھ کر دم کرے مطلوب مسخر ہو جائے گا لیکن بیکاری کے لیے عمل نہ کیا جائے وہ دعا یہ ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ یُحِیُّوْنَہُمْ کَیْۤسَبِ اللّٰہِ لِقُلُوْبِہُمْ
فِی لَیْلِ وَنَہَارٍ وَفِی سَاعَۃٍ سَہْرٍ عَلٰی حَبِہُمْ اَمْسَدُ حَبًا وَّلَوْ بَرَّ الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا اِذْ یُرُوْنَ الْعَذَابَ اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰہِ جَمِیْعًا راجب فلاں

بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

دیگر برائے حب

برائے اصلاح زوجین (میاں بیوی کی موافقت)

تو کیب :- یہ آئین لکھ کر میاں یا بیوی کسی ایک کے گلے میں باندھے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
وَأَلْفٌ بَيْنَ بَنِي فُلَانٍ وَفُلَانَةٍ بِنْتِ فُلَانَةٍ كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ مُوسَىٰ
عَاصِمَةَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا
فِي السَّمَاوَاتِ تُؤْتِي أَكْثَرَهَا ثَمَرًا حِينَ يَأْذُنُ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تَا نَك انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔

دیگر دیرائے حب


تو کیب :- عروج ماہ کی نوچندی جمعرات کو شروع ہوگا با وضو اپنے لیترے پر پڑھ کر
سو جائے۔ خواہ لیتر زمین پر ہو یا چارپائی پر، دونوں صورتوں میں پڑھا جا سکتا ہے
لیتر پاک ہونا چاہیے وہ آیت یہ ہے۔

كَذُ شَفَعَهَا حَبًا لِقَدْ لَوَّيْتُ سَوَّابِكُ بَارًا، اُولَآءِ كِيَا رَهْ كِيَا رَهْ مَرْتَبَهْ دَرُودِ شَرِيفِ،
پڑھتے وقت مطلوب کا تصور رکھے انشاء اللہ مطلوب بے سیرا ہو کر حاضر ہوگا۔ گیارہ
روز میں وزن اکیس روز میں انشاء اللہ تعالیٰ مقصد میں کامیابی ہوگی۔
مغرب و آرمورہ ہے۔

دیگر دیرائے حب

تو کیب :- اس نقش کو لکھ کر جس کو پلائے وہ محبت کرنے لگے مگر زوجین کیلئے

زیادہ مفید ہے ایک روز چھوڑ کر پلانے۔
نقش اعظم یہ ہے۔



الحب فلان بن فلان علی حب فلان بن فلان

دیگر اہلئے حب

ترکیب: اس نقش کو محبت کے لیے طالب و مطلوب کو لکھ کر پلانے۔
انشاء اللہ تعالیٰ محبوب تابع فرمان ہو جائے گا۔ مجرب ہے۔

۷۸۶

يَا حَلِيَّةُ يَا حَلِيَّةُ يَا حَلِيَّةُ يَا حَلِيَّةُ يَا حَلِيَّةُ يَا حَلِيَّةُ يَا حَلِيَّةُ يَا حَلِيَّةُ يَا حَلِيَّةُ يَا حَلِيَّةُ

۱۲۳	۱۲۶	۱۲۹	۱۱۶
۱۲۸	۱۱۷	۱۲۲	۱۲۷
۱۱۸	۱۳۱	۱۲۴	۱۲۱
۱۲۵	۱۲۰	۱۱۹	۱۳۰

وَبِنَا اِتِّبَانِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ يَّاقَدِيْمُ الْاِحْسَانِ

الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

دیگر ایرائے حب

جمعہ عسق ۲۷۸
۲۷۸ بار پڑھے

تو کیب:۔ نماز عشاء سے فرائت پا کر اس کو شروع کر کے۔ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر آخر میں اس کا نام لے کر پکارے۔

الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

میں دفعہ پکارے تصور کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ اپنے کام میں کامیاب ہو جائے گا (اس عمل کو بھی عروج ماہ نو چندی جمعرات سے کیا جائے)

مغرب ہے۔ دیگر ایرائے حب

تو کیب:۔ جب کوئی حاکم کے غصے سے ڈرتا ہو اور حاکم اس پر بے جا ظلم کرتا ہو تو اس نقش کو لکھ کر ٹوپی یا پگڑی میں رکھے اور حاکم کے سامنے جائے۔ خدا کے فضل و کرم سے وہ شخص کامیاب ہوگا۔ مغرب ہے۔

۷۸۶

۶۵۹	۶۵۴	۶۶۱
۶۶۰	۶۵۸	۶۵۶
۶۵۵	۶۶۲	۶۵۷

دیگر بڑے حُب

ترکیب: جب کوئی حاکم کے غصہ سے ڈرتا ہو اور حاکم اس پر بے جا ظلم کرتا ہو تو ان آیات پاک کو لکھ کر ٹوپی یا پگڑی میں رکھے۔ اور حاکم کے سامنے جاوے خدا کے فضل و کرم سے وہ شخص کامیاب ہوگا مجرب ہے

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَ إِلَّا تَعْلَمُ لَهُ عَلَىٰ وَأَتُوْنِي مُسْلِمِينَ ۝

دیگر بڑے حُب

ترکیب: نَسِيكَفِيْلَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ط
عروج ماہ میں شروع کرے عشاء کی نماز کے بعد۔ امر تہ پڑھنے اور پڑھنے کے وقت مطلوب کا تصور رکھے اور شیرینی پر دم کر کے مطلوب کو کھلائے انشاء اللہ تعالیٰ مطلوب تابع ہو جائے گا یہ عمل نو چندی جمعرات سے شروع کرے۔

دیگر بڑے حُب

اگر عداوت کو لوٹانا منظور ہو تو اس مبارک آیت کو لکھ کر اور دھو کر پلائیں آپس کی دشمنی جاتی رہے گی اور ایک دوسرے میں پختہ دوستی ہو جائے گی۔
آیت یہ ہے:-

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ

فَبَشِّرْهُ بِبَعْثِنَاكَ وَأَجْرِ كَرِيمٍ ۝

دیگر برائے حب

ترکیب :- اگر میاں بیوی یا دو بھائیوں یا دو آدمیوں میں باہم اتفاق و محبت نہ ہو تو ان آیات کو چینی کی کابی پر لکھیں اور اس رکابی میں شہد ڈال کر میں بھر شہد کو کسی کھانے کی چیز میں ملا کر کھلائیں فضل الہی سے آپس میں اتفاق ہو جائے گا نیز آیات کے شروع میں بسم اللہ کے عدد بھی لکھیں یعنی اس طرح :-

۷۸۶ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ . الْعَبُّ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَى حَبِّ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ

۷۸۶ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ اَلْحَمْدُ وَوَلَدًا حَيَاتٍ شَهِدَ الْمُوَدَّةَ سَلَوْتِيْ هُمْ اِذَا هُوْنَ احْفَظْ لَآ اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَبِحَقِّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ اَسْتَعِيْنُ .

دیگر برائے اتفاق و اتحاد

ترکیب :- اگر کسی گروہ میں لڑائی جھگڑا ہو یا سخت جنگ رہتی ہو تو یہ آیت شریفہ پڑھ کر اس گروہ کی طرف دم کریں اور اگر دم نہ کر سکیں تو کاغذ پر لکھ کر پانی میں گھول کر نسب کو پلائیں اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر شخص میں کو کنوئیں سے پانی پیتا ہوں کنوئیں میں ڈال دیں ۔

انشاء اللہ تعالیٰ سب کے اندر خلوص و محبت پیدا ہو ۔

آیت یہ ہے ۔

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ
اتَّبِعُوا مَنِ اتَّبَعْتُمْ أَجْرُهُمْ مَعَكُمْ وَاتَّبِعُوا مَنِ اتَّبَعْتُمْ أَصْحَابُكُمْ

دیگر ایرائے حب

ترکیب :- یہ نقش معظم مطلوب کے بے قرار کرنے کے لیے مجرب ہے اس کو با وضو
لکھ کر کسی کوزہ گلی (مٹی کی چھوٹی سی کلیا) میں رکھ کر اور تھوڑی سی شکر بورا ڈال
کر اس کو آگ میں دفن کریں۔ جوں جوں آگ کی گرمی اسے پہنچے گی مطلوب بے قرار ہوگا۔
نقش یہ ہے

۳۷۳	۳۷۶	۳۷۹	۳۷۵
۳۷۸	۳۷۶	۳۷۲	۳۷۷
۳۷۷	۳۸۱	۳۷۳	۳۷۱
۳۷۵	۳۷۰	۳۷۸	۳۸۰

الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

دیگر ایرائے حب

(نقش آیت معظم)

ترکیب :- اگر کوئی شخص کسی ظالم امیر کے سامنے جانا چاہے تو اس آیت معظم

۷۸۶ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ

لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

کو لکھ کر اور مثل تعویذ کے موم جامہ میں لپیٹ کر زبان کے نیچے رکھ لیں اور اس کے پاس جا کر گفتگو کریں، بے شک وہ امیر اس پر مہربان ہو جائے گا۔

توکیب دیگر

نیز اس آیت شریفہ کے عدد نکال کر ہم نے نقش مربع بڑھ کر دیا ہے۔
اس نقش کے نیچے مطلوب اور اس کی ماں کا نام لکھ کر اور طالب اپنا اور اپنی ماں کا نام لکھے اور اس نقش کو پانی میں گھول کر پلائے، مطیع ہو جائیگا اور اگر نقش مذکور کو لکھ کر بازو پیریاں دھیں تو ہر دل عزیز رہیں گے۔
وہ نقش معظم یہ ہے :-

۷۸۶

۷۲۶	۷۲۹	۷۳۲	۷۱۹
۷۳۱	۷۲۰	۷۲۵	۷۳۰
۷۲۱	۷۳۴	۷۲۷	۷۲۲
۷۲۸	۷۲۳	۷۲۲	۷۳۳

الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

دیگر (بڑے حب)

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

بچے لکھے ہوئے دونوں مربع و مثل نقوش اسی آیت کے ہیں جو شخص جاہر حاکم سے خائف ہو اور ضویکھ کر اپنے پاس رکھے حاکم اس پر مہربان ہوگا مجرب ہیں ان دونوں میں سے کسی کو لکھ کر

کام میں لائے۔ وہ نقوش یہ ہیں۔

۷۸۶

۲۶۸	۲۶۲	۲۶۰
۲۶۹	۲۶۷	۲۶۲
۲۶۳	۲۶۱	۲۶۶

۷۸۶

۱۹۹	۲۰۲	۲۰۶	۱۹۲
۲۰۵	۱۹۳	۱۹۸	۲۰۳
۱۹۲	۲۰۸	۲۰۱	۱۹۷
۲۰۲	۱۹۶	۱۹۵	۲۰۷

دیگر نقش نکرہ برائے حُب


یہ نقش سورہٴ اخلاص کا ہے اخلاص و محبت کے واسطے اکبر ہے۔

۷۸۶

۲۵۰	۲۵۳	۲۵۶	۲۲۳
۲۵۵	۲۲۲	۲۲۹	۲۵۴
۲۲۵	۲۵۸	۲۵۱	۲۲۸
۲۵۲	۲۲۷	۲۲۶	۲۵۷

دیگر برائے حُب

اس عزیمت کو خوشبو دار تیل میں تین دن تک برابر منگل بدھ، جمعرات کو رات میں روشن کرے جس کے لیے یہ عزیمت لکھے اس کے نیچے یہ عبارت لکھے۔
فلاں بنت فلاں علی حُب فلاں بنت فلاں دل و جگر سوختہ حاضر آید



دیگر اہل تہ حب

ترکیب: اس نقش کو معبرات کے دن زوال کے وقت لکھ کر سیدھے بازو پر باندھے۔ یہ نقش حجت کے لیے بچہ عرب ہے لیکن اس کو عروج ماہ میں لکھنا چاہیے۔

۷۸۶

<p>یاورد فلان بن فلان</p> <p>یاورد فلان بن فلان</p>	<p>یاورد فلان بن فلان</p> <p>یاورد فلان بن فلان</p>
<p>یاورد فلان بن فلان</p> <p>یاورد فلان بن فلان</p>	<p>یاورد فلان بن فلان</p> <p>یاورد فلان بن فلان</p>

دیگر اہل تہ حب

ترکیب: اس عبارت کو لکھ کر طالب اپنے بازو پر باندھے۔ مجرب ہے۔

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَادْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ط
 وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ط أَحِبُّ يَا حَبِيبُ يَا دُرِّ دَائِمٌ ط
 يَا رَقِيبُ يَا تَكْفِيلُ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ
 عَلِيٌّ وَوَلِيُّ اللَّهِ يَا دُرُّ يَا وَهَابُ يَا بَدُّ وَحُّ الْحَبِّ فُلَانُ بِنْتُ فُلَانٍ
 عَلِيٌّ حَبِّ فُلَانٍ بِنِ فُلَانٍ مَجْرِبٌ هِيَ۔

دیگر ایرائے حب

توکیب: عروج باہ نو چندی جمعرات کو فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان
 ۲۱ مرتبہ گیارہ روز تک پڑھے۔ اول آخر دس دس مرتبہ درود شریف پڑھے پڑھتے
 وقت مطلوب کا تصور رکھے۔

انشاء اللہ تعالیٰ مطلوب حاضر ہوگا۔

۸۶۔ وَالْقَبِيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَيَّ عَيْنِي إِذْ تَمَسَّنِي
 اُحْتَلَاكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْتكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ
 عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ط وَقَتَلْتُ نَفْسًا فَجَعِنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَقَتَلْتُكَ فَتَوَنَّا
 فَلَئِمْتُ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِينٍ ثُمَّ جِئْتُ عَلَىٰ قَدَرٍ لِيَمُوسِي
 وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ط

دیگر ایرائے حب

(محبت اور تپ دق وغیرہ جملہ امراض کے لیے)

ترکیب: نقش قل هو اللہ عددی (مراد نقش) و ملفوظی ان نقشوں کے ہر قسم کے خواص موجود ہیں اگر منہ سے یا شکم سے خون آتا ہو یا تپ دق یا کوئی دوسرا لاعلاج مرض ہو تو نقش ملفوظی ۴۰ دن تک یہ نقش لکھ کر مریض کو پلائیں بیشک صحت حاصل ہو بشرطیکہ با وضو نقش لکھیں اگر بہن کی جھلی پر نقش مذکور رکھ کر قیدی کے بازو پر باندھیں تو رہائی پائے۔ اگر کوئی شخص ایک مدت دراز سے گم ہو گیا ہو اور اس کی خبر کچھ معلوم نہ ہو تو اس نقش کو مشک و زعفران سے لکھیں اور با وضو سر کے نیچے رکھ کر سو جائیں اس کو پوری کیفیت خواب میں معلوم ہو جائے گی اگر حاملہ کا حمل ساقط ہو جاتا ہو تو نقش مذکور کو لکھ کر اس کی کمر میں باندھیں فوراً خون و درد موقوف ہو جائے گا۔ اگر غائب شخص کو بلانا ہو تو یہ نقش لکھ کر دوپٹھروں کے درمیان رکھ دیں لیکن آتش دان (یعنی چولہا) کے متصل سایہ میں ہوں۔ بے شک وہ غائب حاضر ہوگا۔ محبت کے بارے میں یہ نقش تیر بہدف ہے اور جس غرض کے لیے یہ نقش لکھا جائے گا۔ وہ غرض پوری ہوگی اگر کوئی شخص ان کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ وہ عامل ہو جائے گا کسی بارے میں یہ نقش خطانہ کرے گا۔

زکوٰۃ ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ عروجِ ماہ میں نو چندی جمعرات سے ہر روز یہ نقش با وضو لکھیں اور روزانہ آٹے میں گولی بنا کر دریا میں ڈال دیں چالیسویں دن کھیر (شیر و برنج) پکائیں اور فاتحہ دے کر دریا میں ڈالیں۔ عامل ہو جائیں گے اور اس کھیر میں سے آپ بھی کھالیں نقش مذکور کو نہایت عزیز رکھنا چاہیے اور کسی نااہل کو نہ دینا چاہیے نقش ہے۔ یہ نقش عددی ہے

۲۵۰	۲۵۳	۲۵۶	۲۴۳
۲۵۵	۲۴۴	۲۴۹	۲۵۲
۲۴۵	۲۵۸	۲۵۱	۲۴۸
۲۵۱	۲۴۷	۲۴۶	۲۵۷

الْحُبُّ فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ عَلَى حَبِّ فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ
یہ نقش عربی ہے

میکائیل

۷۸۶

جبرائیل

قُلْ	هُوَ	اللَّهُ	أَحَدٌ	اللَّهُ	الْقَهْدُ	لَمْ	يَلِدْ
هُوَ	اللَّهُ	أَحَدٌ	اللَّهُ	الْقَهْدُ	لَمْ	يَلِدْ	وَلَمْ
اللَّهُ	أَحَدٌ	اللَّهُ	الْقَهْدُ	لَمْ	يَلِدْ	وَلَمْ	يُولَدْ
أَحَدٌ	اللَّهُ	الْقَهْدُ	لَمْ	يَلِدْ	وَلَمْ	يُولَدْ	وَلَمْ
اللَّهُ	الْقَهْدُ	لَمْ	يَلِدْ	وَلَمْ	يُولَدْ	يَكُنْ	يَكُنْ
الْقَهْدُ	لَمْ	يَلِدْ	وَلَمْ	يُولَدْ	وَلَمْ	يَكُنْ	لَهُ
لَمْ	يَلِدْ	وَلَمْ	يُولَدْ	وَلَمْ	يَكُنْ	لَهُ	كُفُوًا
يَلِدْ	وَلَمْ	يُولَدْ	وَلَمْ	يَكُنْ	لَهُ	كُفُوًا	أَحَدٌ

اسرافیل

عزرائیل

الحب فلان بن فلان على حب فلان بن فلان

دیگر

یہ آئین محبت اور وہابیت کے لیے مجرب و آزمودہ ہے ان کو مشک و

زعفران سے لکھ کر گلے میں ڈالنے یا سیدھے بازو پر باندھے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اسْتَوْثِنِي بِهٖ اسْتَحْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ
 وَلَدَيْهَا مَلِكِيْنٌ اَمِيْنٌ ط اِنِّي وَاَجْرُهُتُ وَجِهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ
 الْاَرْضِ حَنِيفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ه وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ط وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَاَلْتَمَنَعُ عَلٰى
 عَنِّي ط يَحْيُوْنَهُمْ كَمَا كَتَبَ اللّٰهُ وَالَّذِيْنَ اسْتَوْثِنُوْا اَسَدًا جَبَّالِيْهًا ط نَاتَّبِعُوْنِيْ
 يُعْبِبِكُمْ اللّٰهُ يَكْتُوْبُوْا لَكُمْ لَوْ اَنْفَقْتُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلْفَتْ
 بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَلَكِنَّ اللّٰهَ اَنْفَ يَكْتُوْبُهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ط
 لَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِيْنِيْنَ لَا تَخَفْ بَحُوْثٌ مِّنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ
 لَا تَقْفُ دَرَكًا وَّ لَا تَهْتِنِيْ لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَوْسَعُ لَا تَخَفْ فَا
 اِنِّيْ مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَاَرٰى ط

ذکر

پتھن معکم ان ہی آیتوں کا ہے محبت اور وجاہت کے لیے مجرب اور
 آزمودہ ہے اس کو شک اور زعفران سے لکھ کر گلے یا سیدھے بازو پر باندھے۔

۷۸۶

۵۷۰۵	۵۷۰۹	۵۷۱۲	۵۷۹۸
۵۷۱۱	۵۷۹۹	۵۷۰۴	۵۷۱۰
۵۷۰۰	۵۷۱۴	۵۷۰۶	۵۷۰۳
۵۷۰۸	۵۷۰۲	۵۷۰۱	۵۷۱۳

دیگر (عمل برائے حُب)

ترکیب: عروج ماہ نوچندی جمعرات کو زینَ اللتاسِ حُبُ الشَّهَوَاتِ سے لے کر حُنَّ الْمَنَابِہِ (سورہ آل عمران) تک پڑھ کر مطلوب کو کسی چیز پر دم کر کے کھلائے تعداد ۳۰۳۳ بار۔ اول آخر اکیس اکیس یا گیارہ گیارہ بار درود شریف صرف ایک یوم کا ہے اور مجرب ہے حرام کے لیے نہ پڑھے ورنہ نقصان ہوگا۔

دیگر

(عمل برائے حُب مجرب ہے)

ترکیب:۔۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ لَاسْتَمِ خَوَابٍ وَخَوْرِ فُلَانٍ بِنِ فُلَانٍ فَعَلَّ رَبُّكَ مِنْ لِي كَمَا كَيْدَهُمْ لِيَسْتَمِ خَوَابٍ وَخَوْرِ فُلَانٍ بِنِ فُلَانٍ فِي تَضْلِيكَ وَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ لِي كَمَا كَيْدَهُمْ لِيَسْتَمِ خَوَابٍ وَخَوْرِ فُلَانٍ بِنِ فُلَانٍ عَلِي حُبِ فُلَانٍ بِنِ فُلَانٍ (ترکیب اول) ۴۱ مرتبہ پڑھ کر شکر سفید پر دم کرے اس عمل کو صرف ۷ یوم کرے انشاء اللہ تعالیٰ معشوق فوراً حیران و پریشانی ہو کر حاضر ہو کر شکر سفید لے کر اس کی سات پٹریاں بنائے ایک پڑیا روزانہ پڑھ کر جیونیٹیوں کو ڈالی جائے۔

دیگر

(عمل برائے حُب مجرب ہے)


ترکیب:۔۔ ایک سو ایک عدد سیاہ مرچ لے کر ہر دانے پر ایک بار پڑھے روزانہ اس عمل

کی میلاد کل (۱۲) یوم کی ہے اول آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھے مجرب ہے
 لا الہ الا اللہ کر نیس بیٹھی کو بیٹھ ندیس۔ سوتی کو سوتے ندیس مجھ بن فلاں بن
 فلاں کو آرام نہ دیس۔ یَا حَبِیْبُ یَا حَبِیْبُ یَا حَبِیْبُ

دیگر

(بولئے حبیب)


ترکیب:۔ یہ نقش محبت کے لیے عروج ماہ میں اتوار کو لکھے ساعت شمس ہو آگ
 میں چولھے کے اندر دیا جائے ایک ہفتہ تک روزانہ ایک لکھ کر دیائے اس نقش کو
 بکری کے شانہ پر لکھا جائے۔
 مجرب ہے۔



دیگر

(ہوائے حسب)

توکیب: یہ نقش لبست و لبست کا ہے (یعنی ۲۰ کا نقش ہے) حسب کے واسطے مفید ہے، تکرر بہ شرط ہے۔
نقش یہ ہے۔



العَبُّ فِلاں بن فِلاں علی حسب فِلاں بن فِلاں

دیگر ایرائے حسب

توکیب: جمعرات کے دن ساعتِ شتری میں تین توپز رکھے۔ مکہ کو پھر ایک

کر کے آگ میں تینوں کو اسی ساعت میں جلائے۔

وہ عبارت یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ه اللّٰهُمَّ اَلْفُ بَیْنِ
فَلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ كَمَا اَلْفَتْ بَیْنَ اٰدَمَ وَحَوَّاءَ وَبَیْنَ اِبْرٰهَیْمَ
وَسَارَةَ وَبَیْنَ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَضَرِيْحَةَ الْكَبْرِی
يَا رَبِّ حَبْرًا مَّيْلُ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَمَيْكَا مَيْلُ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَاسْرَافِیْلُ عَلَیْهِ السَّلَامُ
وَعَزْرَةَ مَيْلُ عَلَیْهِ السَّلَامُ اَلْفُ فِي قُلُوْبِهِمَا الْعَجَلُ الْعَجَلُ الْعَجَلُ السَّاعَةَ
السَّاعَةَ السَّاعَةَ اَلَوْحًا اَلَوْحًا اَلَوْحًا


فلاں بن فلاں کی جگہ طالب و مطلوب کا نام لکھنا چاہیے انشاء اللہ محبت
دونوں میں بہت پیدا ہو جائے گی۔

دیگر ایسے حُب

اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو اس نقش کو لکھ کر کسی درخت پر لٹکایا جائے انشاء اللہ
تھوڑے عرصہ میں میاں بیوی میں ایسی محبت ہوگی کہ لوگ تعجب کریں گے۔

یا اُولِیٰ

یا اُولِیٰ



یا اُولِیٰ

یا اُولِیٰ

دیگر

(برائے حاضری مطلوب)

یا قادی فلان بن فلان کو کہ حاضر۔ اس عمل کو دریا کے کنارے بیٹھ کر گیارہ روز تک گیارہ سو بار ہر روز پڑھے اور ہر روز اپنے ہمراہ چاول اتولہ، شکر اتولہ، گھی اتولہ لے جایا کرے۔ اور دریا میں ڈالے اور ڈالتے وقت یہ کہیے حضرت خضر علیہ السلام یہ آپ کی فاتحہ پیش کی جا رہی ہے اس کو قبول فرمائیے یہ عمل نوچندی جمعرات کو شروع کرے اور درمیان میں جو جمعرات آئے اس روز شکر انزیکا کہ کسی غریب محتاج کو کھلانے انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔

دیگر (برائے حُب)

تھوڑا سرمہ لے کر اس پر سویرۃ فاتحہ اکیس بار پڑھ کر دم کر کے اپنی آنکھوں میں لگا کر جس کے سامنے جائے وہ محبت کرنے لگے مگر اس کے دونوں کے نام اور اپنا نام اور اپنی ماں کا نام بھی ہوں۔

دیگر (برائے حُب)

توکلیب: خوشبو کے سات عدد بھول لے کر ایک ایک بھول پر سات سات بار یہ آیت پڑھ کر دم کرے اور اس کے دونوں کا نام پھر اپنی ماں کا نام اور اپنا نام

جس سے محبت کرنا چاہے اس کو وہ پھول دے تاکہ وہ اس کو سونگے۔ اسی وقت محبت کرنے لگے گا۔

وہ آیت یہ ہے۔

وَلَقَدْ قَتَلْنَا سُلَيْمَانَ وَآلَقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ

دیگر (برائے محبت)

اس دعا کو کھانے کے اوپر ستر بار دم کر کے کھلائے جس کو کھلائے وہ محبت کرنے لگے گا وہ دعا یہ ہے۔ يَا لَهْمُ مَوْنًا

بُغْضٍ وَعَدَاوَةٍ

عمل (برائے دشمنی)

ترکیب: نمک کی سات کنکریاں لے کر دونوں شخصوں کے نام مع ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ یہ آیت ہر کنکری پر سات سات مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور آگ میں ڈالے دونوں میں جدائی ہو جائے گی یہ عمل شنبہ یا سہ شنبہ کو کرنا چاہیے۔

آیت یہ ہے۔

وَجَعَلْنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ
سَدًّا أَعْيُنًا لَهُمْ لَئِيْلَ يُبْصِرُوا

دیگر (برائے دشمنی)

(سورۃ القارعہ کا عمل)

توکبیب: اگر دو شخصوں میں جدائی کرنی منظور ہو تو اس سورۃ مبارکہ یعنی سورۃ القارعہ کو ایک کچی اینٹ پر سیاہی سے لکھیں اور دریا میں ڈالیں یہ عمل سات دن تک برابر کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ اسی ہفتہ میں کامیابی ہوگی۔ سورہ مبارکہ پوری لکھنے کے بعد اس کے نیچے یہ عبارت لکھیں۔

الْبَغْضُ وَالنِّفَاقُ وَالْعِدَاوَةُ بَيْنَ فُلَانٍ بِنِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ بِنِ فُلَانٍ

دیگر (برائے دشمنی)

(عمل سورۃ لایلاف)

توکبیب: بعد نماز عشاء ترک حیوانات کے ساتھ بغیر درود شریف ۳۳۳ مرتبہ سورہ قریش کو پڑھیں مجرب ہے۔

دیگر (برائے دشمنی)

تھوڑی سی رات لے کر دو قبروں کے بیچ میں بیٹھ کر ۳۰۳ مرتبہ سورہ لایلاف پڑھ کر رات پر دم کرے اور پڑھتے وقت ان لوگوں کا نام لیتا جائے جن میں جدائی ڈالنی مقصود ہے جب فارغ ہو جائے تو اس رات کو جہاں یہ لوگ اٹھتے بیٹھتے

ہوں وہاں ڈال دے جہاں ہو جائے گی۔

دیگر ایرائے دشمنی

ترکیب: سورۃ تبت کو ۷۲ مرتبہ دو قبروں کے بیچ میں بیٹھ کر پڑھے اور سات مقام کی مٹی بردم کرے وہ سات مقام پر ہیں۔ ۱۔ گدھالوٹ۔ ۲۔ پنجر چیل۔ ۳۔ قبر، ۴۔ مسجد ویران ۵۔ ویران کنواں۔ ۶۔ چوراہا۔ ۷۔ مرگھٹ۔ ۸۔ روڈ تک برابر زوال کے وقت پڑھنا چاہیے کہ فارغ ہونے کے بعد دشمن کے مکان میں اس مٹی کو ڈال دے مجرب ہے۔

دیگر ایرائے دشمنی

(یہ نقش واسطے بغض و عداوت کے مجرب ہے)

ترکیب: اس نقش کو سہفتہ یا منگل کے دن لکھے بروقت تیار کرنے اس نقش کے دونوں تمام کی طرف خیال کر کے کہے کہ ان فلاں فلاں میں دشمنی پیدا ہو دو قبروں کے درمیان میں دفن کرنا چاہیے تعویذ مشرق کی جانب میت کے دفن ہوگا مجرب ہے

وَالْقَيْنَا	بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ	وَالْبَغْضَاءَ	إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ	وَالْبَغْضَاءَ	بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ	وَالْقَيْنَا
بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ	وَالْقَيْنَا	إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ	وَالْبَغْضَاءَ
وَالْبَغْضَاءَ	إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ	وَالْقَيْنَا	بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ

۶۲ دیگر (برائے دشمنی)

۱۰۰	۱۷	۱۰۰	۲۰	۱۰۰	۲۶	۱۰۰	۱
۱۰۰	۲۵	۱۰۰	۱۱	۱۰۰	۱۶	۱۰۰	۳۱
۱۰۰	۱۴	۱۰۰	۲۸	۱۰۰	۱۳	۱۰۰	۲۷

حق میں نقش ہمہ دشمنان تا بعد از گردیدہ تا بعد از حاضری حاضر آید
 جیسے جو تا پڑے اس نقش پر ویسے ہی جو تا پڑے جو تا مارنے والے کے
 سب دشمنوں پر بہت جلد تا بعد از ہی کے ساتھ حاضر آویں اور دل زبان عقل ہوش
 فراموش ہوں جنگ حاضر نہ آویں چین آرام حرام ہو مجرب، اور آزمودہ ہے
 تو کیب، ہفتہ یا مشکل کو زحل یا مریخ کی ساعت میں لکھے اور تنہائی کی جگہ میں ایک
 چھوٹا پتھر نیچے رکھ کر اوپر سے ایک وزنی پتھر رکھ دیا جائے مکان یا کوٹھری کے گوشے
 میں اس کو رکھا جائے پرانا اپنا استعمال کیا ہوا جو تا اس پر الٹا رکھے۔ اور دشمن ایک
 ہو یا بہت ہوں ان کے سروں پر پانچ جوتے سورج نکلنے ہی اور پانچ جوتے سورج
 ڈوبتے ہی مارے جائیں اور پھر اس کے اوپر الٹا رکھ دیا جائے (طلوع آفتاب اور
 غروب آفتاب کے وقت یہ جو تا مارنا ہے) تصور یا خیال ان تمام دشمنوں کا کہ میں ان
 کے سروں پر مار رہا ہوں اور جو تا رکھتے وقت یہ کہا جائے کہ میں تمہارے سروں پر
 رکھتا ہوں تمہیں میری اطاعت قبول کرنی ہوگی۔

دیگر (برائے دشمنی)

اگر دو شخصوں میں عداوت ڈالنا چاہتے ہوں تو اس نقش کو لکھ کر اس جگہ دفن کیا

جائے جہاں دونوں شخص ایک جا جمع ہوں اور جن دونوں میں دشمنی ڈالنا چاہیے۔ ان دونوں کا نام مع ان کی والدہ کے لکھنا چاہیے

۱۱۹۹۱۲۹۹۷۱۱۲۱۱۵۲

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعِدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْحِسَابِ
فلاں بن فلاں . فلاں بن فلاں

۱۹-۷۶ = ۱۱۵۱

دیگر برائے دشمنی

اگر کوئی چاہے کہ دو شخصوں کے درمیان عداوت ہو جائے تو پہنا ہوا کپڑا لے کر اس کا نام مع والدہ کے لکھ کر آگ میں ڈالے۔
نقش یہ ہے، مجرب ہے۔

۸	۷	۹
۷	۷	۸
۶	۲۱	۶

۱۳ ۳۹ ۸۸ ۸۸ ۹۹ ۹۸ ۸۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

فلاں بن فلاں و فلاں بن فلاں

دیگر برائے دشمنی

مغرب ہے ناحق نہ کرے۔

توکیب: چار چوراہے کی کنکریاں لے کر سینچر یا منگل کو ٹھیک بارہ بجے پڑھے یہ عمل بغیر بسم اللہ کے پڑھا جائے گا۔ اول بار گیارہ بار سورۃ البکوثر پڑھے پڑھے اور پھر ہر ٹھیکری پر گیارہ گیارہ بار ”سورۃ الفیل“ پوری پڑھے آخر میں پھر گیارہ مرتبہ ”سورۃ البکوثر“ پڑھ کر ختم کر دے ان کنکریوں پر دشمن کا نام لے کر دم کر دے جو نیت ہو اس کو سوچے، عمل ختم ہوا جس جگہ وہ دشمن بیٹھتا ہو اس کے فرش کے نیچے یا کسی اور جگہ پر ڈال دے شرط یہ ہے کہ کنکریوں پر دشمن بیٹھ جائے انشاء اللہ تعالیٰ بھاگ جائے یا شہر بدر ہو جائے۔

نوٹ: چار چوراہوں کی کنکریاں اس طرح لے تین چوراہوں کی $3 \times 3 = 9$ ، $3 \times 3 = 9$ ہر چوراہے کی یعنی ۹ کنکریاں اور چوتھے چوراہے کی دو، کل گیارہ ہوئیں۔

دیگر برائے دشمنی


(عمل برائے قطع محبت مجرب ہے)

توکیب: جس شخص کو کسی سے بے حد الفت ہو اور وہ اس سے نفرت پیدا کرنا چاہے اس عمل کو طشتری پر لکھے دن میں تین مرتبہ لکھ کر زبان سے چائے یا کاغذ پر لکھ کر دھو کر پلائے انشاء اللہ تعالیٰ مطلوب کی محبت سے نفرت ہو جائے گی۔ آزمودہ اور مجرب ہے۔

وَبِذَلِكَ نَبِّئِ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ لِيُخَلِّدَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْعَذَابِ أَلِيمٍ
 لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا نَشْهَدُ كَمَا سُوِّقَ الْفِتْنَةَ يَوْمَ هَذَا
 وَلَسِي مَا قَدَّمْتُ يَدَايَ هَذَا وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَتَنَى
 وَلَمْ نَعِدْ لَهُ عَزْمًا هَذَا فَإِنَّهُ يَنْسَاهُ وَلَا يَحْضُرُ بِبَالٍ أَبَدًا بِحَقِّي
 هَذَا الْكَلَامِ كَذَلِكَ نَسِي فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ
 بِجُرْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ه

دیگر برائے دشمنی

اگر دو آدمیوں میں تفریق و عدوت ڈالنا چاہے تو اس آیت کو بھونچ پتر



پر لکھ کر وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعِدَاةَ
 وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 پھر اس کے نیچے نقش لکھے اور اس نقش

کے نیچے یہ عبارت لکھے۔ درمیان فلاں فلاں کے تفریق ہووے اور فلاں کی
 جگہ دونوں کا نام لکھے اور تعویذ بنا کر درمیان پرانی دو قبروں کے دفن کر دے مگر
 ناحق کے لیے نہ کرے ورنہ گناہ گار ہوگا۔

دیگر برائے دشمنی

(اگر کسی عورت سے تعلق ہو جائے اور آپس میں جدائی ہو جائے)

تو کیب :- اگر کسی کو یہ منظور ہو کہ عورت میں جدائی ہو جائے تو یہ تعویذ کو سفند

(بجری) کے شانے کے اوپر لکھ کر کسی کنوئیں میں ڈال دے۔ تو ان دونوں میں
جدائی ہو جائے گی وہ یہ ہے۔

لَعَلَّكَ الْعِدَاةُ وَالْبَعْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَدَبِ الْأَعْمَىٰ بَلِيًّا وَنَالَهُ مَطْمَئِينٌ ۝ ۱۸

و جدائی و فراق فلاں بن فلاں بیفندہ

دیگر ایسے دشمنی

ترکیب: جو اس تعویذ کو بجری کے شانے کی بڑی پر لکھ کر پرانی قبر میں مشرق کی
طرف دفن کر دے تو اس سے بھی جدائی ہو جائے گی۔

وہ تعویذ یہ ہے:-

وَأَلْقَيْتَا بَيْنَهُمُ الْعِدَاةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

فراق دل فلاں بن فلاں علیٰ عداۃ فلاں بن فلاں اور اس میں بن فلاں کی جگہ
کی ماں کا نام اور عورت کی ماں کا نام لکھنا چاہیے جس طور سے کہ اوپر بیان کیا گیا ہے
اور یہ تعویذ اس شخص کے کام کے ہیں جو اس کام کو کرتا ہے۔ کس لیے کہ وہ نقش
کا لکھنا جانتا ہے اور یہ کتاب کسی کے پاس ہو تو کسی نقش کے لکھنے والے سے
دریافت کر کے آپ لکھے، یا اس سے لکھوائے اور اس کام میں لائے یہ نقش
بڑے کام کے ہیں میں نے بہت ان کا تجربہ کیا ہے۔ یہ تعویذ خطا کرنے کے نہیں ہیں۔
اگر خطا کرنے کے ہوتے، میں کبھی نہ لکھتا۔

دیگر دشمنی کے لیے

ان دونوں نعتوں کو لکھ کر پرانی قبر میں دفن کرے اور ان دونوں کا نام لکھے جن میں عداوت کا خیال ہو بہت جلد دونوں میں عداوت ہو جائے گی۔

ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف

بِعَمْرِكَ يَا قَهَّارَ يَا جَبَّارَ

اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ

فلاں بن فلاں

و

فلاں بن فلاں

فَمَلِّ	الْكُوْتِرَ	أَنَا عَطِيْنَكَ
إِنَّ	وَالنَّهْرَ	لَوَيْدِكَ
الرُّبَيْدَةَ	هُوَ	مِثْلُكَ

دیگر برائے دشمنی

اگر چاہے کہ درمیان دو شخصوں کے دروت ہو جائے تو چاہیے کہ نماز کے بعد پچاس مرتبہ بسم اللہ پڑھے اور بعد ہر دہائی کے یہ آیت :-

وَالْقِيَامَةِ

وَالْقِيَامَةِ

پڑھتا جائے۔ بعد تمام ہونے کے پھر یوں کہے علی بغض فلاں بن

فلاں و فلاں بن فلاں دونوں کا نام اور ان کی والدہ کا نام۔

دیگر برائے دشمنی

اگر دو شخصوں میں جدائی ڈالنا مقصود ہو تو اس نقش کو نزول ماہ منگل

کے دن زحل کی ساعت میں تانبے کی تختی پر کندہ کرا کے چولہے میں دفن کرے

اور آگ اس پر روشن رکھے نقش یہ ہے۔

۷	۱۳	۱۹	۲۵	۱
۲۰	۲۱	۲	۸	۱۴
۳	۹	۱۵	۱۶	۲۲
۱۱	۱۷	۲۳	۴	۱۰
۲۴	۵	۶	۱۲	۱۸

فلاں بن فلاں علی بغض فلاں بن فلاں

دونوں کی والدہ کا نام ضرور ہونا چاہیے

دیگر ابراہے دشمنی

اگر دو شخصوں میں جدائی ڈالنا منظور ہو تو اس نقش کو منگل کے دن نزولِ ماہ

زحل کی ساعت میں لکھ کر پرانی قبر میں دفن کر لے۔

انشاء اللہ جدائی ہو جائے گی نقش یہ ہے۔

يَا قَاهِرُ	ذالبيطش	الشديد	انت الذي
ذالبيطش	المشديد	انت الذي	لايطاق
الشديد	انت الذي	لايطاق	انتقامه
انت الذي	لايطاق	انتقامه	يا قاهر

فلاں بن فلاں علی فلاں بن فلاں — (دونوں کی والدہ کا نام ضرور ہونا چاہیے)

دیگر (عمل برائے دشمنی)

تو کبیب: بیفتہ کیدن دوپہر کے وقت دھوپ میں بیٹھ کر گیارہ بار گیارہ دن تک اس کو پڑھے
پڑھتے وقت جن دونوں میں جدائی ڈالنا ہو ان کا تصور دل میں رکھے۔

وَلَنْ آتِيَهُ الْفِرَاقُ وَالتَّفَتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ
اللَّهُمَّ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا كَمَا فَرَّقْتَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكَمَا

فَرَّقَتْ بَيْنَ آدَمَ قَرَابِيلَيْسَ وَكَمَا فَرَّقَتْ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَمَرْيَمَ
 وَكَمَا فَرَّقَتْ بَيْنَ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ وَكَمَا فَرَّقَتْ بَيْنَ
 مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو جَهْلٍ

بولے زبان بندی

عمل از زبان بندی

اگر اس کو پڑھے گا تو دشمن کی زبان بند ہو جائے گی اگر حاکم وقت قتل کا بھی حکم
 دے دے پڑھنے والا اس کو پڑھے تو بفضلہ تعالیٰ اپنے ارادے سے باز آئے اس
 کے اوصاف بہت سے ہیں یہاں تھوڑے سے بیان کیے گئے ہیں۔

وہ عمل یہ ہے:-

يَحْفَى لُطْفِ اللَّهِ بِلَطِيْفَتِ مَنْعِ اللَّهِ بِبَسْمِ اللَّهِ وَسِرِّ اللَّهِ وَخَلَّتْ فِي كَنَفِ
 اللَّهِ وَتَشَفَّقَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَائِمِ مُلْكِ
 اللَّهِ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ هِيَ هِيَ أَهْبِيلِ
 أَهْبَاشِ أَهْبِيشِ حَجَبَتْ كَعْبِي بِحِجَابِ اللَّهِ فَصَنَعَتْهَا بِأَيَاتِ اللَّهِ
 وَبِالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ بِحَقِّ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ جَبْرَائِيلُ عَنْ
 يَمِينِي وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِي وَأَسْرَافِيلُ مِنْ خَلْفِي وَسَيِّدٌ نَامُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامِي وَعَصَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِيَدِي فَمَنْ رَأَى نِي

هَابَنِي دَخَانَهُ مُسَلِّمًا نَعْلِيهِ السَّلَامِ عَلَى لِسَانِي فَمَنْ نَكَمْتُ وَتَوَجَّهْتُ
 إِلَيْهِ قَضَاهَا جَتِي وَتَوَجَّهْتُ يَوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَى وَجْهِ فَمَنْ دَانِي يُحْسِنِي
 وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِأَيِّ دَهْوِ الْمُسْتَعَانَ عَلَى أَعْدَائِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَبِيرُ
 الْمُتَعَالَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الرَّحْمَةِ وَكَاشَفَ الْغُمَّةَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

دیکھو

نقش واسطے زبان بندی مجرب ہے

توکبیب: اس نقش کو بروز منگل یا ہفتہ کو لکھ کر دشمن کے مکان کے دروازے کی
 چوکھٹ کے نیچے دبا دو، مجرب ہے، آزمودہ ہے۔

نقش یہ ہے:

غَشَاوَةٌ ۱۹	وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ ۱۸	وَعَلَى سَمْعِهِمْ ۱۷	خَتَمَ اللَّهُ عَلَى تَلْوِينِهِمْ ۱۶
غَشَاوَةٌ ۱۹	وَعَلَى سَمْعِهِمْ ۱۷	وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ ۱۸	خَتَمَ اللَّهُ عَلَى تَلْوِينِهِمْ ۱۶
وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ ۱۸	غَشَاوَةٌ ۱۹	خَتَمَ اللَّهُ عَلَى تَلْوِينِهِمْ ۱۶	وَعَلَى سَمْعِهِمْ ۱۷
وَعَلَى سَمْعِهِمْ ۱۷	خَتَمَ اللَّهُ عَلَى تَلْوِينِهِمْ ۱۶	غَشَاوَةٌ ۱۹	وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ ۱۸

بستم عقل و ہوش، چشم و گوش، دہن و زبان، دل و جان

فلاں بن فلاں

دیگر برائے زبان بندی

فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (بِحَقِّ)

سَوْأَيْكُمْ عَمِي فَهَمْ لَا يَرْتَدُّونَ

سَوْأَيْكُمْ عَمِي فَهَمْ لَا يَعْقِلُونَ

سَوْأَيْكُمْ عَمِي فَهَمْ لَا يَقْضُونَ

سَوْأَيْكُمْ عَمِي فَهَمْ لَا يَمْكُرُونَ

سَوْأَيْكُمْ عَمِي فَهَمْ لَا يَنْطِقُونَ

سَوْأَيْكُمْ عَمِي فَهَمْ لَا يَتَكَلَّمُونَ

سَوْأَيْكُمْ عَمِي فَهَمْ لَا يُبْصِرُونَ

برجگوش فلاں عصائے کلیم اللہ بر زبان نش فلاں مہر سلیمان پرو ہوش فلاں

خاموش، خاموش از جانب سخن کردن فلاں گنگ و کور باشد بحق کلام بیانی و بحق این

عزیمت بستم عقل و ہوش چشم و گوش دہن و زبان، دل و جان فلاں از جانب سخن

کردن فلاں۔

یہ عمل ہفتہ کی صبح کو ہوگا۔ مجرب ہے آزمودہ ہے۔

دیگر برائے زبان بندی ۱

ترکیب :- دشمن کی زبان بند کرنے کے لیے یہ آیتیں نہایت مجرب ہیں۔

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَأَعْوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ
فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ
الرَّحْمَنُ وَرَفِيَ لَهُ قَوْلًا وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ
مَنْ حَسَلَ ظُلْمًا ه

مندرجہ بالا آیتوں کی ترکیب و خواص :-

ان آیتوں کو کسی کاغذ پر رکھ کر جس کی زبان بند کرنی منظور ہو اس کا نام اس
کی ماں کا نام نیچے لکھ کر تعویذ کو کسی پرانے درخت میں لٹکانا مخالف کی زبان بند
ہونے کے لیے نہایت مجرب ہے۔

دیگر برائے زبان بندی ۱

ترکیب :- دشمن کی زبان بند کرنے کے لیے ایک کوری ٹھیکری پر ان آیتوں کو لکھ
کر کسی پرانے کنویں میں ڈالنا نہایت مجرب ہے۔ آیتیں یہ ہیں۔

سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ه

دیگر برائے زبان بندی ۱

ترکیب :- اگر کسی جابر و ظالم حاکم کی عدالت میں جانا ہو اور اس کی زبان بند کرنی ہو تو یہ

عملِ حصار سات بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کیسے اور اس کے پاس جائے۔

انشاء اللہ تعالیٰ عالم کی زبان بند ہو جائے گی۔ یہ عمل عجیب و غریب ہے۔
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ يَا إِلَهَ الْأَوْلِيَّيْنَ بَرَكْمَا رَابِدًا كَوَيْدًا بِأَنْشِ
 بَدَشُورٍ وَضَرْبَتٌ عَلَيْهِ عَصَاً وَمُوسَىٰ بِرُجُلِهِ أَرَدَهُ حَضْرَتٌ كَرَكْرِيًّا
 وَبَرَكْمَتٌ كَوْمَ حَضْرَتٌ أَيُّوبُ وَوَدَّ وَهَشَّ مَهْرٍ حَضْرَتٌ سَلِيْمَانُ
 وَبَرَكْمَتٌ نَقْلُ رِيحَالِ الْغَيْبِ وَبَرَكْمَتٌ قَهْرُ خُدَايَةَ جَبَّارُ وَ
 قَهْرُ رِيحَالِ الْغَيْبِ وَبَرَكْمَتٌ قَهْرُ خُدَايَةَ جَبَّارُ وَ
 مَا تَصِفُونَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

دیگر نقش زبان بندی

جو شخص اس نقش کو ساعتِ زیرہ میں لکھ کر اپنے سیدھے بازو پر باندھے گا تو
 انشاء اللہ دشمنوں کی زبان بند رہے گی۔
 وہ نقش یہ ہے :-

۲۰۹	۲۰۴	۲۱۱
۲۱۰	۲۰۸	۲۰۶
۲۰۵	۲۱۲	۲۰۷

دیگر

(برائے ہزیمت دشمن)

صَلِّ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ دُشْمَانِ كِي هَزِيمَتِ ذَهَابِ كِي
یہ دن کے بارہ بجے اس عمل کو ۱۰ بار پڑھے اور ہر دہائی پر دشمن کا تصور کر
کے ۳، ۳ ضربیں مارتا جائے اور ہر دہائی پر ضربیں جانا مارا پر ماری چاہیں۔ لیکن آخری
دہائی پر رگے دشمن کا تصور کر کے زمین پر ضربیں مارے اور ہاتھ کو زمین پر
بار بار ملے اقل و آخر گیارہ گیارہ بار یہ درود شریف پڑھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَاهِرِينَ عَلَى أَعْدَائِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ترقی رزق

دیگر

(برائے ترقی رزق)

ترکیب: جس شخص کا روزگار نہ ہو یا ملازمت یا ذریعہ معاش نہ ہو تو یہ عمل اکسیر
کا حکم رکھتا ہے۔ صبح نماز کے بعد یا بعد از نماز پڑھا جائے گا تعداد ایک سو ایک
مرتبہ اقل آخر اس کے درود شریف گیارہ گیارہ بار چالیس روز پورے نہ ہوں گے
انشاء اللہ غیب سے کوئی سامان ملازمت یا کوئی ذریعہ معاش ظہور میں آجائے گا
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا مُسَيَّبَ الْأَسْبَابِ وَيَا مُفْتِيحَ الْأَبْوَابِ

وَيَا مَقْلِبَ الْقُلُوبِ وَيَا خَالِقَ الْأَبْصَارِ وَيَا ذَلِيلَ الْمُتَحَدِّثِينَ
 أَسْأَلُكَ بِشِدَّتِي وَيَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَعِثْنِي تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ يَا
 رَبِّ اقْوِضْ أَمْرِي إِلَيْكَ -

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ - بِحَقِّ آيَاتِكَ
 نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

دیگر

ابراہیم ترقی رزق

ترکیب: اگر اس کو معمولی طریقے سے (روزانہ پڑھنا ہو) پڑھنا ہے تو اس کی ترکیب
 یہ ہے فجر کی نماز کے بعد اول اسمِ یَالَطِيفُ ۱۲۹ بار پڑھ کر معہ تسمیہ (یعنی بسم اللہ
 کے ساتھ) اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۝ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ
 ایک بار پڑھے بعد اس دعا کو گیارہ بار پڑھ کر دعا کرے اور کسی معاملہ یا زبردست
 کام کے لیے پڑھنا ہے تو اس دعا کو ۳۳۰۳ مرتبہ ایک بیٹھک سے مراد ایک
 پہلو سے بیٹھنا ہے جس طرح شروع میں بیٹھا ہے اسی طرح آخر تک بیٹھا
 رہے گا، بے جگہ نہیں انشاء اللہ مراد پوری ہوگی۔

اللَّهُمَّ يَا مُسَخِّرَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَنْ فِيهِنَّ
 وَمَنْ عَلَيْهِنَّ سَخِّرْ لِي كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عِبَادِكَ مِتَانِي بَرَكًا تَجْرِكُ عَنِّي
 لَا يَكُونُ شَيْءٌ عَنِّي الْكُونِ كَانَ مُتَحَرِّكًا أَوْ سَاكِنًا أَوْ صَامِتًا أَوْ مُطَقًّا ظَاهِرًا
 أَوْ بَاطِنًا إِلَّا سَخَّرْتَهُ لِي بِبَرَكَتِكَ إِسْمِكَ الْلطِيفِ الْمَكْنُونِ يَا أَلَدَّيَا

يَا قَوْمِ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ط فَسَبِّحْهُنَّ الَّذِي
بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ط

اس عمل کو نوچندی جمعرات سے شروع کرنا چاہیے عرصہ ماہ (شروع ہینہ) میں

دیگر

(برائے ترقی رزق)

ترکیب ۱۔ آیت مندرجہ ذیل کی ۷ کلوۃ اتوار کی رات عشاء کی نماز کے بعد
تنہائی میں دو رکعت نماز نفل ادا کرے اور سورہ فاتحہ کے بعد ۲۱ بار یہ آیت پڑھے۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ه فَتَقْبَلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ وَّ اٰیٰتِهَا نَبَاۡتًا
حَسَنًا وَّ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كَلِمًا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَ حَارِثَتَا
نماز کے بعد ۲۵ بار اس آیت وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ط وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بِالْاٰمْرِ
اَمْرٍ هٗ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ه پڑھے اور جمعے میں سر رکھے
سو بار کیا و اسے کہے اور اس کے بعد ۷۵ بار ہر روز آیت مذکورہ تنہائی میں پڑھتا
رہے خدا کے فضل سے بلا واسطہ رزق اس کو پہنچتا رہے گا۔ مجرب ہے۔
یہ عمل جس روز چاند دیکھے اسی روز سے شروع کرے۔

دیگر

(برائے ترقی رزق)

ترکیب ۱۔ بعد نماز فجر آسمان کے نیچے ایک سو ایک بار پڑھے۔ اقل آخورد شریف

گیارہ بار پڑھے۔

يَا بَدِيْعُ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ اللهُ الصَّدُوَّةُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا حَفِيْظُ
يَا رَزَاقُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ أَنْوَاعَ الرِّزْقِ وَالْفَتْوحَاتِ-

دیگر

(برائے ترقی رزق)

ترکیب: بعد نماز جمعہ سات مرتبہ پڑھا جائے گا بلا ناغہ۔

يَا اللهُ - يَا سَمِيعُ - يَا عَلِيمُ يَا سَرِيعُ الْحِسَابِ - يَا وَاسِعُ يَا عَدْلُ يَا عَلِيُّ يَا
عَظِيمُ - يَا مُتَعَالٍ - يَا عَزِيزُ - يَا غَفُورُ - يَا بَاعِثُ - يَا فَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ - يَا
رَافِعُ يَا مُعِيدُ - يَا مَانِعُ - يَا نَافِعُ - يَا جَامِعُ - يَا بَدِيْعُ -

موجب ہے۔

دیگر

(برائے ترقی رزق)

ترکیب: نماز جمعہ کے بعد اول آخر ۳، ۳ بار درود شریف پڑھ کر یہ دعا ۷۰ بار
پڑھے، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہ ہونے پائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو نگر بنا دے
گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ سلام کے بعد اسی طریقے سے بیٹھا رہے اور کوئی پہلو نہ بدے


نہ کسی طرف دیکھے ورنہ اس عمل کی تاثیر ضائع ہو جائے گی موجب ہے۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

دیگر

(برائے ترقی رزق)

ترکیب: نوچندی جہرات کو مکہ کرلو بان کی دعوتی دیگر عطر لگا کر بازو پر بندھے
نقش یہ ہے



دیگر

(برائے ترقی رزق)

ترکیب: یا وھاب اگر کوئی چاہے کہ محتاجگی دور ہو جائے اور غنی ہو جائے
تو اس اسم کو ہر روز چالیس روز تک برابر چار ہزار چار سو چالیس بار پڑھے۔
خدا کے فضل سے ایک ہی ہفتہ میں رزق کی ترقی ہو جائے گی یہ دعا حضرت
سلیمان علیہ السلام کی ہے اول آخر دس دس بار درود شریف پڑھے بہت
مال دار ہوگا اور پڑھنے کے وقت موکل کو قسم دیدے۔ اور اول و آخر اس
روش کو شروع کرے۔

يَا زَيْنَابُ يَا زَيْنَابُ يَا زَيْنَابُ

بِحَقِّ يَا زَيْنَابُ

دیگر

(برائے ترقی رزق)

جو شخص فجر یا عشاء کی نماز کے بعد بِالطَّيِّفِ کو ایک سو انیس مرتبہ پڑھ کر پھر ایک سو انیس مرتبہ یہ آیت کریمہ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ہ پڑھے اول و آخر گیا یہ گیارہ مرتبہ درود شریف۔

انشاء اللہ تعالیٰ غیب سے روزی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔

دیگر

(برائے ترقی رزق)

سُبْحَانَ اللَّهِ مَلَاءِ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغِ الْوَضَاعَةِ وَزِينَةِ الْعَمْرِش۔
جو شخص چاہے میری عمر زیادہ ہو جائے اور دشمنوں پر فتح پائے اور رزق میں ترقی ہو اور مردہ سے عذاب دور ہو جائے پس صبح و شام اوپر کی دعائیں مرتبہ پڑھے۔

دیگر

(برائے ترقی رزق)

جو شخص اس کو پڑھے گا اس کو ہر کام میں ترقی ہوگی دشمنوں پر غالب رہے

گاہ یہ ہے۔

يَا رَحِيمُ كُلِّ صَدْرٍ حَمِيحٍ وَمَتْرُوبٍ غِيَاثُهُ وَمَعَاذُهُ يَا مَرْحُومُ -

ترکیب ۱۔ اس عمل کی یہ ہے کہ چاند کی طرف پہلی تاریخ کو صبح کو ۳۰ مرتبہ پڑھے اور دوسری تاریخ سے ۲۹ تاریخ تک صبح کو ۳۶۰ مرتبہ پڑھے اور اگر ۲۹ تاریخ کو چاند نہ ہو تو ۳۰ تاریخ کو بھی ۳۶۰ مرتبہ پڑھے۔ اور پھر پہلی تاریخ کو صبح کو ۳۰ مرتبہ پڑھے یہ عمل مجرب ہے اول و آخر دس دس بار درود شریف پڑھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَاهِرِينَ عَلَى أَهْلِ آدَمَ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

ترکیب ۲۔ درود اول مرتبہ یہ درود شریف دس مرتبہ پڑھے کہ دس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور یہ عمل شروع کرے آخر میں یہی درود شریف پڑھے کہ ختم کر دیا جائے بسم اللہ نہ پڑھے۔

دیگر

(واسطے کسائش رزق)

اللَّهُمَّ يَجْعَلْ بَيْنَنَا وَرَبَّنَا ثَمَرًا يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ
قَالَ اللَّهُ مَلِكُ الْمَلِكِ تَوَتَّى الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءُ وَتَذَرُ الْمَلِكِ
مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مِنْ تَشَاءُ وَتُدَالُّ مِنْ تَشَاءُ بِبَيْدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تَوْلِيحُ الْبَيْلِ فِي النَّهَارِ وَتَوْلِيحُ النَّهَارِ فِي الْبَيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْبَيْتِ وَتُخْرِجُ الْبَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَتُدْنِقُ
مِنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ سَبَابٍ ه

اس کو دس مرتبہ پڑھے اس کے بعد پھر اس دعا کو تین مرتبہ اس طرح پڑھے۔
 اللَّهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ كَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ رَحْمَنَ
 الدُّنْيَا وَرَحِيمَهَا أَنْتَ تَرْحَمُنِي فَارْحَمْنِي بِرَحْمَةٍ تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ
 مَنْ سِوَاكَ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءٍ وَتَنْزِعُ
 الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءٍ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
 إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تُعْطِيهِمَا مِنْ تَشَاءٍ
 وَتَسَعُّهُمَا مِنْ تَشَاءٍ ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ
 مَنْ سِوَاكَ -

ترکیب عمل: عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد دو رکعت سنت پڑھ کر اس عمل
 کو شروع کرے عمل ختم کر کے پھر وتر ادا کرے (یعنی سنت اور وتر کے درمیان
 یہ عمل پڑھا جائے گا)

دیگر

(برائے ترقی رزق)

ترکیب: ۱۔ فراخی رزق کے لیے ترقی درجات کے لیے ایک ہزار مرتبہ اس
 آیت شریفہ روزانہ پڑھنا نہایت مجرب عمل ہے۔
 وَفِي السَّمَاءِ يُنزَّلُ مَاءٌ مَكْرُومٌ وَمِمَّا نُوعِدُونَ فِي السَّمَاءِ وَ
 الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ
 اس عمل کو ہمیشہ کیا جائے نہایت مجرب ہے۔

دیگر

(برائے ترقی رزق)

ترکیب ایسے عمل ترقی رزق کے لیے جو بے غم کی نماز کے بعد ۴۵ مرتبہ روزانہ پڑھے۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے۔
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ
 وَالْبَاطِنُ ۙ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیْمٌ ۙ

دیگر

(برائے ترقی رزق)

بعد نماز فجر سو بار اللہ الصمد اول و آخر درود شریف ۱۱، ۱۱ مرتبہ پڑھا کرے انشاء اللہ تعالیٰ اس کا رزق زیادہ ہوگا اور قرض بھی ادا ہو جائے گا۔

دیگر

(برائے ترقی رزق)

جو شخص بعد نماز فجر سو بار لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِیْمِ ۙ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے رزق میں ترقی عطا فرمائے گا۔

دیگر

ابراہیم کٹکٹاش رزق

صبح بعد نماز فجر تین بار اور شام بعد نماز مغرب تین بار پڑھے گا تو انشاء اللہ
اس کے رزق میں کٹکٹاش ہوگی۔ وہ یہ دعا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰهُمَّ اَعْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَوَسِّعْ
عَلَيَّ رِزْقِيْ وَاقْدِرْ لِيْ عَلٰی كَسْبِهِ وَمَتِّعْنِيْ بِبَارِكَتِهِ قَتْنِيْ فَلَا تَخْلِنِيْ
فِيْمَا صَرَفْتَهُ عَنِّيْ يَا رَحْمٰ الرَّاحِمِيْنَ ۝ وَصَلِّ اللّٰهُ عَلٰی سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ اَجْمَعِيْنَ ۝

دیگر

ابراہیم ترقی رزق

بعد نماز جمعہ سو بار اس دعا کو پڑھے تو انشاء اللہ رزق میں ترقی ہوگی اور
اگر روزانہ سو بار پڑھتا رہے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ مخلوق سے بے پروا رہے گا۔

وہ دعا یہ ہے
اللّٰهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا حَمِيْدُ يَا مُبْدِيُّ يَا مَبِيْدُ يَا رَحِيْمُ يَا
رُدُوْدُ اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِيْ مِحْلَاكُ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ
عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَاغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَنْ سِوَاكَ بِرَحْمَتِكَ
يَا رَحْمٰ الرَّاحِمِيْنَ ۝

دیگر

(برائے فتوحات یعنی ترقی رزق)

تین مرتبہ بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب تین مرتبہ جو اس کو پڑھے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ غیب سے روزی ملے گی وہ دعا یہ ہے۔

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ ابْتَدَيْتُ وَبِكَرَمِكَ اُقْتَدَيْتُ وَبِنُورِكَ
قُدِّسْتُ وَبِقُدْرَتِكَ اِسْتَعْنَيْتُ وَاسْتَغْفِرُكَ
وَآتُوبُ إِلَيْكَ ط

دیگر

(برائے ترقی رزق) عمل سورہ یس شریف

ترکیب ۱۔ جو اس کو روزانہ پڑھے گا تو حق تعالیٰ اس کے رزق میں اور کاروبار میں دوگنی جوگنی ترقی فرمائے گا مگر غلوں شرط ہے۔

ترکیب عمل :- بعد نماز مغرب آٹھ رکعتیں بہ نیت صلوة الاوابین پڑھے اور ہر رکعت میں جو طریقہ بیان کیا جاتا ہے اس کے موافق عمل کیا جائے وہ یہ ہے۔

پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد یسحہ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ سے لے کر

فَبَشِّرْهُ بِبَشِيرَةٍ وَاَجْرٍ كَرِيمٍ تک دوسری رکعت میں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي

الْحَيٰوةَ وَهُوَ مَهْتَدٌ وَنَہ تک تیسری رکعت میں وَمَالٍ لَّا يَبْسُ

جَمِيْعٌ لِّدٰىنِنَا مَحْضَرُوْنَ تک چوتھی رکعت میں وَاِيۡهٖ لِهٖمُ الْاَرْضُ مِمَّنۡبِتۡہَا

وَكُلُّ فِي الْفُلِّ يَسْبَحُونَ تک۔ پانچویں رکعت میں وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا
 وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ تک بھی رکعت میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ سے ہذا
 صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ تک ساتویں رکعت میں وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ فِئْمَةٌ
 كَثِيرًا مَّا يَكُونُ ہ تک آٹھویں رکعت میں وَذَلَّلْنَاهَا لِمَا سَكَبَ مِنْ فَرْثِهَا وَالْيَهُودُ
 تک مذکورہ بالا عمل کو دو رکعتوں کی نیت کرے اور پوری آٹھ رکعتیں اسی طرح
 پڑھے۔ مجرب ہے۔

دیگر

(برائے ترقی رزق) (عمل سورۃ منزل شریف)

سورہ منزل شریف کا پہلا طریقہ۔ فجر کی نماز کے بعد سورۃ منزل ایک دفعہ
 پڑھے گا اور رکھے اور ان چار آیتوں کو تین تین دفعہ پڑھا کرے (اول) مَا بَشَرُ
 الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا إِلَهُهُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (دوم) وَاللَّهُ يَعْدِلُ
 أَيْلًا وَالنَّهَارُ (سوم) يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ جِهَانًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ جب تمام ہو جو حاجت چاہے برائے۔

سورہ منزل شریف کا دوسرا طریقہ۔ جس وقت اس سورہ مبارکہ کو کسی بہادر کسی
 حاجت کے لیے پڑھے تو اس ترکیب سے پڑھے کہ پڑھتے وقت رَبُّ الْمَشْرِقِ
 سے وَكِيلًا تک پڑھ کر حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ سورہ ترتیب پڑھے اور
 جب وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پڑھنے تو اسی پر سے
 جملہ کی سورہ ترتیب تکرار کرے اس ترکیب سے ۳ مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھے اس کے بعد

یا مَعْنٰی یا مَعْطٰی گوید سومر تیر پڑھے اول و آخر یہ درود شریف پڑھے۔

اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ
 وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ گیارہ گیارہ مرتبہ اس درود شریف
 کو پڑھنا چاہیے جب پڑھ کر فارغ ہو جائے تو سجدہ میں جا کر اپنا مقصد اللہ تعالیٰ
 سے طلب کرے اور اگر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو سجدہ میں دعا کرتے وقت
 اس طرح دعا مانگے۔ یا مَقْلِبِ الْقُلُوْبِ قَلِبِ اِلٰی یَعْنٰی فُلان
 بن فُلان مِنْ رَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ۔

سورۃ منزل شریف کا تیسرا طریقہ۔ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان
 میں ایک مرتبہ سورۃ منزل شریف پڑھے۔ اور جب فرض ادا کر چکے تو دو مرتبہ
 اور پڑھے اسی طرح ہر نماز کے بعد دو مرتبہ پڑھا کرے۔ اس طرح اس کی تعداد
 کل گیارہ مرتبہ ہوگی اول آخر دو شریف میں تین بار یا پانچ بار یا گیارہ گیارہ بار
 پڑھے۔ اس کا اور ہمیشہ رکعۃ الشاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی دور ہوگی اور
 رزق میں ترقی ہوگی۔ حبیب کے لیے اسی سورۃ مبارک کو اہم بار پڑھ کر کسی
 شیرینی پر دم کر کے کھلائے۔ یا کسی اور چیز پر پڑھ کر دم کر کے پلاسٹک انشاء اللہ
 تعالیٰ مقصد میں کامیابی ہوگی۔

دیگر

(برائے اداسی و غرض)

مشاد کی نماز سے فارغ ہو کر جب سونے کا ارادہ کرے تب با وضو چیت لیت کر اپنے

بستر پر آیتہ الکرسی ایک سو ستر بار، اول یا فردوس شریف گیارہ گیارہ بار پڑھے۔ انشاء اللہ
تعالیٰ قرض ادا ہو جائے گا۔ ۲۰ روز اس کو پڑھے۔

دیگر

(برائے ادائیگی قرض)

ترکیب: ۱۰ عشاء کی نماز پڑھ کر اسی جگہ پر سورۃ نصر یعنی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ
وَ الْفَتْحُ كُوْنُ ۱۴ بار ۱۴ روز تک برابر پڑھیں انشاء اللہ تعالیٰ قرض سے سبکدوش ہو
جائیں گے۔ مجرب و اکسیر ہے۔ اول و آخر گیارہ گیارہ بار فردوس شریف پڑھیں۔

دیگر

(برائے ادائیگی قرض)

ترکیب: ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرے۔ مجرب ہے۔
يَا اللَّهُ يَا أَحَدٌ. وَاحِدٌ. يَا مَوْجُودٌ يَا جَوَادٌ يَا بَاسِطٌ يَا كَرِيمٌ يَا
وَقَّابٌ يَا ذَا الطَّوْلِ يَا غَنِيٌّ يَا مُغْنِيٌّ يَا فَتَّاحٌ يَا رِزَّاقٌ يَا عَلِيمٌ يَا حَيُّ يَا
يَوْمُومٌ يَا رَحْمَنٌ يَا رَحِيمٌ يَا بَدِيْعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا نَفِيْسِي مِنْكَ يَا نَفِيْسِي خَيْرِ تَغْنِيْنِي بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ
نَعْسِي اللَّهُ إِنْ يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ إِنْ يَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ
جَاءَكُمْ الْفَتْحُ إِنْ أَنْتَ حَالِكٌ فَتَحَّمِبِينَاهُ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ
قَرِيْبٌ اللَّهُمَّ يَا غَنِيٌّ يَا مُغْنِيٌّ يَا مَبْدِيٌّ يَا مَعِيْدٌ يَا دُوْدٌ يَا ذَا الْعَرْشِ

الْبَجِيدُ - يَا فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ - أَغْنِي بِحَلَالِكَ عَن حَرَامِكَ وَأَغْنِي
بِقَضِيكَ عَمَّن سِوَاكَ وَأَحْفِظْنِي بِمَا حَفِظْتَ بِهِ الذِّكْرَ وَأَنْصُرْنِي
بِمَا أَنْصَرْتَ بِهِ الرُّسُلَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَصَلَّى اللهُ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

دیگر

(برائے ادائیگی قرض)

ترکیب: جو شخص ہر نماز کے بعد بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ایک مرتبہ قُلِ
اللّٰهُمَّ مَا لِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ
تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلِّقُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ تُوَجِّعُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوَجِّعُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ
مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَوَسِّعُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
یہ آیت شریف پانچ مرتبہ پڑھ لیا کرے، تو وہ انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد قرض
سے سبکدوش ہو جائے گا۔

دیگر

(برائے ادائیگی قرض)

ترکیب: جو کوئی سحر کے وقت یعنی رات کے پچھلے پچھلے صفحے میں دعا پڑھے۔
اس کا قرض ادا اور روزی فراخ ہو جائے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُمَا بِيَدِكَ لَا
 يَمْلِكُهُمَا أَحَدٌ سِوَاكَ اللَّهُمَّ اقْضِ دِينِي وَوَسِّعْ عَلَيَّ رِزْقِي ۝

دیگر

(برائے ادائے قرض)

ترکیب: جو اس دعا کو فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ستر بار
 پڑھے گا، وہ دعا یہ ہے۔

اللَّهُمَّ فَالِقِ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلِ الْيَلَّ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
 حُسْبَانًا اقْضِ عَنِّي الذِّينَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ وَمَتَّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي
 وَقُوَّتِي فِي سَبِيلِكَ ۝

برائے آسیب


یہ نقش آسیب زدہ کے واسطے مجرب اور مفید ہے لکھ کر عورت
 کی چوٹی میں باندھے۔

اور اگر بچے کو نظر بد ہو جائے تو یہ نقش معظم گلے میں ڈال دیں۔

(وہ نقش اگلے صفحہ پر ہے)

وہ نقش یہ ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
رِف



دیگر

(برائے آسیب زدہ)

ترکیب۔۔ اس نقش کو با وضو لکھ کر بیمار کے گلے میں ڈالے خدا کے فضل و کرم سے فوراً آرام ہو جائے گا مجرب اور آزمودہ ہے۔

بجی جبرائیل

۵	۱۱	۹	۱۱	۱۲۸	۱۲۸
۲۳	۳۲۲	۹۹	۱۲۸	۱۲۸	۱۲۸
۱۲۳	۲۸	۷۵	۸۸	۸۸	۸۸
۴	۱۱۶۱	۲۸	۱۲۸	۱۲۸	۱۲۸


بجی جبرائیل

بجی جبرائیل

دیگر

(برائے آسیب)

ترکیب ۱۔ اس نلیتہ کو لکھ کر سرسوں کے تیل میں کورسے چراغ میں روشن کرے اور
مریض اس روشنی کو دیکھتا رہے ختم ہونے کے بعد چراغ بحفاظت رکھے اور دوسرے
روز اور تیسرے روز بھی اسی طرح عمل کرے اس کو روشن کرنے کا وقت بعد مغرب
یا بعد عشاء ہے بالکل تنہائی میں اسے روشن کرے۔



دیگر

(برائے آسیب)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَلِيْقًا مَّيِيْقًا طَيِّبًا اَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قُلُوْبِهِمْ اَلْعَجَلِ
 اَلْعَجَلِ اَلْعَجَلِ اَلْوَحَا اَلْوَحَا اَلْوَحَا اَلْوَحَا اَلْوَحَا اَلْوَحَا اَلْوَحَا
 نَمْرُوْدًا، هَامَانًا، فَرَعُوْنَ، شَدَادًا، اَبُوْجَهْلًا مِنْ جُنُوْدِ اِبْلِیْسِ
 اَجْتَعُوْنَ بِحَقِّ خَاتَمِ سُلَيْمٰنَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

دھوچہ دد بدن آسیب زدہ باشد بند کردہ موکلان
 فلیتہ درین چراغ بستہ بیارند و سوزانند خاکستر
 گردد دفع شود۔


ترکیب: اس فلیتہ کو کورے چراغ میں سرسوں کاتیل ڈال کر مغرب یا عشاء کے
 بعد روشن کیا جائے اور مریض اس کو دیکھتا رہے۔ تین یا پانچ یا سات روز
 برابر کیا جائے۔ انشاء اللہ مریض شفا پائے گا۔

دیگر

(برائے آسیب)

ترکیب: اس فلیتہ کو کورے چراغ میں سرسوں کاتیل ڈال کر روشن کیا جائے
 اور مریض اس کو دیکھتا رہے۔

تین یا پانچ یا سات روز برابر کیا جائے۔



ہر قسم آسیب جن بھوت پریت خبیث و پڑیل در و جوہر آسیب زدہ فلاں بن فلاں
منسطورہ شدہ باشد موکلان نلیتہ دریں چراغ بستہ بیارند و سوختہ و خاکستر گردد

دیگر

(برائے آسیب)

ترکیب اس نلیتہ کو کورے چراغ میں سرسوں کا تیل ڈال کر مغرب یا عشاء
کے بعد روشن کیا جائے اور مریض اس کو دیکھتا رہے۔

تین یا پانچ یا سات روز تک کیا جائے۔



نمرد	نمرد	نمرد	نمرد
نمرد	ابو جہل	ابو جہل	ابو جہل
فرعون	فرعون	نمرد	نمرد
شداو	شداو	شداو	فرعون
ابلیس	علیقا	علیقا	علیقا

ہرچہرہ آسیب درد جو دایں علی
نلاں بنت نلاں خاکستر و سوختہ گورد

محل

دیگر

(برائے آسیب)

ترکیب ان آیتوں کو لکھ کر آسیب زدہ کے گلے میں ڈالے، انشاء اللہ تعالیٰ
آسیب کا اثر جاتا رہے گا۔

وہ آیتیں یہ ہیں۔

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ
اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُوهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ

الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
 هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلَمَّكَ الْقُدُّوسَ السَّلَامَ الْمُؤْمِنَ
 الْمُهَيَّبِينَ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
 هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ
 لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قُلْ
 أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا
 قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا
 أَحَدًا وَدَأْبُ نَحْنُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا
 وَأَنْتَ يَا قَوْمِ إِيَّاكَ سَفِهْتُمُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا

دیگر

(برائے آسیب زدہ)

ترکیب اس فلیتہ کو لکھ کر کچی گھانی کاتیل لے کر کورے چراغ میں روشن کرے
 آسیب زدہ چراغ کی روشنی کو برابر دیکھے جس وقت تک فلیتہ ختم نہ ہو فلیتہ کو
 نیلا رنگ کا دھاگہ لپیٹ کر دیوے یعنی کچا سوت لپیٹے مغرب یا عشاء کے بعد
 روشن کرے، یا ۹ روز تک مسلسل روشن کرے عبارت یہ لکھے۔
 عَلِيمًا مَلِيْقًا أَنْتَ الْعَلِيمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مَلِيْقًا فَرَحُونَ هَامَانَ
 شَدَادَ تَمْرُودَ عَوْدًا دَقِيًّا نَوْسَ بَيْبُورَ مَيْجُونَ لَعِينَ يَا مَلْعُونَتَانِي
 تَارِجَهُنَّو دَقَعَ أُمَّ الْقَيْبِيَانِ الْخَنَّاسِ مِنْ جُنُودِ وَإِبْلِيْسِ۔

دیگر

(دفع شیطا طین و حین)

ترکیب بد اس نقش کو لکھ کر قیدہ بنائے اور قیدہ کے لپٹنے میں کلمہ بحق کے کونے کی طرف سے شروع کرے اور اظہر کے کونے پر ختم کرے اور اظہر کی طرف سے ہی روشن کرے اور اظہر والے کونے پر سیاہی کا نشان ڈال دے اور یاد کر کے سیاہی والے نقطہ کی طرف سے روشن کرے اور آخر دن تک اس کا خیال رکھے فلیتہ کو روٹی میں پیٹ لے اور کورے چراغ میں تلوں کا تیل یا چنبیلی کا تیل ڈال کر قیدہ کو روشن کرے اور مریض چراغ کی طرف دیکھتا رہے۔ مغرب یا عشاء کے بعد روشن کیا جائے تنہائی میں بیٹھ کر ۹ یا ۱۱ روز تک روشن کرے مریض دیکھتے وقت روشنی کا خیال رکھے کہ کس کس رنگ کی روشنی نظر آتی ہے اور کوئی تصویر بھی نظر آتی ہے یا نہیں اس کے بعد جب اصل روشنی نظر آنے لگے تو سمجھے کہ اب مریض کو صحت ہو رہی ہے پہلے روز چراغ ڈیڑھ گھنٹہ تک روشن رہے گا اس کے بعد ہر روز وقت گھٹے گا اور آخر دن کل دس یا پندرہ منٹ تک ہی روشن رہے گا تو سمجھ لے کہ مریض ٹھیک ہو گیا وہ نقش یہ ہے۔

اللَّهُمَّ احرق الشیاطین

۱۳	۳	۲	۱۶
۸	۱۰	۱۱	۵
۱۲	۶	۷	۹
۱	۱۵	۱۴	۴

کلمہ بحق

اظہر

کلمہ بحق

دیگر

(برائے آسیب)

ترکیب اس تعویذ کو لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالے بغضہ تعالیٰ فائدہ کثیر ہوگا۔ وہ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۷۸۲۲	۷۸۱۷	۷۸۲۴
۷۸۲۳	۷۸۲۱	۷۸۱۹
۷۸۱۸	۷۸۲۵	۷۸۲۰

دیگر

(برائے آسیب)

ترکیب اس نیتہ کو لکھ کر نیلا ڈورا لپیٹنے اور کونلوں کی آگ پر لکھ کر آسیب زدہ کے نتھنوں میں دھواں دس بار مریض کا نام سحر اس کی ماں کے نیتہ کی پشت پر لکھے۔ وہ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۱۱۶	۱۱۴	۱۱۳	۱۱۵
۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳
۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳
۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳
۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳
۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳
۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳
۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳

دیگر

(برائے آسیب)

اگر موزمین کا نقش آسیب زدہ کے گلے میں یا بازو پر بانہر سے تو انشاء اللہ
تعالیٰ شفا ہوگی۔ وہ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۳۶۸۹	۳۶۹۲	۳۶۰۵	۳۶۸۲
۳۶۹۳	۳۶۸۳	۳۶۸۸	۳۶۹۴
۳۶۸۴	۳۶۹۷	۳۶۹۰	۳۶۸۷
۳۶۹۱	۳۶۸۶	۳۶۸۵	۳۶۹۶

بحق این نقش هر قسم آسیب و فخر بد
و هر مرض درد و جود این را دفع شود دفع شود دفع شود

دیگر

(برائے آسیب)

ترکیب :- انس قتیہ کو بنا کر ناک میں دھونی دے مجرب ہے۔
ابلیس۔ فرعون۔ سکراؤ۔ مامان۔ جنان۔ کاو۔ نعم اللہ العظیم

۱۲۴۶ ۱۰۴۶ ۱۱۲۴ ۱۱۴۶ ۱۱۶۴ ۱۱۸۲

دیگر

(برائے آسیب)

ترکیب اس کو لکھ کر قید بنا کر ناک میں دھونی دے۔

۷۱۹ ۸۷۸۸۸۸ ۴۴۴ ۳۳ ۳۳
 عِدْقًا مَدِيْقًا عَلِيْقًا اَنْتَ الْعِلْمُ مَا فِي قَلْبِهِمْ شَدَادَةُ الْعَيْنِ
 اَبْلِيْسُ لَعِيْنُ نَمْرُوْدُ لَعِيْنُ فِرْعَوْنُ لَعِيْنُ هَامَانَ لَعِيْنُ
 هِرْعَاتٍ کہ شروع بسوز و بجزمت سلیمان بن داؤد علیہ السلام

دیگر

(برائے آسیب زدہ)

ترکیب اس نقش کو لکھ کر نیت بنا کر ناک میں دھونی دے۔ مجرب ہے
 انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہو جائے گی، نقش یہ ہے۔

ابلیس	فرعون	ہامان	فرعون	ابلیس
فرعون	ابلیس	فرعون	ہامان	فرعون
ابلیس	فرعون	ہامان	فرعون	ابلیس

دیگر

(برائے آسیب زدہ)

ترکیب ۱۱۔ اس نلیتہ کو کورے چراغ میں سرسوں کا تیل ڈال کر مغزوب یا عشاء کے بعد روشن کیا جائے اور مریض اس کو دیکھتا رہے۔
تین یا پانچ یا سات روز تک کیا جائے۔

۱۱	۸	۱۲	۱۳
۲	۱۳	۱۲	۷
۱۶	۳	۶	۹
۵	۱۰	۱۵	۷

ہر قسم کے آسیب، جن، مہموت، پیریت و خبیث و چڑیل در وجود فلاں بنت فلاں مسطورہ شدہ باشد موکلاں نلیتہ در این چراغ بستہ بیارند بحق علیقا علیقا طلایقا انت تعلم ما فی قلوبہم و سرخستہ خاکستر گرد و دفع شود۔

دیگر

(برائے آسیب)

ترکیب ۱۲۔ اس نقش کو لگو کر نلیتہ بنا دے اور بعد نماز مغرب یا عشاء کے کورے چراغ میں سرسوں کا تیل ڈال کر روشن کر کے مریض کے سامنے

رکھے پھر مریض اس کو برابر دیکھے۔ جب ختم ہو جائے تو چراغ کو بحفاظت رکھے۔ پھر دوسرے دن اس طرح روشن کرے، غرض سات دن یا نو یا گیارہ۔ انشاء اللہ تعالیٰ صحت ہو جائے گی۔
نقش یہ ہے۔

۳۳۲۱	۳۳۲۳	۳۳۲۷	۳۳۱۳
۳۳۲۶	۳۳۱۵	۳۳۲۰	۳۳۲۵
۳۳۱۶	۳۳۲۹	۳۳۲۲	۳۳۱۹
۳۳۲۳	۳۳۱۸	۳۳۱۷	۳۳۲۸

دیگر

(برائے آسپیب زدہ)
ترکیب: اس نقتیدہ کو لکھ کر کالے کپڑے میں پیٹ کر دھونی دیں آسپیب زدہ کے لیے مجرب ہے۔

فرعون	فرعون	فرعون	فرعون
نمرد	امان	نمرد	نمرد
امان	امان	شداد	امان
علیقا	علیقا	علیقا	علیقا

بحق علیقا ملیقا طلیقا انت تعلم ما فی قلوبهم بحق سلیمان بن
داؤد علیہ السلام ہر قسم آسیب سوننتہ خاکستر گرد و دفع شود۔

برائے سحر (یعنی جاؤو)

عمل
(برائے دفع سحر)

ترکیب اگر کسی پر جادو کا اثر ہو گیا ہو اور کوئی چیز جادو کی پڑھ کر کھلائی گئی ہو تو
اس کے لیے اس کو لکھ کر گلے میں جاؤو والے کے ڈالا جائے بفضلہ تعالیٰ شفا
ہوگی، مجرب المجرّب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ ۝ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اَیُّکَ نَعْبُدُ ۝ اَیُّکَ نَسْتَعِیْنُ ۝
اِرْحَمْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ۝
غَیْرِ الْمَغضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّیْنَ ۝

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ یَلِدْ ۝ وَلَمْ یُوْلَدْ ۝ وَ لَمْ
یَکُنْ لَهٗ کُفُوًا اِشَدُّ ۝

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِ
اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثِیْنَ فِی الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا
حَسَدَ ۝

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِکِ النَّاسِ ۝ اِلٰهِ النَّاسِ ۝

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۝
لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
إِلَّا بِإِذْنِهِ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۝ وَلَا يُحِيطُونَ
بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۝ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۝ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۝ فَمَنْ
يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
لَا انْفِصَامَ لَهَا ۝ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ اللَّهُ رَزَقَ الَّذِينَ آمَنُوا
مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيائُهُمُ
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ ۝ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ
أَسْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَمَا عَمِلَ لَكَ الْوَاحِدِيَا
حَامِلِ هَذَا الْكِتَابِ أَبْطَلْتَهُ بِالْوَاحِدِ الْأَسَدِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ
صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝ وَمَا عَمِلَ لَكَ الْاِثْنَانِ أَبْطَلْتَهُ عِنْدَكَ
بِالْاِثْنَيْنِ اذْهَبْ وَعَرَاءُ وَمَا عَمِلَهُ الثَّلَاثَةُ أَبْطَلْتَهُ عِنْدَكَ
بِالثَّلَاثِ حَبْرًا بَيْلٌ وَمِيكَائِيلُ وَإِسْرَافِيلُ ۝ وَمَا عَمِلَهُ لَكَ الْارْبَعَةُ
أَبْطَلْتَهُ عِنْدَكَ بِارْبَعَةِ كَتَبِ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ
الْعَظِيمِ ۝ وَمَا عَمِلَهُ لَكَ الْخَمْسَةَ أَبْطَلْتَهُ عِنْدَكَ بِخَمْسِينَ

صَلَاةٌ وَمَا عَمِلَهُ لَكَ السِّتَّةَ أَبْطَلْتَهُ عَنْكَ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ
 وَمَا عَمِلَهُ لَكَ السَّبْعَةَ أَبْطَلْتَهُ عَنْكَ سَبْعَ سَهْمَاتٍ وَمَا عَمِلَهُ
 لَكَ الثَّمَانِيَةَ أَبْطَلْتَهُ عَنْكَ ثَمَانِيَةَ حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَمَا عَمِلَهُ
 لَكَ السِّتَّةَ أَبْطَلْتَهُ عَنْكَ تِسْعَ آيَاتٍ وَمَا عَمِلَهُ لَكَ الْعَشْرَةَ
 الْكِرَامِ الْبَرَّةِ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحْرًا وَعَيْنَ النَّاسِ
 وَاسْتَرْهَبُوهُ وَجَاءَ وَسِحْرٍ عَظِيمٍ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِالسِّحْرِ
 إِنَّ اللَّهَ سَيُعْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَالْفِئِدَاتِ
 وَالسَّاحِرَاتِ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
 بَلْ نَقَدْتُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ
 الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ هـ وَقَدْ مَنَّا إِلَى مَا عَلَيْنا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ
 كَهَبَاءٍ مَّنْثُورًا هـ

إِذَا الشَّمْسُ كَوَّرَتْ هـ وَإِذَا الْأَسْتَعَارُ بَطَلَتْ هـ وَإِذَا النُّجُومُ
 أَنْكَدَرَتْ هـ وَإِذَا الْأَسْتَعَارُ بَطَلَتْ هـ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ هـ وَإِذَا
 الْأَسْتَعَارُ بَطَلَتْ هـ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ هـ وَإِذَا الْأَسْتَعَارُ بَطَلَتْ هـ وَإِذَا
 الْوُحُوشُ حُشِرَتْ هـ وَإِذَا الْأَسْتَعَارُ بَطَلَتْ هـ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ هـ وَإِذَا
 الْأَسْتَعَارُ بَطَلَتْ هـ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ هـ وَإِذَا الْأَسْتَعَارُ بَطَلَتْ هـ وَإِذَا
 الْبُؤُودُ سِيلَتْ هـ وَإِذَا الْأَسْتَعَارُ بَطَلَتْ هـ نَسِيكَفِيكُمْ هـ وَاللَّهُ رَهُ
 السَّبِيحِ الْعَلِيُّ قَوْلُهُ الْحَقُّ هـ وَرَأَى الْمَلِكُ يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ
 قَالَ خَيْرٌ حَافِظًا هـ وَهُوَ رَحْمَةُ الرَّاحِمِينَ هـ وَالْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ط

جب جادو سے جان کا خطرہ ہوتا ہے یہ مندرجہ بالا عمل لکھ کر گلے میں ڈالا جائے اور کوئی صورت جان بچنے کی نظر نہ آتی ہو تو اس عمل کو مشتری کی ساعت میں لکھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کسی چیز کا اثر باقی نہیں رہے گا۔

دیگر

(برائے جادو)

ترکیب: جس شخص کو جادو کے ذریعے پڑھ کر کوئی چیز کھلائی ہو تو اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اس کی مشتری لکھ کر ریاض کو دن میں تین بار صبح دوپہر شام پلائے نقش یہ ہے مجرب اور آزمودہ ہے۔

۷۸۶

۳۴۲۳۸	۳۴۲۳۳	۳۴۲۳۰
۳۴۲۳۹	۳۴۲۳۷	۳۴۲۳۵
۳۴۲۳۴	۳۴۲۳۱	۳۴۲۳۶

دیگر

(برائے جادو)

ترکیب: جو شخص جادو میں مبتلا ہو اس کے دفعیہ کے لیے یہ عمل بہت مجرب ہے **يَعُوذُ بِمَنْ لَيْسَ قُلُّ اَعُوذُ بِتَوْبِ الفَلَقِ اور قُلُّ اَعُوذُ بِتَوْبِ النَّاسِ**

دونوں سورتیں پوری اور قرآن پاک کی وہ آیتیں جن میں جادو کا ذکر ہے جو ذیل میں لکھی ہیں ایک ایک کاغذ پر لکھیں اور بہتے ہوئے دریا یا ندی کا پانی ایک برتن میں لیں اس میں یہ تعویذ ڈالیں۔ جب حروف گھل جائیں تو تھوڑا سا پانی اس مریض کو پلائیں اور تھوڑے سے ہاتھ پاؤں دھلائیں اور تقیہ پانی سے غسل دیں مگر پانی زمین پر نہ گرے اور مستعملہ پانی زمین میں دفن کر دیں۔ یہ عمل ہفتہ کے ہفتہ کرنا چاہیے۔ اگر چند دفعہ اس ترکیب سے کیا جائے گا۔ تو انشاء اللہ تعالیٰ جادو کا اثر بالکل جاتا رہے گا وہ آیتیں یہ ہیں۔

نَزَّوْحَ الْحَقِّ وَبَلَكَ مَا كَانُوا يَمْكُونُ ه نَعْلِبْرَاهُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا
 لُسْعِرِينَ ط وَالْقَى السَّعْرَةَ سَاجِدِينَ ه قَالُوا امْتَابِرْتِ الْعَلِيْنَ ه بِ
 مَوْسَى وَهَارُونَ ط فَلَمَّا لَقُوا قَالَ مَوْسَى مَا يَسْتَوِيهِ السَّعْرُ ط
 اِنَّ اللّٰهَ سَيَّبِطِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ وَيُحِقُّ
 اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ط اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدًا سَاجِرًا
 وَلَوْ يَفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ اَنَى .

دیگر

(برائے جادو)

ترکیب، مَعْوِذَتَيْنِ اور مذکورہ بالا آیتوں کو ایک کاغذ پر لکھ کر موم جامہ کر کے مریض کے گلے میں ڈالیں تو یہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ بہت مفید ہوگا۔

دیگر

(برائے سحر)

ترکیب: جس شخص پر سحر کا اثر ہو اس مریض پر سب سورتیں پڑھ کر دم کرے اور پانی پر علیحدہ دوبارہ پڑھ کر دم کر کے مریض کو پلائے انشاء اللہ تعالیٰ صحت یاب ہوگا، دم کیے ہوئے پانی کو ۱۲ گھنٹہ میں ایک ایک گھونٹ استعمال کرنا ختم کر دے۔

(نوٹ) مریض پر پڑھ کر علیحدہ دم کیا جائے گا، اور پانی پر دم کر کے علیحدہ اتنی ہی تعداد میں پڑھا جائے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ایک بار سورۃ الفاتحہ (یعنی الحمد شریف) سات بار، آیۃ الکرسی، العلیٰ العنایتیہ ک سات بار، سورۃ قل یا ایہا الکفرون سات بار، سورۃ اخلاص (یعنی قل ھو اللہ شریف) سات بار، سورۃ قل اعوذ برب الفلق سات بار، سورۃ قل اعوذ برب الناس سات بار۔

اس عمل کو اسی طرح سات روز تک مسلسل کیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ صحت کامل ہو جائے گی۔

عمل برائے حفاظت

(برائے حفاظت)

ترکیب: ایک مرتبہ جس نے اس کو روزانہ پڑھ لیا وہ باری تعالیٰ کی حفاظت

میں رہے گا۔ مجرب ہے (گھر میں ہو یا سفر میں)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَنْ یَّقُوْلَ جَعَلْتَ نَفْسِیْ وَاِیْمَانِیْ
 وَجَمِیْعَ مَا عِنْدِیْ مِنْ التَّعْمِرِ فِیْ حَسَنِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَرَامُ فِیْ جَوَارِ
 اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یُحَقِّرُ فِیْ نِعْمِ اللّٰهِ الَّتِیْ لَا تُدْرِكُ وَفِیْ سِیْرِ اللّٰهِ
 الَّذِیْ لَا یَهْتِكُ وَفِیْ حُبِّ اللّٰهِ الْمَنْعِ وَفِیْ وَاِیْعِ اللّٰهِ الَّتِیْ لَا تُضِیْعُ وَ
 جَوَارِ اللّٰهِ فَحَسُوْطُکُمْ وَمَنْ اَعْتَصَمَ بِاللّٰهِ مَعْصُوْمٌ وَحِلٌّ جَلَدُهُ وَلَا
 یَعْلَمُ مَکَانَ مِنَ اللّٰهِ وَزُلَّتْ زُلَّاتٌ کُلَّ عَیْنٍ نَّظَرَتْ فِیْ بَانِیْنِ اللّٰهِ سُبْحَانَ
 اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
 الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ۔ نَسِیْکُمْ فِیْکُمْ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ عَسَى اللّٰهُ
 مِنْ کُلِّ شَیْءٍ وَّ لَا سَبِقَ لِاَمْرِ اللّٰهِ شَیْءٌ اللّٰهُ الْقَاهِرُ الْغَالِبُ
 اللّٰهُ الْکَبِیْرُ کُلُّ شَیْءٍ عِنْدَیْ نَاسِرٍ الْحَقِّ حَيْثُ كَانَ بِهٖ الْحَوْلُ
 وَالْقُوَّةُ اِنْ کَانَتِ اِلَّا صِیْحَةً وَّ اَحِدَةً فَاِذَا هُوَ جَمِیْعٌ لَدَیْنَا
 مُخَضَّرُوْنَ ۝

دیگر

(عمل برائے حفاظت از شر و سارق و درندہ)

ترکیب: جس شخص کا سفر کا ارادہ ہو اور اس کو چوروں اور ایندازساں جانوروں
 کا خوف ہو تو اس کو چاہیے کہ راستے کے نیچے میں چلے اور رخ قبلہ کی طرف
 رکھے اور اس دعا کو پڑھے جس نے اس دعا کو پڑھا خدا تعالیٰ اس کی حفاظت

کرے گا اور سفرے سلامتی کے ساتھ اپنی اہل میں لوٹ آئے گا۔

دعا یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَصَلِّهِ وَسَلِّمْ نَبِیِّ الرَّحْمٰةِ صَلَاةً تُعْصِمُنَا
 بِهَا مِنْ الْاَفَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِیعِ السَّیِّئَاتِ اَللّٰهُمَّ
 اِنِّیْ تَوَسَّلْتُ اِلَیْكَ بِالْفِ اَلْفِ اَلْفِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَمَّا هِیْ
 اَبَدًا وَاَلْفِ اَلْفِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَّرَاۤءِ الْکِتَابِیْ مَدَدًا
 وَاَلْفِ اَلْفِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ عَنْ یَبِیْنِیْ تَحَرُّزُ الْمَالِ وَ
 الْوَلَدِ وَاَلْفِ اَلْفِ عَنْ یَسَارِیْ تَحَرُّزِیْ مِنَ الشَّدَاۤءِ اِبْدًا
 اِنِّیْ دَخَلْتُ فِیْ وَرِعِ اللّٰهِ الْاَحْصِیْنَ الْاَنْزَنِیْ وَدَخَلْتُ فِیْ
 حِفْظِ اللّٰهِ صِنْدُوقِ الْعَفْوِ وَاَقْفَالِہِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَفَتَّاحِ
 لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ ۝

دیگر

(برائے حفاظت)

ترکیب یہ جو شخص دشمنوں کے شر سے اور چوروں کے شر سے بچنا چاہے
 تو اس کو چاہیے کہ اس کو لکھ کر بازو پر باندھے یا اس کو درازنہ ایک مرتبہ
 پڑھ لیا کرے۔ خداوند کریم کے فضل و کرم سے جمیع برائیوں سے محفوظ ہمیشہ
 رہے گا اور کوئی شے اس کو ضرر رساں نہ ہوگی

وہ دعا یہ ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَفِیْظِ وَلَا یُوَدُّهُ حِفْظُهَا وَهُوَ
 الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَیُرْسِلُ عَلَیْكُمْ حَفَظَةً
 اِنْ رِیَّیْ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظًا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا
 فَاللّٰهُ خَیْرُ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِ لِذٰلِكَ مَعْقِبَاتٌ مِنْ بَیْنِ
 یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُوْنَہُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ
 وَاِنَّا لَآلِیُ الْحَفِیْظِ وَاللّٰهُ حَفِیْظٌ حَافِیْظٌ وَاِنَّا عَلَیْكُمْ لَحَافِیْظِیْنَ
 بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِیْدٌ فِی لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ

دیگر

(برائے حفاظت)

ترکیب یہ جو شخص ان آیات شریفہ کو لکھ کر اپنے بازو پر باندھے گا۔ وہ انشاء
 اللہ تعالیٰ دشمنوں کے شر سے ہر طرح محفوظ و مامون رہے گا۔

ایں آیات برائے ہر چیز نافع است۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَلَا یُوَدُّهُ حِفْظُهَا وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ
 فَاللّٰهُ خَیْرُ حَافِیْظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَیْطَانٍ
 مَّارِدٍ وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِیْرُ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ وَحِفْظُهَا مِنْ كُلِّ
 شَیْطٰنٍ رَّجِیْمٍ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَیْهَا حَافِیْظٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِیْدٌ
 فِی لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ وَیُرْسِلُ عَلَیْكُمْ حَفَظَةً اِنْ رِیَّیْ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ

حَفِظْنَا لَهُ مَعْقِبَاتٍ لِّمَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَ مِنْ أَمْرِ
 اللَّهِ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ
 وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
 بِوَكِيلٍ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝

دیگر

(برائے حفاظت)

ترکیب: جو شخص سفر کی حالت میں اس اسم حفیظ کو سات مرتبہ پڑھے گا وہ ہر
 بلا سے محفوظ رہے گا۔ پڑھتے وقت چاروں طرف ہاتھ سے اشارہ کرتا جائے
 جو شخص اپنی ساری یا مکان یا صندوق میں اس دعا کو رکھے گا چوری ہونے سے
 محفوظ رہے گا یہ عمل عجیب و غریب ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ لَطِيفٌ قَدِيمٌ أَزْنِي حَى قِيَوْمٍ لَا يَنَامُ

دیگر

(برائے امن سفر و قیام)

سُورَةُ يٰسَ، سُورَةُ الصَّف، سُورَةُ رِیْلِفِ ہر ایک سورتہ کو ایک
 ایک مرتبہ پڑھنے سے ہر آفت سے مامون رہے گا۔
 مجرب ہے۔

برائے دروسر

ترکیب اس کو با وضو لکھ کر موم جا مہ کر کے کپڑے میں سی کر عورت کی چوٹی میں باندھے اگر مرد کے سر میں درو ہو تو سر میں باندھے۔
محبوب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ اَلْمَنَّانِ بِسْمِ اللّٰهِ
الرَّفِیْعِ الشَّانِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَشْغَلُهُ شَانٌ عَنْ شَانٍ تَشْتَعِبُ
الْاَرْضُ بِنُورِ اللّٰهِ اِلَّا اِنَّ اللّٰهَ تَقَدَّتْ حُجَّةُ اللّٰهِ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ
وَتَفَرَّقَ اَعْدَاءُ اللّٰهِ وَبَقِيَ وَجْهُ اللّٰهِ اُخْرَجَ اَیُّهَا الْوَجْعُ بِحَقِّ حَقِّ
اللّٰهِ وَنُورِ وَجْهِ اللّٰهِ وَبِمَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِلَى خَیْرِ خَلْقٍ
اللّٰهِ اُسْكُنْ اَیُّهَا الْوَجْعُ بِمَا سَكُنَ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ وَلَهُ اَسْكُنَ فِی لَیْلِ
وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ وَیَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ یَنْسِفُهَا
رَبِّیْ نَسْفًا فِیْذُرِّهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرٰی فِیْهَا عِوَجًا وَّ اِدْمَاطًا
اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّكَ كَیْفَ مَدَّ الظِّلُّ وَّ لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا
اَیُّهَا الْوَجْعُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیگر

(برائے آدھے سر کا درو)

ترکیب اس کو با وضو لکھ کر موم جا مہ کر کے جس طرف درو ہو اس طرف باندھا جائے یا ٹوپی

میں رکھ لیا جائے یہ نقش اس طرف باندھا یا رکھا جائے گا جس طرف آدھے

سر میں درد ہو۔

۷۸۶

۵۱۱۵	۵۱۱۵	۵۱۱۵
۵۱۱۵	۵۱۱۵	۵۱۱۵
۵۱۱۵	۵۱۱۵	۵۱۱۵


دیگر

(آدھے سر کا درد)

ترکیب اور اس نقش کو لکھ کر موم جامہ میں لپیٹ کر باندھے بغضنہ تعالیٰ
دردِ سر جاتا رہے گا۔ یہ نقش اس طرف باندھا جائے گا جس طرف آدھے سر

میں درد ہوگا۔

۷۸۶



دیگر

(آدھے سر کے درد کے واسطے)

ترکیب ۱۔ سورج نکلنے سے پہلے جس شخص کے آدھے سر میں درد ہو اس کے درد کی جگہ کیا جائے گا گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے گا وہ یہ ہے۔

کالی چڑیا پھاڑ کی جن جن کنکر کھائے

وہائی خسر کی درد آدھا سیسی جائے

ایک ہی دن میں تین مرتبہ اسی وقت یہ عمل کیا جائے گا یعنی تین مرتبہ ۱۱

۱۱ بار کل ۲۲ بار انشاء اللہ مریض کو پہلے ہی دن در نہ دوسرے تیسرے دن تو بالکل آرام ہو جائے گا۔

مغرب اور آرمودہ ہے۔

دیگر

(برائے درد بدن)

ترکیب ۱۔ جہاں درد ہو موم جامہ کر کے اس جگہ باندھا جائے گا۔ جو یہ ہے نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۸۷۷۷۸

یا نشانی

۶۲۲

یا رحیم

یا رب

دیگر

(برائے دردِ سر)

ترکیب: موم جامہ کر کے سر میں باندھا جائے گا مجرب ہے وہ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۳۷	يَا مُحَمَّدًا
	يَا دَا فِعَ الْبِلِيَّاتِ

دیگر

(برائے دردِ سر)

ترکیب: موم جامہ کر کے سر میں باندھے۔ مجرب ہے۔

وہ نقش یہ ہے۔

۷۸۷

يَا اللهُ	يَا اللهُ	يَا اللهُ	يَا اللهُ	يَا اللهُ
يَاغْفُورٌ	يَاغْفُورٌ	يَاغْفُورٌ	يَاغْفُورٌ	يَاغْفُورٌ
يَا اللهُ	يَا اللهُ	يَا اللهُ	يَا اللهُ	يَا اللهُ
يَاغْفُورٌ	يَاغْفُورٌ	يَاغْفُورٌ	يَاغْفُورٌ	يَاغْفُورٌ
يَا اللهُ	يَا اللهُ	يَا اللهُ	يَا اللهُ	يَا اللهُ

دیگر

(برائے دروس)

ترکیب ۱۔ اس دعا کو پڑھ کر دم کرے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاء اللہ تعالیٰ دردمانار ہے گا۔ پڑھنے کی تعداد ۵ یا سات برابر ہے۔ مرد لکھ کر اپنے سر میں باندھے اور عورت اپنی چوٹی میں باندھے۔ یا سر میں باندھے۔ بہت مجرب ہے۔ وہ دعا یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الْکَبِیْرِ وَاعُوْذُ بِاللّٰهِ
الْعَظِیْمِ مِنْ شَرِّ کُلِّ عَرَقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ۔

دیگر

(برائے دروس)

(آدھے سر کے درد کے لیے)

ترکیب ۱۔ محل مندرجہ ذیل کو گیارہ بار پڑھ کر دم کرے انشاء اللہ تعالیٰ تین دن میں بالکل جاتا رہے گا۔ مجرب اور آزمودہ ہے۔

کالی چڑیا کھڑی کالا پھل کھائے
برکت محمد صاحب سے آدھا ایسی جائے

دیگر

(برائے دروڈ اڑھم)

ترکیب: اگر ڈاڑھ میں دروڈ ہو تو اس کے تین طریقے ہیں:۔
 اقل طریقہ: ڈاڑھ کے دروڈ کے لیے اس رخسارے پر ہاتھ رکھے جس
 طرف دروڈ اور سات بار کہے۔

اللَّهُمَّ اِذْهَبْ عَنْهُ سُوْعَ مَا يَجِدُ وَهَشَشَهُ بِدَعْوَتِ
 نَبِيِّكَ الْمَكِّيْنَ الْمُبَارَكِ عِنْدِكَ۔

انشاء اللہ تعالیٰ فی الفور شفا پائے گا مجرب ہے۔

دوسرا طریقہ: یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی دروڈ والے دانتوں
 پر رکھ کر کہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ اَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ وَقُدْرَتِكَ
 عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ فَاِنَّ مَرْيَمَ لَمَّا تَلَدَتْ غَيْرَ عِيسَى مِنْ رُوْحِكَ وَ
 بِكَلِمَاتِكَ اِنْ تَكْشِفَ مَا يَلْقَى فُلَانٌ بِنِ فُلَانٍ اَوْ تَلْقَى فُلَانَةٌ
 بِنْتٌ فُلَانَةٌ مِنَ الضَّرَّةِ

تیسرا طریقہ: یہ ہے کہ جس رخسارہ کی طرف دروڈ ہو اس پر انگلی سے لکھے۔

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 وَهُوَ السَّبِيْعُ الْعَلِيْمُ

دیگر

(اُدھے سر کے درد کے لیے)

ترکیب:۔ یہ نقش درد شقیقہ (درد سر آدھا سیسی) کے لیے مجرب ہے۔
اس نقش کو موم جامہ کرنے کے اس طرف باندھے جس طرف درد ہو۔

عَمَسَا	عَلَسَا	نَجَلَسَا
---------	---------	-----------

دیگر

(برائے درد سر)

ترکیب:۔ اس نقش معظّم کو باد فزود عنقران و گلاب سے لکھ کر یا روشنائی
سے لکھ کر سر میں باندھے۔ عورت اپنی چوٹی یا سر میں باندھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ
درد دور ہو جائے گا۔ مجرب المجرّب ہے۔

۷۸۶

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

اَسْكُنْ اَيْهَا الْوَجْعُ بِمَا سَكَنَ عَدْرِي الرَّحْمٰنُ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْتِ وَالنَّهَارِ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّ لَيْسَ لَكُنِ الرَّبِّمْجَةٌ

دیگر

(برائے درد سر)

ترکیب: یہ طلسم لکھ کر سر پر باندھیں درد سردور ہو جائے گا مجرب ہے۔

۱۱ ۱۹ ۷۹ ۹۱ ۱۱۹۱ صلحا

۱۳ ۹۱ ۹۱ ۱ ۷ ۱۱

دیگر

(برائے جلد امراض اور جمیع حاجات اور تمام بلاؤں و مصیبت)

ترکیب: اس نقش معظم کو بادنوزعفران و گلاب سے لکھ کر بازو پر باندھیں۔

انشاء اللہ تعالیٰ جلد امراض اور جمیع حاجات اور تمام بلاؤں و مصیبت کے لیے

مجرب و المجرّب ہے۔

۱۹۶	۱۹۹	۲۰۳	۱۸۹
۲۰۱	۱۹۰	۱۹۵	۲۰۰
۱۹۱	۲۰۲	۱۹۷	۱۹۲
۱۹۸	۱۹۳	۱۹۲	۲۰۳

دیگر

(برائے دردِ سر)

ترکیب ۱۔ جس کے سر میں درد ہو تو مقامِ درد پر ہاتھ رکھ کر اس آیت شریفہ کو ۳ مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے، اس کے علاوہ جسم کے کسی حصہ میں بھی درد ہو درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر اس آیت شریفہ کو پڑھ کر دم کیا جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ درد سزاور تمام زردوں کے لیے مجرب ہے اور جلد امراض کے لیے بھی دم کرنا ان آیات کا۔ مجرب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ
نَزَّلُوْهُ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا

دیگر

(برائے دردِ سر و آدھے سر کا درد و بخار و ناف ٹل جانا و درِ زہ) ترکیب ۱۔ سر کے درد کے لیے اس عبارت کو لکھ کر جس جگہ درد ہو باندھا جائے اور آدھے سر کے درد کے لیے جس طرف درد ہو درد کی جانب باندھا جائے بخار کے لیے اس کو لکھ کر مرد اپنے دایسے بازو پر اور عورت اپنے بائیں بازو پر باندھے اور اگر ناف ٹل جائے تو اس کو لکھ کر ناف پر باندھے اور اگر درِ زہ ہو تو ران میں باندھے اور بچہ ہونے کے فوراً بعد کھول دیا جائے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ
 يَا مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ
 مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ
 مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ
 محمد اور آرمودہ ہے۔

دیگر

(برائے درد سر)

ترکیب: اگر کسی شخص کے سر میں درد ہو یا جسم کے کسی حصے میں درد ہو یا بیمار ہو تو پہلے تین بار بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کہے بعد یہ دعا پڑھ کے دم کرے، انشاء اللہ تعالیٰ مریض صحت پائے۔

وہ دعا برتیر ہے۔

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ
 مِنْ شَرِّ مَا آجِدُ وَأُحَاغِرُهُ

دیگر

(برائے درد سر)

ترکیب: اگر کوئی شخص بیچا ہے کہ میرے سر میں درد کبھی نہ ہو وہ شخص فجر کی نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد سر پر ہاتھ

رکھ کر سات سات مرتبہ اس آیت شریفہ کو پڑھ کر دم کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ
نہ کبھی سر میں درد ہوگا نہ کبھی آنکھیں دکھیں گی۔

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَنَعْرُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

دیگر

دکھنے سر کے درد کے لیے

ترکیب: اس نقشِ مکرم کو دردِ شقیقہ کے لیے ساعتِ مشتری میں لکھیں۔
اور جس طرف سر میں درد ہو بانڈھیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ شفا یاب ہوگا۔
وہ نقش یہ ہے۔

میکائیلؑ	۷۶	جبرائیلؑ	
۱۶۴۴	۱۶۴۷	۱۶۵۰	۱۶۳۷
۱۶۴۹	۱۶۴۸	۱۶۴۳	۱۶۴۸
۱۶۴۹	۱۶۵۲	۱۶۴۵	۱۶۴۲
۱۶۴۶	۱۶۴۱	۱۶۴۰	۱۶۵۱
اسرائیلؑ			عزرائیلؑ

دیگر

دکھنے سر کے درد کے لیے

ترکیب: اس نقش کو ساعتِ مشتری میں لکھ کر موم جاہر میں لپیٹ کر جس

طرف درود ہو بانڈھیں یہ تعویذ سورج نکلنے سے پہلے بندھے گا، شام کو کھول ڈالیں اس طرح تین یوم برابر کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ آرام ہوگا جو رب ہے۔ نقش یہ ہے۔

یا حبیب	یا حبیب	یا حبیب	یا حبیب
یا حبیب	یا حبیب	یا حبیب	یا حبیب
یا حبیب	یا حبیب	یا حبیب	یا حبیب
یا حبیب	یا حبیب	یا حبیب	یا حبیب

عمل برائے رہائی قیدی

(قیدی کی رہائی کے واسطے)

ترکیب: قیدی کی رہائی کے لیے اول و آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر ایک سو چار مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ قیدی رہائی پائے گا۔

يَا غِيَاثِي عِنْدَ كُلِّ كُؤْبَةٍ وَهَجِيَّتِي عِنْدَ كُلِّ دَشْوَعٍ مُنَادِي
عِنْدَ كُلِّ شِدَّةٍ وَرِجَائِي مَبْنٍ تَقْطَعُ حَبْلَتِي هـ

دیگر

(قیدی کی رہائی کے واسطے)

ترکیب: پنجگانہ نمازیں پانچوں وقت سو مرتبہ سات دن تک پڑھیں انشاء اللہ تعالیٰ رہائی ہوگی۔ آیت اگلے صفحہ پر ہے۔

آیت یہ ہے۔

يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَلَا دَخَلُوا مِن
 ابوابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
 إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
 الْمُتَوَكِّلُونَ يَا خَالِصُ يَا مُخْلِصُ ۝

دیگر

(قیدی کی رہائی کے واسطے)

ترکیب: اس نقش کو لکھنے کا جب ارادہ ہو تو باقاعدہ غسل کرے۔ اور باطہارت
 قبلہ رو ہو کر لکھے اور یوں سلگائے تھوڑا سا عطر بھی لباس میں معطر کرے تو
 بہتر ہے واللہ اعلم۔ مجرب ہے۔

۷۶

۲۱۱۲۸	۲۱۱۲۲	۲۱۱۲۵	۲۱۱۲۱
۲۱۱۳۴	۲۱۱۲۲	۲۱۱۲۷	۲۱۱۳۳
۲۱۱۲۳	۲۱۱۳۷	۲۱۱۳۰	۲۱۱۲۶
۲۱۱۳۱	۲۱۱۲۵	۲۱۱۲۴	۲۱۱۳۶

دیگر

(قیدی کی رہائی کے واسطے)

ترکیب: جب کوئی قید ہو جائے یہ غزیت لکھ کر قیدی کے بازو پر باندھے۔

وہی ہے۔

اللَّهُمَّ اسْأَلُكَ خَيْرَ مَا صَنَعَ صَانِعُ بَنِي ۞

دیگر

(قیدی کی رہائی کے واسطے)

ترکیب بد جو کوئی ناحق قید ہو جائے ہر روز ہزار بار یہ کلمات کہے،

يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اَعْنَتِي وَيَا ناصِرَ الْمَظْلُومِينَ
اَنْصُرْنِي بِفَضْلِكَ -

انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد قید سے چھوٹ جائے گا۔

عمل برائے قرار پانے حمل

(برائے استقرار حمل)

ترکیب بد اگر کسی عورت کو حمل نہ رہتا ہو یا مانع ہو جایا کرتا ہو تو اس نقش
معظم کو لکھ کر عورت کے گلے میں یا کمر میں باندھیں۔ مجرب ہے۔

شیرینی پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی فاتحہ دے کر
نقش مکرم کو لکھے۔

نقش آئندہ صفحہ پر دیکھیں


وہ نقش یہ ہے۔

میکائیل	إِلَهِیْ بِمَحْرَمَةِ عَبْدِ الْكَرِیْمِ وَتَوْحِیْدِ كَرِیْمٍ	جبرئیل
عبد الخلیل خلیل الہی محرمۃ ابراہیم کو نبی	<p>ع ا ع ا ع ا ع ا</p> <p>یا مُحَمَّدُ یا مُحَمَّدًا</p> <p>یا أَحِبُّ</p> <p>یا قَائِمٌ یا قَائِمًا</p>	عبد الخلیل خلیل الہی محرمۃ ابراہیم جو نبی
اسرائیل	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	عزرائیل

دیگر

(برائے عمل)


ترکیب: اگر کسی عورت کو حمل نہ رہتا ہو یا فالج ہو جاتا ہو تو اس نقشِ مکرم کو لکھ کر گھر میں
باندھنا، طلبِ پر اہرگا، لیکن اس نقشِ عرشی کو بھی جوتیے لکھا ہے ضرور فرور لکھا جا یہی



يَا اللَّهُ	يَا اللَّهُ	يَا اللَّهُ	يَا اللَّهُ	يَا اللَّهُ
يَا حَكِيمُ	يَا حَكِيمُ	يَا حَكِيمُ	يَا حَكِيمُ	يَا حَكِيمُ
يَا مُطِيعُ	يَا مُطِيعُ	يَا مُطِيعُ	يَا مُطِيعُ	يَا مُطِيعُ
يَا رَحِيمُ	يَا رَحِيمُ	يَا رَحِيمُ	يَا رَحِيمُ	يَا رَحِيمُ
يَا رَحْمَنُ	يَا رَحْمَنُ	يَا رَحْمَنُ	يَا رَحْمَنُ	يَا رَحْمَنُ

دیگر

(برائے حمل)



ترکیب ۱۔ جس عورت کا حمل گرجاتا ہو اس
نقش کو لکھ کر موم جامہ کر کے عورت
کی کمر میں باندھے نقش ناف کے نیچے روم پر
پڑا رہے وہ نقش یہ ہے۔

دیگر

(برائے حمل)

استقاط حمل کے لیے مجرب ہے۔ اگر خون جاری ہو گیا ہو تو ایک سرف
ڈورا حاملہ کے قدم کے برابر یعنی پاؤں کے انگوٹھے سے سرتنگ ناپ کر اس پر سات
مرتبہ اس اسم مبارک کو مع طیبہ کے دم کریں اور ہر مرتبہ ایک گروہ دیں اور عورت
کی کمر میں باندھیں انشاء اللہ تعالیٰ برقرار رہے گا اور ساقط نہ ہوگا۔ عمل یہ ہے۔
الْقُبُورُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

دیگر

(برائے حمل)

ترکیب ۲۔ اگر کسی عورت کو حمل نہ رہتا ہو تو یہ آیت چالیس دن چینی کے پیالے
میں لکھ کر پیالے میں اور کاغذ پر لکھ کر کمر میں باندھیں۔

انشاء اللہ تعالیٰ محل قرار پائے گا آیت یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط اللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ یَهْبِطُ لِمَنْ یَشَآءُ اِنَاثًا وَّ یَهْبِطُ لِمَنْ
 یَشَآءُ الذَّكُوْرَهٗ اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُكُوْرًا وَّ اِنَاثًا وَّ یَجْعَلُ مَنْ
 یَشَآءُ عَقِیْمًا ط اِنَّهٗ عَلِیْمٌ قَدِیْرٌ ط

دیگر

(برائے محل)

ترکیب ۱۔ اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ لڑکا ہو تو وہ محل کے
 پہلے یا دوسرے یا تیسرے پہننے اس آیت کو لکھ کر عورت کی کمر میں باندھیں۔

انشاء اللہ تعالیٰ لڑکا پیدا ہو گا۔ آیت یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط فَاَوْجِسْ مِنْهُمْ خِیْفَةً ط قَالُوْا
 لَا تَخَفْ ط وَبَشِّرُوْهُ بَعْلًا مِّمَّ عَلَیْمٌ ط فَاَقْبَلَتْ اِمْرَاْتُهٗ فِیْ صَدَقَةٍ
 فَصَلَّتْ وَجْهَهَا وَاَقَالَتْ عَجُوْرًا عَقِیْمًا ط قَالُوْا كَذٰلِكَ ط قَالَ
 رَبّٰی ط اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِیْمُ الْعَلِیْمُ ط

دیگر

(برائے محل)

ترکیب ۲۔ عورت کے محل ٹھہرنے کے لیے چینی کے برتن پر یہ نقش منڈت

لکھے اور اس کے نیچے نو حروف الف سے لے کر ط تک نو سطروں میں اس طرح لکھے۔

پھر سوۃ ال عمران پڑھے اور پانی سے دھو کر پلائے۔ اللہ کے فضل سے حاملہ ہو۔ شکل یہ ہے۔

۷۸۶

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

۷۱۶

۲	۹	۴
۷	۵	۳
۶	۱	۸

ان دونوں مثلث نقشوں میں سے چاہے جو نقش

نقل کر دیا جائے ان دونوں میں صرف

پر کرنے کا فرق ہے۔ نقش دونوں

ایک ہیں۔

ا ب
ا ب ج
ا ب ج د
ا ب ج د ه
ا ب ج د ه و
ا ب ج د ه و ز
ا ب ج د ه و ز ح
ا ب ج د ه و ز ح ط

دیگر

(برائے حمل)

ترکیب: یہ اسم مبارک عورت کی گردن یعنی گلے میں ڈالے جب اپنے شوہر کے پاس جائے گی حاملہ ہوگی اسی طرح اگر درخت بے پھل پر لٹکائے تو حکم خدا سے بارور ہو۔ اسم یہ ہے:

مِنَا مَنَا مَنَا خِ خِ خِ

دیگر

(برائے حمل)

ترکیب: اگر کوئی شخص اس دعایا عبارت کو لکھ کر اس عورت کو جس کے اولاد نہ ہوتی ہو دے اور وہ موم جامہ اس کو کر کے اپنے گلے میں ڈالے۔ انشاء اللہ تعالیٰ وہ عورت اسی پہننے میں حاملہ ہوگی اور جو کسی درخت میں باندھ دے تو وہ بھی خوب پھلے پھولے گا۔

وہ دعایا عبارت یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ ھُوَ ھُوَ ھُوَ ھُوَ ھُوَ ھُوَ ھُوَ

اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

دیگر

(محل کے لیے)
گنڈا برائے بانجھ

یعنی جس عورت کے بچہ پیدا ہی نہ ہوتا ہو

ترکیب: جس عورت کے بالکل بچہ پیدا ہی نہ ہوتا ہو تو اس کو چلبیہ کہہ کے
سوت کے چودہ تار سیاہ رنگ کے لے کر اتوار کے دن جو عورت کے پیر کے
انگوٹھے سے لے کر پیشانی تک لیے ہوں دس گرہ دے۔ اور ہر گرہ پر سورۃ فاتحہ
یعنی الحمد شریف پوری ایک بار اور سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف سات بار
پڑھے۔ اور ہر گرہ پر دم کرتا جائے۔ اور جب گنڈا بن جائے تو شیرینی پر فاتحہ دے کر
بچوں کو تقسیم کر دے۔ اور پھر اس گنڈا پر تین تین بار اول و آخر درود شریف
پڑھ کر سورۃ الحجر سات بار اور چاروں قل یعنی قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ -
قُلْ هُوَ اللَّهُ شَرِيفٌ - قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ -

۸	۴۴	۴۶	۱
۴۶	۲	۷	۴۵
۱	۴۹	۴۲	۶
۴۳	۵	۴	۴۸

پوری پڑھ کر دم کرے اور عورت حیض
سے فارغ ہو کر اسی روز یہ عمل کرے
یعنی غسل کر کے تھوڑی سی مہری لے
کر ادھی آپ کھائے اور ادھی کسی
دوسرے بچے کو دے۔ اور پھر گنڈا کر میں باندھے اور ساتھ ہی اس تھوڑی کو

موم جامہ کر کے اپنے گلے میں ڈالے۔
وہ نقش پچھلے سفر پر دیکھیں۔

دیگر

(برائے حمل)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اِنَّكَ اَلَّذِیْ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ
وَلَمْ یُوْلَدْ وَلَمْ یُکُنْ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدًا ۝

الہی بحرمت محمد و علی و الحسن و الحسین علیہم السلام یا زود یعنی گیارہ
تعویذ لکھ کر گیارہ روز تک گھول کر پلائیں۔

دیگر

(برائے حمل)

ترکیب۔ کسی گوشہ میں بیٹھ کر با وضو لکھے۔ اور حاملہ عورت کے کمر میں بانڈھے
اور تعویذ رجم پر پڑا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حمل محفوظ رہے گا۔
وہ دعایہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَیْهَا حَافِیْظٌ فَاَللّٰهُ خَیْرٌ

حَافِظًا، وَهُوَ أَمْرٌ حَرَامٌ لِتَرَاحِيمِينَ ۝ اللَّهُمَّ
 أَحْفِظْ حَتَلَ هَذِهِ الْبِرَاةِ مِنْ جَمِيعِ الْأَفَاتِ
 بِحَقِّ لَدَائِلِهِ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ ۝
 آمِينَ آمِينَ
 آمِينَ

دیگر

(برائے حمل)

ترکیب بد گلاب اور زعفران کے پانی سے ہرن کی جھلی پر لکھے اور حاملہ کی کمر میں
 باندھے۔ نان کے نیچے روم پر تعویذ پڑا رہے جو کچھ پیٹ میں ہے۔ تمام آفات
 اور بلاؤں سے محفوظ رہے اور اگر اس آیت کریمہ کو لکھ کر لڑکے کے گلے میں
 باندھے۔ تمام آفات اور بلاؤں سے حفاظت رہے۔

آیت یہ ہے۔

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةٌ عِزْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ
 مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا
 أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ
 كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ
 وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ فَتَقَبَّلَهَا

رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَرَأَيْتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا
 زَكْرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ
 عِنْدَ هَارِثًا قَالًا يَمْرُؤًا أَنَّى لَكَ هَذَا إِذَا كُنْتَ
 هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ
 حِسَابٍ

دیگر

(برائے عمل)

ترکیب۔ ان آیات مبارکہ کو وضو کر کے مشک، زعفران اور گلاب سے جینی کے
 طشتری پر لکھے اور پاک پانی سے دھو کر مرد اور عورت دونوں کو تین دن متواتر
 پلائے دونوں کو پلانا زیادہ بہتر ہے اور اگر ایک کو پلائے تب بھی انشاء اللہ
 تعالیٰ مقصود حاصل ہوگا۔ ایک سے مراد عورت کو ضرور پلائے اور یہی لکھ کر عورت
 مرد دونوں حویر (یعنی ریشم) کے تاگے سے باندھیں مراد اپنے گلے میں ڈالے
 یا بازو پر باندھے اور عورت اپنی کمر میں ناف سے نیچے باندھے تاکہ تعویذ عورت
 کے رحم پر پڑا رہے اور جماع یعنی صحبت کے وقت دونوں اپنے اپنے تعویذ
 کھول دیں جب غسل کر چکیں تو پھر باندھ لیں پہلی دوسری یا تیسری شب میں
 عورت حاملہ ہو جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
 ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ

أَنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكَ بِحَيٍّ مُّصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَّحُصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

دیگر

(برائے حمل)

۷۲	۷۵	۷۸	۶۵
۷۷	۶۶	۷۱	۷۶
۶۷	۸۰	۷۳	۷۰
۷۴	۶۹	۶۸	۷۹

ترکیب ۱۔ اگر کسی عورت کا حمل پہلے
گرجاتا ہو تو اس نقشِ مکرم کو لکھ کر حمل کے
زمانے میں عورت کی کمر میں باندھیں۔
انشاء اللہ تعالیٰ برقرار رہے گا اور فرزند
ارجمند پیدا ہوگا۔

دیگر

(برائے حمل)

ترکیب ۱۔ اگر حاملہ عورت کا خون جاری ہو جائے اور حمل گرجانے کا خون
ہو تو یہ آیت شریفہ لکھ کر حمل پر باندھے۔

انشاء اللہ تعالیٰ حمل گرنے سے محفوظ رہے گا، بربہ ہے۔ وہ آیت مبارکہ

یہ ہے
إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ

ذَاتَايَاتٍ أَسْكَنَتْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهَا إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا
عَفُورًا ۝

دیگر

(برائے حمل)

ترکیب ہے اگر کسی عورت کا حمل قرار پا گیا ہو اور حمل کے زمانے میں مسان کی شکایت بھی ہو تب بھی حمل کے دو تین ماہ کے وقت کے درمیان اس نقش اور عبارت کو لکھ کر عورت کی کمر میں باندھے۔ اور تعویذ عورت کے رحم پر پڑا رہے۔ البتہ جماعت یا صحبت کرنے کے وقت اس تعویذ کو کھول دیا جائے اور غسل کرنے کے بعد پھر کمر میں اسی طرح باندھ لیا جائے اور وضع حمل کے وقت یعنی جب بچہ پیدا ہونے لگے تب اس تعویذ کو کھول لیا جائے اور اسی تعویذ کو نئے کپڑے میں اور نئے ڈورے میں سی کر بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ بچہ بھی محفوظ و مامون رہے گا۔

وہ نقش یہ ہے۔

۲۴	۲۸	۳۱	۱۷
۳۰	۱۸	۲۳	۲۹
۱۹	فلاں نہت فلاں یعنی حاملہ اور حاملہ کی ماں کا نام	۲۶	۲۲
۲۷	۲۱	۲۰	۲۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِۙ اِذْ قَالَتْ اَمْرَاۃٌ عِمْرَانَ
 رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ فَحَدِّدْ لِّیْ اِنْتَقَبِلْ مِنِّیْ اِنَّكَ اَنْتَ
 السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُۙ الہی بکرمت سُوْرَةُ یُوْنُسُ
 الہی بکرمت سُوْرَةُ هُوْدِ الہی بکرمت سُوْرَةُ یُوْسُفِ الہی بکرمت
 سُوْرَةُ یُوْسُفِ الہی بکرمت سُوْرَةُ مَزْمَلِ الہی بکرمت سُوْرَةُ مَدَّیْنُ
 الہی بکرمت سُوْرَةُ تَكْوِيْمِ الہی بکرمت سُوْرَةُ وَالشَّمْسِ الہی بکرمت قُلْ
 يَاۤ اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ؕ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ؕ
 وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُهٗ ؕ وَلَا اَنَا عٰبِدُ
 مَا عٰبَدْتُمْ ؕ وَكَلَّا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ
 مَا اَعْبُدُ

الہی بکرمت اینہا پنج مسان و مسانی در وجود فلاں نبت فلاں مسلولہ
 شدہ باشد دفع شد

سورة الشمس

جس عورت کے بچے مر جاتے ہوں اس کے لیے حمل
 کے پہلے پہننے میں پاؤ بھر دیسی اجوائن آدھ پاؤ سیاہ مرقح ۔
 ڈھائی پاؤ شہد خالص پر چاند کے شروع میں پیر کے دن اشراق
 کی نماز کے بعد ۴ مرتبہ اس مبارک سورۃ کو پڑھ کر دم کرنا پھر

روزانہ ایام حمل میں ایک چمکی اجوائن کی تین دانے سیاہ مرچ کے
ایک انگلی شہد کی روزانہ کھانا نہایت مجرب ہے۔
اگر اشیاء ختم ہو جائیں تو پھر دوبارہ پڑھ کر تیار کر لی جائیں۔

دیگر

(بیراتے حمل)

ترکیب: جس عورت کا حمل گر جاتا ہو اس نقش کو لکھ کر عورت
کی کمر میں باندھیں تعویذ رحم پر ہے ضرورت کے وقت کھول
ڈالے غسل کے بعد پھر باندھ لے دروزہ کے موقع پر کھول ڈالے
چارپائی کی داہنی پیٹی کی طرف باندھ دے جب پلا نہان یعنی
چھٹی نہا چکے تو اس تعویذ کو مع ڈورے کے جہاں پانی بہتا ہو
یعنی دریا وغیرہ میں بہا دے فاتحہ دے کر کچھ شیرینی بچوں
کو تقسیم کر دے۔

۷۸۶

۲۷	۳۰	۳۳	۲۰
۳۲	۲۱	۲۶	۲۱
۲۲	۳۵	۲۸	۲۵
۲۹	۲۴	۲۳	۳۲

دیگر

(برائے حمل)

ترکیب ۱۔ جس عورت کے بچہ نہ ہوتا ہو تو شیریں انار کی چار پھانکیں اس طرح کی جائیں کہ وہ جدا نہ ہوں غنچہ کلی کی طرح ہو جائیں۔

تب بسم اللہ پڑھ کر سورۃ یٰسین شریف پڑھیں۔

جب اول مُبَیِّن پڑھیں تو انار پر دم کریں پھر شروع سے پڑھیں اور دوسری مُبَیِّن پڑھیں پھر دم کریں اس طرح ساتوں مُبَیِّن پڑھیں۔ سات مبین ختم ہونے پر آخر میں ایک بار پوری سورۃ یٰسین شریف پڑھ کر دم کریں یعنی شروع سے لے کر آخر تک پڑھ کر دم کیا جائے۔

اور پھر پاؤں سیر کشمش اور پاؤں سیر بھنے ہوئے چنے لے کر ان پر فاتحہ دیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تمام اولیاء اللہ اور کل مومن مردوں اور کل مومن عورتوں کی رحوں کی ثواب پہنچائیں۔ اور ان دونوں چیزوں کو چھوٹے بچوں میں بانٹ دیں۔

اور یہ عمل اس وقت کیا جائے جب عورت حیض سے پاک ہو کر غسل کرنے والی ہو۔ اور پھر اس انار کو زین عقیقہ کو غسل حیض کے بعد کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ رط کا عطا فرمائے گا۔

عمل برائے مسان

(برائے مسان)

ترکیب ۱۔ جن بچوں کو سوکھے کامرض ہو جاتا ہے اور وہ سوکھ کر کانشا ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں ان بچوں کے گلے میں یہ نقش لکھ کر ڈال دیا جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ محفوظ رہیں گے۔ نقش یہ ہے

۷۸۶

۸	۱۱	۶۲۴۷	۱
۶۲۴۶	۲	۷	۱۲
۳	۶۲۴۹	۹	۴
۱۰	۵	۲	۶۲۴۸

دیگر

(برائے مسان)

ترکیب ۱۔ جن بچوں کو سوکھا ہو جاتا ہے اور وہ سوکھ کر کانشا ہو جاتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد مر جاتے ہیں اس کے لیے یہ عمل مجرب ہے لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے۔ عمل یہ ہے۔

کالوالا سالوالا کلب وما ابر سو ما۔

دیگر

(برائے مسان)

ترکیب: اس کی ترکیب وہی ہے جو پہلے کا مٹی ہے لکھ کر گلے میں ڈالے۔

جلوس مردوس ارادس حلون سلون و طوس

باس الینا دریا دریا با احونا ۵

دیگر

(برائے مسان)

ترکیب: یہ نقشِ مکرم چہل کاف کا ہے ہر قسم کے آسیب و مسان کے لیے
 مفید ہے کیسا ہی آسیب کا اثر ہو اللہ کے فضل و کرم سے باندھنے ہی در رہو
 جاتا ہے۔ یو بان کی دھونی دے کر باندھے۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۳۹۰۹	۳۹۰۴	۳۹۱۱
۳۹۱۰	۳۹۰۸	۳۹۰۶
۳۹۰۵	۳۹۱۲	۳۹۰۷

دیگر

(برائے مسان)

ترکیب: یہ نقش سفید سرخ (سفید سرخ سے مراد جس کے جسم پر سفید پردوں کے

علاوہ کسی قسم یا دوسرے رنگ کا کرئی پر نہ ہوں) کے خون سے ایک شنبہ (الوار) کو لاکھ کر گے میں باندرے بغقبہ تعالیٰ فوراً شفا ہو جائے گی۔ مہرب ہے۔

۷۶

۱۴۱	۱۴۳	۱۴۶	۱۴۴
۱۴۶	۱۴۵	۱۴۰	۱۴۵
۱۴۶	۱۴۹	۱۴۲	۱۴۹
۱۴۲	۱۴۸	۱۴۶	۱۴۸

دیگر

(برائے مسان)

ترکیب ۱۔ جس پکے کو مسان کی شکایت ہو ان آیات حکیم کو لاکھ کر پکے کے گلے میں ڈالے انشاء اللہ تعالیٰ پکے مسان اور جلد آفات سے محفوظ رہے گا بہتر یہ ہے کہ پکے کے پیرا موتے ہی گلے میں ڈال دے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ دَخَابَ كُلِّ حَبَاۤءٍ عَنۢیۡہِ ۝ وَ مَنۢ وَّرَآءِہُمۡ جَهَنَّمُ ۝ وَ یَسْقٰ
مِنۡ مَّآءٍ صَدِیۡدٍ ۝ یَتَجَرَّعُہٗ ۝ وَ لَا یَکَادُ سُبۡغَہٗ ۝ وَ یَأْتِیہُمُ الْمَوْتُ مِنۡ کُلِّ
مَكَانٍ ۝ وَ مَا هُوَ بِمَیۡتٍ ۝ وَ مَنۢ وَّرَآءِہُمۡ عَذَابٌ عَلِیۡظٌ ۝

دیگر

(برائے مسان)

ترکیب ۱۔ یہ نقش مسان اور آسیب والے کے لیے بھی مفید ہے مہرب ہے دلوں

مریضوں کے لیے چاہے وہ مسان کا ہو یا آسیب کا چالیس روز برابر ہر روز کاغذ پر لکھ کر مریض کو پانی میں گھول کر تیار منہ صرف فجر کے وقت پلائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مسان والے بچے اور آسیب والے مریض کو شفا ہوگی۔ مسان والے بچے کو نقش گھول کر اس کا پانی پلائیں اور نقش کے کاغذ کو ہر روز بحفاظت رکھتے رہیں اور چالیس روز پورے ہونے پر آٹے میں گویاں بنا کر دریا میں جتاں پھلیاں ہوں ڈال دیں۔ اور آسیب والے مریض نقش کو دھو کر اس کے کاغذ کو چبا کر اوپر سے وہ پانی پی لیں ہر روز یہی عمل کرے مجرب ہے۔

بِحَقِّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

دیگر

(برائے مسان)

ترکیب ۱۔ جس عورت کو مسان کی شکایت ہو اور اس عورت کے بچے سوکھ سوکھ کر مر جاتے ہوں تو ان کو چاہیے کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی یہ تعویذ لکھ کر موم جا کر کر کے اس بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ بچے کو کوئی شکایت نہیں رہے گی۔
وہ تعویذ یہ ہے۔

۷۸۶ ۷ ما متوه الہ اخرجی یا حی ۳۳

۱۲ ۱۱ ۱۱ ماہ ح ع س

دیگر

(برائے مسان)

ترکیب ۱۔ اس نقش کو لکھ کر مسان والے بچے کے گلے میں ڈال دے۔

انشاء اللہ تعالیٰ مسان کی شکایت جاتی رہے گی۔

دوسرا طریقہ ۲۔ اسی نقش کا یہ بے کہ اس نقش کو کاغذ پر لکھ کر پانی میں گھول کر رکھ لے اور جب روٹی پکا چکے تو گرم توڑے پر اس پانی کے پھینٹے دے اور جب اس میں سے دھواں نکلے تو بچے کی ماں اس بچے کو اس دھواں کی دھونی دے یعنی پھینٹوں سے نکلتے والے دھواں بچے کے جسم پر لگائے گیارہ روز تک کیا جائے پانچ یا سات یا نو دن بھی کیا جا سکتا ہے۔

انشاء اللہ تعالیٰ بچے کو شفا ہوگی مجرب ہے۔ نقش یہ ہے۔

۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱

دیگر

(برائے مسان)

ترکیب ۱۔ اس نقش صحابہ کرم کو چار عدد نی کوری ٹھیکری لے کر جن پر پانی نہ لگا ہو ان پر لکھے اور آگ میں ڈال لے جب خوب گرم ہو جائیں تو بچے کی چار پائی کے چاروں پایوں کے نیچے رکھ دے۔

انشاء اللہ تعالیٰ مسان والے بچے کو شفا ہوگی بزیر سے بچے کی چار پائی
 کو چالیس روز تک وہیں بچھا رہنے دیں وہاں سے ہٹا یا نہ جائے جب پتھر دست
 ہو جائے تو ان ٹھیکریوں کو کسی کنوئیں یا دریا میں ڈال دیا جائے اور یہی نقش لکھ کر
 بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ بچہ حفظ و امان میں رہے گا۔
 دوسری ترکیب: جس بچہ کو مسان کے دورے پڑنے ہوں ہاتھ پاؤں
 کے ٹھنڈ بندھ جاتے ہوں منہ سے جھاگ آتے ہوں، آنکھیں چڑھ جاتی ہوں،
 اس نقش کو لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالے انشاء اللہ تعالیٰ پھر کبھی دورہ نہ پڑے
 گا اور بچہ صحت یاب ہو جائے گا یہ دونوں طریقے اس نقش کے نہایت مجرب ہیں۔

۱۰۲۰	۱۰۲۴	۱۰۱۰	۱۰۳۶
۱۰۱۲	۱۰۳۴	۱۰۳۲	۱۰۲۲
۱۰۳۰	۱۰۱۴	۱۰۲۰	۱۰۲۶
۱۰۱۸	۱۰۳۸	۱۰۳۸	۱۰۱۶

دیگر

(ہر آتے مسان)

ترکیب ۱۔ ایک پاؤں پاؤں پر پاؤں لے کر سورۃ اذ احزاب نصر اللہ والفتح
 سے لے کر تواتر آیت تک پوری سورۃ اکیس بار پڑھ کر دم کیا جائے اور پھر اس اجوائن
 کے چار حصے کر لیے جائیں اور ایک ایک حصہ کپڑے میں باندھ کر زخم کی چار پائی

کے چاروں پالیوں میں باندھ دیا جائے اور پلنگ یا پار پائی چالیس دن تک اسی جگہ رہے۔ بعد چالیس دن کے ان چاروں پلنگوں کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ بچہ مسان سے محفوظ رہے گا نہایت بھرب و آزمودہ ہے اور بعد چالیس دن کے یہ نقش لگو کر بچے کے گلے میں ڈال دے انشاء اللہ تعالیٰ بچہ مسان سے محفوظ رہے گا اور جلد آفات سے بھی بچا رہے گا۔ وہ نقش یہ ہے۔

بِحَقِّ جِبْرِئِيلِ ۷۶ بِحَقِّ مِيكَائِيلِ

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

اِنْتِزَارِ بَعْدِ مَيِّمِ
يَا حَقُّ يَا قَيُّوْمُ
بِحَقِّ اِيْمَانِ اِيْمَانِ

دیگر

گنڈہ برائے مسان

ترکیب اس میں عورت کے بچہ پیدا ہونے کے بعد سوکھ سوکھ کر مر جاتا ہو تو اس کو چاہیے کہ جب محل دواور تین ماہ کے درمیان پہنچے تو کچے نیلے سوتلے کے اکتالیس دھاگے عورت کے تدر کے برابر یعنی عورت کے پیر کے انگور لٹھے سے لے کر پیشانی تک لیے جائیں اور ان دھاگوں پر سُودِ السَّعَاوِ وَالطَّارِقِ پوری اکتالیس بار پڑھ کر اکتالیس گرہیں لگائی جائیں گی۔ اور جب ایک بار سورۃ ختم کی جائے گی تو ان دھاگوں میں ایک گرہ لگائی جائے گی اور اس پر یعنی گرہ پر دم کیا جائے گا۔

اسی طرح اکتالیس بار پڑھ کر اکتالیس گز ہیں ان دھاگوں میں لگائی جائیں گی اور ہر گز پر ایک ایک بار پوری سورۃ پڑھ کر دم کیا جائے گا اور جب گنڈا تیار ہو جائے گا تو اس گنڈہ کو کپڑے میں سی کر اور ٹمن اور کاج کر کے صورت اپنی کر میں باندھ لے اور جماع کے وقت کھول ڈالے۔ غسل کر کے پھر باندھ لے اور جب وضع عمل یعنی پھر پیدا ہونے کا وقت آئے تو اس گنڈہ کو کھول کر بچے کے گلے میں ڈال دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مسان کی شکایت جاتی رہے گی اور بچہ تندرست رہے گا۔ مجرب ہے۔

دیگر

(برائے مسان)

ترکیب اس عبارت کو لیکر بچے کے گلے میں ڈالے تو انشاء اللہ تعالیٰ مامون و محفوظ رہے گا۔ مجرب ہے

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 يَا بَدْرُ يَا غَمُورُ۔ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا
 السَّلَامُ أَهْبَاءُ شَرَاهِبِيَا فِي السَّفْرِ خَالِدِيَا أَوْ مُخَلِّدِيَا
 بِرَأْسِهِم دُرُكَاتِ بَعُونِ اللَّهُ تَعَالَى فِي كُلِّ شِفَاءٍ وَ
 عَلَيْهِمْ يَا حَافِظُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ بِرَحْمَتِكَ
 يَا أَحَدَ الرَّاحِمِينَ ۞

دیگر

(برائے مسان)

ترکیب ۱۔ اگر کوئی بچہ یا بڑا آدمی سوکھتا چلا جائے اور بظاہر کوئی مہرض معلوم نہ ہوتا ہو تو اس مریض کے لیے ایک ہزار مرتبہ اس آیت شریفہ کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر پاؤں بھر چنبیلی یا سرسوں کے تیل پر دم کر کے رکھ دے پھر اس تیل سے تمھوڑا تمھوڑا ہر روز مریض کے بدن پر مالش کیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ گیارہ دن میں مریض قوی اور تندرست ہو جائے گا۔ آیت شریفہ یہ ہے۔

فَانظُرْ اِلَىٰ اَنْثَارِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يَحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذٰلِكَ لَمُسْحٰى الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

دیگر

(برائے مسان)

ترکیب ۱۔ تین دفعہ آیت قطب اور اکتالیس بار سُودۃ فاتحہ معہ وصل میم یسوع اللہ کے الحمد کی الام کے ساتھ اور تین تین مرتبہ اول و آخر وود شریف پڑھ کر سو پاؤں کچی گھانی کے تیل پر دم کر لے اور چالیس روز تک وقت مقررہ پر جس رُک کے مسان کی بیماری ہو مالش کرے، خدائے تعالیٰ اس کو شفا کے کامل عطا فرمائے گا۔ آیت قطب اگلے صفحہ پر ہے۔

آیتِ قطب یہ ہے .

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ الْغَوَامِنَ نَعَّاسًا يَغْشَى طَائِفَةً
مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ط يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ه
قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ط يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ط
يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ط مَا قُتِلْنَا هُنَا ط قُلْ لَوْ كُنْتُمْ
فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ط
وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُبَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ط

دیگر

(برائے مسان)

(جس بچے پر مسان کا اتنا اثر ہو چکا ہو کہ اس

کے بچنے کی توقع نہ رہی ہو، نہایت مجرب ہے)

ترکیبِ عمل :- ۱۶۶۲ مرتبہ سات گولیاں گڑ کی بنا کر جو چنے کی برابر ہوں دم کرے
سات یوم تک ایک گولی برابر بچے کو دیتا رہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ بچہ تندرست
و توانا ہو گا وہ عمل یہ ہے۔

أَدْعُونَ يَدْعُونَ آيِبِ زِدْهُمْ خُشُوكَ شَوْ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ
از دنیا بروقت و نیز ناپیدا شود بحق لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

اس کے استعمال کا وقت فجر کی نماز کے بعد صبح کا وقت ہے یعنی صبح کو ایک گری پچے کو دس دی جایا کرے اور شام کو عصر مغرب کے درمیان اس نقش کو لکھ کر پانی میں گھول کر سات یوم تک پلائے اور اس کے کاغذ کو بجاظت رکھے اور سات یوم پورے ہونے پر ان ساتوں کاغذوں کی گولیاں آٹے میں بنا کر دریا میں ڈالے یا کسی عرض میں جمل پھلیاں ہوں۔

جو نقش عصر مغرب کے درمیان پلا یا جائے گا وہ نقش یہ ہے۔
 وَتَنْزِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔

۱۳۸	۱۴۲	۱۴۵	۱۴۱
۱۴۴	۱۴۲	۱۴۷	۱۴۳
۱۴۳	۱۴۷	۱۴۰	۱۴۶
۱۴۱	۱۴۵	۱۴۴	۱۴۶

8 IIII IIC III ۵۴

دیگر

(برائے مسان)

ترکیب :- جس بچے کو مسان کی شکایت ہو یعنی جس عورت کے بچے سوکھ سوکھ کر مر جاتے ہوں تو اس کو چاہیے کہ عود صلیب کی دو لکڑیاں یعنی جوڑا


لے کر ان دونوں ٹکڑیوں کے بیچوں بیچ سوراخ کرا لے کہ وہ ٹکڑیاں پھٹیں نہیں ان سوراخوں میں ڈورا ڈال کر اس بچے کے گلے میں ڈالے اور تین سال تک مسلسل ان ٹکڑیوں کو پڑا رہنے دے اور ڈورا جب خراب ہو جائے بدل دے انشاء اللہ تعالیٰ مسان کی شکایت جاتی رہے گی اور بچہ موٹا تازہ اور تندرست و توانا رہے گا۔ مجرب ہے۔

دیگر

(برائے مسان)

ترکیب ۱۔ جس بچے کو مسان کی شکایت ہو تو اس نقص کو لکھ کر دھجی میں لپیٹ کر گرہ لگا کر بچے کی بائیں کلائی میں بغیر موم جامہ کیے عمر، مغرب کے درمیان باندھ دیا جائے اور اگلے روز جب اس کلائی میں سے تعویذ کھولنے کا ارادہ کرے تو دوسرا تعویذ لکھ کر تیار رکھے اور پہلا تعویذ اس دھجی میں سے نکالتے ہی دوسرا اس دھجی میں فوراً رکھ دے اور اسی میں لپیٹ کر گرہ لگا کر کلائی میں باندھے اور پہلا تعویذ نکالنے کے وقت توڑے یا کسی دوسرے برتن میں آگ تیار رکھے اور گندی نالی جو گھر میں ہو اس کے قریب آگ رکھ لے اور یہ نکلا ہوا تعویذ کھول کر اسی وقت بچے کے تمام جسم پر ملے سر سے لے کر پیر کے تلے پر ملے جسم کا کوئی حصہ اس کے ملنے سے باقی نہ رہ جائے اور اگلے روز اس کو آگ میں ڈال دے اور ڈالتے ہی فوراً وہاں سے ہٹ جائے اور دھواں اس کے ڈالنے والے کو ذرا بھی نہ لگے فوراً ڈالتے ہی ہٹ جانا چاہیے اور دھوئیں کا خیال

رکھے۔ کہ کسی قسم کی چراند یا بو آتی ہے۔ دوبارہ جا کر دیکھے کہ نقش جل چکا ہے یا باقی ہے۔ اگر جلنے سے باقی رہ گیا ہے تو کسی چیز سے فوراً آگ پر رکھ دیا جائے۔ مگر دھوئیں کا خیال رکھے کہ جسم کے کسی حصہ پر نہ لگ جائے نقش کو بچے کے جسم پر لکھائی کی طرف سے ملنا چاہیے اور جو آدمی یا بچے کی ماں پہلے دن شروع کرے گا وہی مسلسل چالیس یوم برابر تک کرتا رہے گا۔ دوسرا آدمی نہ بدل جائے گا۔ اور اس کی آگ یا براکھ کو مکان کے باہر نالی میں ڈال دیا جائے۔ ان چالیس دن کے دوران جب جیب دھجی میٹی ہوتی رہے تب ہی دوسری پاک اور صاف دھجی بدل دی جائے۔ یہ نقش نہایت مجرب اور آزمودہ ہے۔ لیکن احتیاط لازمی ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو نقش صبح و شام گھول کر اس بچہ کو پلا یا جائے گا وہ بھی لکھا جاتا ہے ان دونوں نقشوں کے لیے وقت کی پابندی نہایت ضروری ہے کسی دن ناغہ نہ کیا جائے۔ چالیس دن کے واسطے باندھنے والے نقش اکٹھے لکھ کر بھی دیئے جاسکتے ہیں۔ اور روزانہ بھی لکھے جاسکتے ہیں جس میں لکھنے والے کو آسانی ہو وہ پیلا دھونی کا جو بچہ کی بائیں کلائی پر باندھا جائے گا۔ وہ نقش یہ ہے ۳۸۵



دوسرا نقش صبح شام پلانے کا وہ یہ ہے۔

۷۸۶

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

دونوں وقت پلانے والے نقش کا جو کاغذ ہوگا اس کو بحفاظت رکھا جائے اور چالیس دن پورے ہونے پر الگ الگ آٹے میں ان سب کی گولیاں بنا کر دریائیں یا حوض میں جہاں پھلیاں ہوں ڈال دیا جائے چالیس دن ختم ہونے والے چالیسویں روز بچہ کے گلے کے لیے تعویذ تیار کیا جائے جو بچے کے گلے میں موم جامہ کر کے ڈال دیا جائے گا وہ یہ ہے۔

يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا مُحَمَّدًا يَا حَضْرَتَ أَبَا بَكْرٍ صَدِيقِ يَا
حَضْرَتِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَا حَضْرَتِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا
دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا
دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا دَوْلَا

جب تعویذ تیار کر لے گا تب یہ دھونی کا نقش تیار کرے اور اس کا تید بنا کر بچہ کو اوڑھا کر بچے کو دھونی دے یعنی آگ پر وہ نقش ڈال کر اس کا دھواں کپڑا اوڑھے ہوئے بچے کو دے اور جب دھونی دے چکے تب وہ گلے والا تعویذ بچے کے گلے میں فوراً ڈال دے اور حسبِ توفیق شیرینی یا مٹھائی

مگنا کراس پر فاتحہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مومنین اور مومنات کی
 رزقوں کو ثواب پہنچا کر بچوں کو اس مٹھائی کو تقسیم کر دے۔
 وہ چالیسویں دن دھونی کا نونیذیہ ہے۔

۵۷	۶۰	۶۶	۶۳
۶۸	۶۳	۵۸	۶۹
۶۲	۶۵	۶۲	۵۹
۶۱	۶۰	۶۱	۶۶

۶ ۸ III II G III ۵۵

دیگر

(برائے مسان)

ترکیب۔ جو بچہ اپنے والدین کے تول کے مطابق پہلے موٹا فریہ ہو اور اب
 مسان کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے دن بدن کمزور اور پتلا ہوتا جاتا ہو
 تو اس بچے کے بائیں کان میں یہ آیت شریفہ سات مرتبہ سات دن تک برابر
 پڑھ کر دم کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ بچے کا جسم فریہ ہو جائے گا۔ اور اصلی حالت پر
 آجائے گا وہ آیت مبارکہ یہ ہے۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَاعِلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَبَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۝

برائے حاجت

عمل

ترکیب: جب کوئی مصیبت نازل ہو یا کوئی پریشانی دیکھیں ہو تو چاہیے کہ رات کو نصف حقہ میں اٹھ کر وضو کرے اور دس رکعتیں ادا کرے جس وقت سلام پھیرے تو قبلہ رو بیٹھا ہے اور اس دس رکعتوں کو ایک ہزار مرتبہ پڑھے۔

وہ دس رکعتیں یہ ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُجَلُّ بِهَا عُنُقَاتِي وَ
تُقَرَّرُ بِهَا كُرْبَاتِي وَ تُقْفَى بِهَا حَاجَتِي ۝
دس رکعتوں کو پورا کر کے باری تعالیٰ کی جناب میں دعا کرے ضرور قبول ہوگی، اس کے فوائد کثیر ہیں جو کہ نحمدہ میں نہیں آسکتے۔ مجرب ہے۔

دیگر

(برائے حاجت)

ترکیب: قرآن مجید میں دو آیتیں ایسی جامع اور مانع ہیں کہ وہ دنیا میں اپنی مثال نہیں رکھتیں۔ جو شخص ان دونوں آیتوں کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو خدا تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں کو آسمان فرما دے گا اور دشمن پر فتح مندی عنایت فرمائے گا اور تمام ہوم و غوم کو دو فرمائے گا اور یہ دونوں آیتیں امراض ظاہرہ کے لیے بے حد مفید ہیں اور کسی پاک مشتری پر لکھ کر مغلطاب

اور روغن زیتون سے دھو کر جسم پر ملنے سے مریض بہت جلد شفا یاب ہوگا اور
یہ روغن، زنبور (بھڑیا تیا) کے کالے اور پھوڑے پھنسی کے لیے اکیر ہے۔
پہلی آیت یہ ہے۔

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكَ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً
مِّنْكَ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ
الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ
كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ
لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ لَّمَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بَيِّنَةٍ
لَمَا لِرِزَالِ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاهِمْ وَلَا يَبْتَلِي اللَّهُ
مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِدَاتِ الصُّدُورِ -

دوسری آیت یہ ہے۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ
فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ
فِي الْإِنْجِيلِ كَذَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى
سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

دیگر

برائے حاجت

ترکیب: جس شخص کو کوئی سخت حاجت پیش آئے پس اس کو چاہیے کہ سجدہ کی حالت میں چالیس مرتبہ اس دعا کو پڑھے اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتا جائے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرے، انشاء اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی جب تک حاجت رفع نہ ہو برابر اس کو کرتا رہے،

دوسری جگہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھ کر اپنی حاجت چاہے گا تو خدا تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا وہ دعا یہ ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ

مِنَ الظَّالِمِينَ

دیگر

(برائے حاجت)

ترکیب: جو شخص اس کو کسی ضرورت کے لیے تین سو دفعہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی حاجت پوری فرمائیں گے، وہ یہ ہیں۔

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا كَرِيْمُ۔ اس جملے پر آنے کے وقت اپنے مقصد کا خیال رکھے، اس سخت کام کو اسان کر بھئی اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ

تَتَّعِبِينَ كَمَازِكُمْ خَالِيسِ يَوْمٍ كَمَا جَاءَ وَأَنْتُمْ لَمْ تَتَّعِبِينَ كَمَا جَاءَ
 تَبِ خَالِيسِ يَوْمٍ كَمَا جَاءَ وَأَنْتُمْ لَمْ تَتَّعِبِينَ كَمَا جَاءَ

دیگر

(برائے حاجت)

ترکیب از جو شخص اس عمل کو صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام کو مغرب کی نماز
 کے بعد روزانہ ایک مرتبہ پڑھے گا انشاء اللہ تعالیٰ تمام حاجتیں جو وہ رکھتا ہو
 اللہ کے کرم سے پوری ہوں گی خصوصاً دشمنوں کے شر اور مکر و فریب سے
 بالکل محفوظ رہے گا اور موت کے سوا ہر قسم کی بلا و مصیبت سے بچتا رہے
 گا جب عامل اس عمل کو بھول جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے مرنے کا
 وقت قریب آ گیا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَرَسْتُ نَفْسِي وَ
 أَهْلِي وَمَالِي وَمَا حَضَرَنِي وَمَا غَابَ عَنِّي بِالنَّحْيِ الدَّارِعِ
 الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْحِجَاتُ ظَهَرِي فِي حِفْظِ
 ذَلِكَ لِلنَّحْيِ الْقَبُورِ -

(فَأَصْحَبْتُ) اگر صبح کو بعد نماز فجر پڑھ رہا ہے تو یہ کلمہ کہے (وَأَمْسَيْتُ) اگر شام
 کو بعد نماز مغرب پڑھ رہا ہے تو یہ کلمہ کہے دعا دونوں وقت پوری پڑھی جائے
 گی صرف صبح اور شام کے یہ کلمے وقت کے لحاظ سے دعائے ساتھ

پڑھنے میں

فِي جَوَارِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي لَا يُرَامُ وَلَا يُضَامُ وَلَا يُسْتَبَاحُ
 وَفِي ذِمَّتِهِ وَضَمَانِهِ الَّذِي لَا يَخْفُو ضِمَانَهُ . عَبْدِي
 وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى رَبِّي وَرَبُّ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا تَوَكَّلْتُ عَلَى
 اللَّهِ وَاعْتَصَمْتُ بِاللَّهِ وَقَضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ نِعْمَ
 الْقَادِرُ اللَّهُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
 إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى
 الصَّالِحِينَ ۝ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا عَدَدَ خَلْقِهِ وَ
 رِضَاءِ نَفْسِهِ وَزِينَةِ عَرْشِهِ وَمِدَادِ كَلِمَتِهِ . لَقَدْ
 جَاءَكَ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكَ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
 عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ . فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

دیگر

(برائے حاجت)

ترکیب اسے یہ نقش مکرم سورہ یس شریف کا ہے۔ جملہ حاجت کے لیے سیرج
 تاثیر ہے۔ مثلاً حب کے لیے، بغض کے لیے، شفاءِ امراض کے لیے،

علوے مراتب کے لیے دفع اثر زہر کے لیے مجرب ہے۔
نقشِ مکرم یہ ہے۔

۷۸۶

۹۳۹۱۳	۵۳۹۱۶	۵۳۹۱۹	۵۳۹۰۵
۵۳۹۱۴	۵۳۹۰۶	۵۳۹۱۲	۵۳۹۱۷
۵۳۹۰۷	۵۳۹۱۱	۵۳۹۱۳	۵۳۹۱۱
۵۳۹۱۵	۵۳۹۱۰	۵۳۹۰۸	۵۳۹۲۰

دیگر

(برائے حاجت)

ترکیب ۱۔ اگر کوئی کار خیر میں حیران ہو آدھی رات کو کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر دو رکعت بلا تعین سورۃ پڑھے۔ پھر سجدہ میں جا کر ایک ہزار دفعہ یہ دعا پڑھے اور سو جائے کوئی اس کی مدد فرمائے گا۔

يَا رَبِّ رُدَّنِي عَلَىٰ عَيْدِي مِنْ عِمَادِكَ الْمَقَرَّ بَيْنَ حَتَّى
يَدُنِي عَلَيْكَ وَيُعْرِفَنِي طَرِيقَ الْوَصُولِ إِلَيْكَ -

اس عمل کو سات یا گیارہ دن تک کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مقصد میں کامیاب

ہوگا۔

دیگر

(برائے حاجت)

ترکیب: بعد نوافل مغرب تنہائی میں بیٹھ کر اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر سو دفعہ یَا رَبِّ یَا رَبِّ کہے جو خدا سے چاہے گا وہ ملے گا اور اگر ہزار دفعہ اس کی تکرار کرے گا تو یقیناً اس کی انشاء اللہ تعالیٰ حاجت پوری ہوگی سات دن تک اس عمل کو کرے۔ عروج ماہ میں نوچندی جمعرات سے شروع کرے۔

دیگر

(برائے حاجت)

ترکیب: جس شخص کو کوئی سخت کام درپیش ہو تو اس کو چاہیے ہر نماز کے بعد سجدہ میں گھر کر چند مرتبہ یہ کلمات پڑھے جب تک وہ پریشانی دور نہ ہو برابر کرتا رہے وہ دعا یہ ہے۔

اللَّهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَفْتِحُكَ بِاِمْرِ يَحْيٰى بْنِ زَكَرِيَّا
يَا مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

دیگر

(برائے حاجت)

ترکیب: جو شخص پریشان حال ہو۔ وہ اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے روزانہ

فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ستر مرتبہ یہ دعا پڑھے گا تو حق تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے بشرطیکہ توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ اپنے ارادے میں کامیاب ہوگا۔
وہ دعا یہ ہے۔

يَا شَفِيقُ يَا رَفِيقُ نَجِّنِي مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ ۝
جب تک مقصد حاصل نہ ہو برابر پڑھتا رہے۔

دیگر

(برائے حاجت)

ترکیب: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ کو روزانہ سات سو ستاسی ۷۸۶ مرتبہ ایک چلم (یعنی چالیس روز تک) بعد نماز فجر بعد نماز عشاء اور بعد نماز تہجد پڑھے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ جملہ مشکلات اس کی آسان ہوں گی۔ آزمودہ اور مجرب ہے لیکن اس میں اکل حلال صدق مقال، غیبت وغیرہ تمام برائیوں سے پرہیز لازمی ہے۔ بسم اللہ کے عدو الف الرحمن کے اعتبار سے سات سو ستاسی ہوتے ہیں۔

پہرہ ہیز
لہسن، پیاز، انڈا، پھلی، گوشت بڑے اور چھوٹے کا اس
کے علاوہ ہر چیز کھا سکتا ہے۔

دیگر

(برائے حاجت)

ترکیب ۱۔ اس دعا کو روزانہ دو سو مرتبہ پڑھیں انشاء اللہ تعالیٰ آٹھ آنے
روزانہ ملیں گے وہ دعا یہ ہے۔

يَا دَاثِرِ الْعِزِّ وَالْبَقَاءِ يَا وَاهِبِ الْوُجُودِ وَالْعَطَاءِ يَا وَدُودِ ذُو الْعَرْشِ
الْمَجِيدِ فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ اللَّهُ رَبَّنَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا مَا يَدِينَهُ مِنَ السَّمَاءِ
تَكُونُ لَنَا عَيْدًا أَلَّاؤًا لِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ
الرَّازِقِينَ، بِحُرْمَةِ تَنكِفِ بِحَقِّ يَا صَدِّ الْعَقَّارِ ذَا الْمَنِّ عَلَى جَمِيعِ
خَلْقِهِ بِطُفْقِهِ يَا صَدِّ -

دیگر

(برائے حاجت)

ترکیب ۱۔ ایک سو گیارہ بار اس وظیفے کو پڑھیں انشاء اللہ تعالیٰ روزی فراخ
ہوگی اور پریشانی دور ہوگی وظیفہ یہ ہے۔

اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْنَا قَبْلَ الْمَوْتِ وَهَوْنٌ عَلَيْنَا شِدَّةَاتِ الْمَوْتِ
وَارْحَمْنَا عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا تُعَذِّبْنَا بَعْدَ الْمَوْتِ يَا خَالِقَ الْحَيَاةِ وَ
الْمَوْتِ تَوْفَّنَا مُسْلِمِينَ وَالْحَقَّنَا بِالصَّالِحِينَ -

جب تک پریشانی دور نہ ہو۔

دیگر

(برائے حاجت)

یہ دعا سو بار روزانہ پڑھے۔

اللَّهُ يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ وَيَا مُسَيَّبَ الْأَسْيَابِ وَ
 يَا مُسَهِّلَ الْأَصْعَابِ وَيَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ
 وَيَا دَلِيلَ الْمُتَحَيِّرِينَ وَيَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ تَوَكَّلْتُ
 عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَيْكَ يَا رَبِّ لِأَحْوَالِ وَلَا
 قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بِوَجْهِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

برائے خواب

عمل

(مردہ و زندہ کو خواب میں دیکھنا)

ترکیب :- جس شخص کا ارادہ ہو خواب میں دیکھنے کا اپنے حبیب کو خواہ زندہ
 ہو خواہ مردہ ہو تو چاہیے اس کو اپنا بستر پاک رکھے اور اپنی اہل سے علیحدہ
 سوئے سونے سے قبل دو رکعت نماز ادا کرے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ
 کے بعد سات مرتبہ سورہ والشمس اور دوسری رکعت میں سات مرتبہ
 سورہ واللیل پڑھے پھر سلام پھیرے اور جس قدر ہو سکے درود شریف
 پڑھے اور پھر اس نقش کو لکھے اور لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ کر سو جائے۔

پس دیکھے گا وہ جو کچھ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کی مدد اور اس کی توت سے دیکھے گا سوتے وقت داپنی کر دٹ سے سوتے سوتے ہوئے کوئی پہلو بدل جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

نقش یہ ہے... اس کو بدھ کی شب سے شروع کیا جائے

ک	ل	م	ص
ل	م	ص	ک
م	ص	ک	ل
ص	ک	ل	م

دیگر

(مردہ یا زندہ کو خواب میں دیکھنا)

ترکیب ۱۔ سونے سے پہلے چاہیے وضو کرے اور پاک لباس پہنے، خوشبو اور عطر وغیرہ لگائے اور ایک مرتبہ سورہ وَاللَّیْلِ اور ایک مرتبہ سورہ وَالتَّحِیِّیْنَ پڑھے بعد اس کے یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ اَرِنِي فِي مَنَامِي كَذَا وَكَذَا وَاجْعَلْ لِي مِنْ
اَمْرِي فَرَجًا وَمَخْرَجًا وَارِنِي فِي مَنَامِي مَا اسْتَدِلُّ
بِهِ عَلٰى اَجَابَةِ دَعْوَتِي -

انشاء اللہ تعالیٰ پہلی ہی رات کر مفسور زپا سے گا۔ اگر نہ پائے تو دوسری یا تیسری شب کر ورنہ ساتویں شب تک ایسا کرنے اگر ساتویں شب کرنے دیکھے تو جاننا چاہیے کہ عمل میں کون کئی روکتی ہے۔۔۔ یعنی کپڑے پاک نہ ہوں یا بستر ناپاک، اس لیے اپنے کپڑے اور بستر و رزوں کا پاک ہونا نہایت ضروری ہے۔ مجرب ہے۔ یہ عمل بدعت کی شب میں ضروری ہے کیا جائے

دیگر (برائے خواب)

ترکیب جس چیز کا خواب میں دیکھنے کا ارادہ ہو تو چاہیے کہ سونے سے قبل اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھے۔
وہ دعا یہ ہے

اللَّهُمَّ يَا رَبَّ إِنِّي أَهْبِكُ بِمَوْصِلِي وَرَبِّ اسْمِئِيلَ وَيَسْحَقَ وَيَسْحَقَ وَيَسْحَقَ
وَرَبِّ جِبْرَائِيلَ وَرَبِّ مِيكَائِيلَ وَرَبِّ إِسْرَافِيلَ وَرَبِّ
عِزْرَائِيلَ مَنزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالذُّبُورِ وَالْفُرْقَانِ
الْحَلِيلِ أَرِنِي فِي مَنَافِعِي مَا يَنْبَغِي لِخَيْرَاتِي

اس کو پڑھ کر چھ پر سیدھنی کر دیتا ہے پھر پڑھے بِنَافِعِي الْحَلِيلِ جب تک سینہ نہ آئے اس کو برابر پڑھتا رہے یہاں تک کہ اس کو پڑھنا پڑھنا سر جائے۔ خدا کے حکم سے اس کو دیکھ لے گا جس کے دیکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ مجرب ہے۔ اس عمل کو بدعت کی شب سے شروع کیا جائے اور سات دن تک کرے

دیگر

(برائے نواب)

ترکیب: جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ سونے سے پہلے غسل کرے اور دو رکعت نماز پڑھے اور نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ کر پاک بستر پر سو جائے۔

وہ دعا یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي دِكْرِي وَجْهَكَ وَعَزَّ جَلَالُكَ
اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى دَوَامِ احْسَانِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ اللّٰهُمَّ اِنِّي
اَسْئَلُكَ بِاَنْقُرَانِ الْعَظِيمِ وَبِنُورِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ الَّذِي اشْرَقَتْ
بِهِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ وَاسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تُنَزِّلُ بِهِ الْمَطَرَ
وَالرَّحْمَةَ عَلَى مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ اللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَنْتَ الْهَيَّا وَاَنْتَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مَا دَعَوْتُكَ بِهِ اَنْ تَرَانِي فِي
مَنَامِي هَذَا سَيِّدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ
تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا اَعَدَّ دَخْلِقَهُ وَرَضِيَ تَقْسِيْمَهُ وَرِزْنَةَ
عَرْشِهِ وَمِدَادًا كَلِمَتِهِ۔

پس زیارت سے مشرف ہوگا۔ اس عمل کو بدھ کی شب سے شروع کرے اور تین شب مسلسل کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ پہلی ہی شب میں ورنہ تین راتوں کے اندر ضرور زیارت سے مشرف ہوگا۔

دیگر

(عمل برائے زیارت نبیؐ)

ترکیب: جو شخص خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ دو رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے (قل ہو اللہ شریف) جب نماز سے فارغ ہو جائے تو اس دعا کو سات مرتبہ پڑھے۔

يَا مُحَمَّدُ يَا مَجِيْلُ يَا مُنْعَمُ يَا مُقْتَدِرُ اَرِنِي وُجْهَ جَبِيْنِي
وَنَبِيْتِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝

انشاء اللہ تعالیٰ وہ زیارت سے مشرف ہوگا اس عمل کو پڑھنے کے وقت ان باتوں کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، بستر پاک ہو اور عطریات سے ہر چیز کو بسائے اور اس کے شروع کرنے کا دن منگل ہو کر بدھ کی شب سے ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ پہلی ہی شب میں در نہ تین راتوں میں ضرور زیارت سرور کو نہیں سے مشرف ہوگا۔ جرت ہے۔

دیگر

(برائے خواب)

ترکیب: جو شخص اپنے دینی و دنیوی کاموں کے متعلق معلوم کرنا چاہے کہ اس کام میں میرے لیے مصلحتی ہے یا برائی تو اس کو چاہیے کہ اس نقش کو

لکھ کر اپنے سر ہانے تکیے کے نیچے رکھے اور داہنی گروٹ پر لیٹے۔ انشاء اللہ
 تعالیٰ سب حال اس پر روشن ہو جائے گا۔ اس کو منگل کا دن ختم ہو کر بدھ
 کی شب سے شروع کرنا چاہیے۔ لیکن یہ عمل کرنے والے کے کپڑے پاک
 بستر پاک، اور جسم پاک ہونا چاہیے اور اپنے جسم کپڑے اور بستر کو خوشبو سے
 عطر کی بسالینا چاہیے یہ عمل پانچ یا سات دن تک کیا جائے گا نہایت برت ہے۔
 وہ نقش یہ ہے۔

الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا

۷۸۶

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ

۳۰۶۲	۲۰۶۵	۲۰۶۸	۲۰۵۲
۲۰۶۷	۲۰۵۵	۲۰۶۱	۲۰۶۶
۲۰۵۶	۲۰۷۰	۲۰۶۳	۲۰۶۰
۲۰۶۴	۲۰۵۹	۲۰۵۷	۲۰۶۹

الَّذِي يَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا

رَطِيبٌ وَلَا يَأْتِيهِ الْآثَمُ وَلَا يَأْتِيهِ

بِأَنَّهَا تَحْتَهُ وَنُورٌ فِيهَا وَنُورٌ فِيهَا وَنُورٌ فِيهَا

دیگر

(برائے خواب)

(عمل زیارت نبیؐ)

ترکیب :- جو شخص خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت
 سے مشرف ہونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ شب جمعہ کو دو رکعت نماز پڑھے
 اور ہر رکعت میں آیتہ الکرسی ایک دفعہ اور سورہ اخلاص پندرہ دفعہ پڑھے اور

سلام پھرنے کے بعد حضور قلب کے ساتھ یہ دعا بلا تعدد پڑھے۔
 اللَّهُمَّ أَنْزَلْتَ الْمَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ لِتُحْيِيَ بِهِ الْأَرْضَ
 وَتَسْقِيَ بِهِ الْعِبَادَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ اسْتَدَّ شَتْوِي
 إِلَى مُحَمَّدٍ وَطَالَ حُزْنِي بِكَ اللَّهُمَّ فَارْحَمْنِي وَمُنِّ عَلَى مَنْ
 نَظَرَ وَجْهَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝

اس عمل کو پڑھنے کے وقت ان باتوں کا لحاظ نہایت ضروری ہے۔
 کپڑے پاک ہوں جسم پاک ہو، بستر پاک ہو اور عطریات کی خوشبو سے تمام چیزیں
 بسی ہوئی ہوں جب تک زیارت نہ ہو برابر عمل کو کرتا رہے۔

دیگر

(برائے خواب)

ترکیب: جو شخص اپنے حالات دینی و دنیوی میں سے کچھ معلوم کرنا چاہے
 تو اس کو چاہیے کہ دو رکعت نماز استخارہ ادا کرے اور بعد میں اس دعا
 کو (۱۴۱) بار پڑھے اور اگر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھے کسی سے بات
 کیے بغیر سو جائے، ہونے کے وقت اپنے مطلب کا دل میں خیال رکھے،
 انشاء اللہ تعالیٰ خواب میں تمام حقیقت واضح ہو جائے گی۔ بدھ کی
 شب سے شروع کرے اور تین یا پانچ یا سات دن تک کرے۔
 وہ دعا یہ ہے۔

مَنْ مَرَّ بِحَالٍ تُسْتَبَىٰ بِأَعْيَانِ الْغَيْبِ يَا عَطَّاشِي

عَلِيٌّ يَا عَطَاثَةَ مَا سُؤْلٌ ۴ -

نہایت مجرب ہے آزمائے اور دیکھے، پڑھنے والے کا لباس پاک، بستر پاک اور جسم پاک ہونا نہایت ضروری، خوشبو سے ہر چیز کو بسائے۔

دیگر

(برائے خواب)

ترکیب: جو شخص کہ اپنے نیک و بد سے خبردار ہونا چاہے۔ یعنی دین اور دنیا کے حالات معلوم کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس تعویذ کو لکھ کر جس مقصد کے معلوم کرنے کا ارادہ کرے گا اور اس کو اپنے سر کے نیچے تکیے کے نیچے رکھ کر سوئے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا جواب خواب میں پائے گا عمل کرنے والے کو اپنے کپڑے جسم اور بستر پاک رکھنا نہایت ضروری ہے ہر چیز کو خوشبو میں بسائے نہایت مجرب ہے۔
وہ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۸	۱۱	۸۸۳	۱
۸۸۲	۲	۷	۱۲
۳	۸۸۵	۹	۶
۱۰	۵	۴	۸۸۴

القابض

دیگر

(برائے خواب)

ترکیب اسے سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بسترے پر بیٹھ کر اس کو پڑھے
پہلی مرتبہ پانچ بار اَعُوذُ بِاللّٰهِ پوری اور پھر پانچ بار بِسْمِ اللّٰهِ شریف پوری
اور پھر اس دعا کو اکیس بار پڑھے۔

اللّٰهُمَّ بِعَنِّ مُحَمَّدٍ اَرِنِي وُجْهَ مُحَمَّدٍ حَاكَا وَّمَا لَا
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا
اِلَهَ الْاَزَلِ اَنْتَ اَسْأَلُكَ اَنْ تُعْجِي قَلْبِي بِتَوْمَعْرِفَتِكَ
يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ

یہ عمل اس ترکیب سے پڑھا جائے گا اور پھر اس کو پڑھ کر دعا کرے کہ
اے خدا فلاں کام کا حال مجھ کو معلوم ہو جائے جو کچھ تیرے علم میں ہے مجھ کو
بذریعہ خواب یا کسی آواز دینے والے کے ذریعے آگاہ فرما پھر داپنے منہ کو روٹ
سے سو جائے سوتے وقت سر قطب کی طرف اور منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے
خواہ زمین پر ہو یا پنگ ہو انشاء اللہ تعالیٰ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا لیکن
ساتھ ہی ان تمام باتوں کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ کپڑے پاک ہوں
جسم پاک ہو بستر پاک ہو اور خوشبو میں ہر چیز بسی ہوئی ہو نہایت
مجرّب ہے۔ منگل کا دن ختم ہو کر بدھ کی شب سے شروع کرے اور
تین روز پانچ روز یا سات روز تک کرتا رہے۔

دیگر

(برائے خواب)

(دیکھنا آنحضرتؐ کو خواب میں)

ترکیب:۔ ثوبان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے کہ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سوتے وقت یہ کلمے پڑھے جو خواب میں دیکھے۔

اللَّهُمَّ رَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْمَقَامِ الرَّاقِ وَأَرْضِ رَوْحِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

لیکن ان باتوں کا خیال ضرور رکھے کہ اس کا جسم پاک ہو کپڑے پاک ہوں اور بستہ پاک ہو اور خوشبو میں تمام چیزیں بسی ہوئی ہوں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ضرور زیارت سے شرف ہوگا۔

بدھ کی شب سے شروع کرے ورنہ کھنے سے بہت جلد اپنے مقصد

میں کامیاب ہوگا۔

دیگر

(برائے خواب)

ترکیب:۔ جس کسی خواب میں دیکھنا منظور ہو کہ وہ زندہ ہے یا مگر گیا تو غسل کرے اور پاک کپڑے پہنے بعد نماز عشاء چار رکعت نفل پڑھے الحمد شریف کے بعد سورۃ النکاح

چاروں رکعتوں میں ایک ایک بار پڑھے۔ پھر پاک بستر پر لیٹ کر اس دعا کو پڑھتا ہو اسو جائے انشاء اللہ تعالیٰ پہلی ہی رات میں دیکھے گا ورنہ تیسری رات میں ضرور اپنے مقصد کو پہنچے گا مسلسل تین رات یہ عمل کیا جائے اس عمل کو منگل کا دن ختم ہونے کے بعد بدھ کی شب سے شروع کیا جائے۔

وہ دعا یہ ہے۔

اللَّهُمَّ آدِنِي قُلَانٍ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا۔

جس کو دیکھنا ہو عورت ہو یا مرد فلاں کی جگہ اس کا نام لیا جائے۔

بھاگنے والے کے لیے

عمل

ترکیب :- جو شخص کہ بھاگ گیا ہو تو اس کو واپس لانے کے لیے سات مرتبہ سورہ یس شریف پڑھے۔ جب مکر میں "پرائیں تو بھاگے ہوئے کا نام لیں اور ایک قفل پر دم کر کے بند کر دیں۔ پھر اسے ہوا میں پھینک دیں تاکہ چکر کھا کر لوٹ آئے مجرب ہے۔ (قفل یعنی تالا) سورہ یس شریف پوری پڑھی جائے گی تالے کو ہوا کی رخ کی طرف پھینکیں۔

دیگر حکم

(بھاگنے والے کیلئے)

ترکیب :- جو شخص کہ بھاگ گیا ہو تو اس کو واپس لانے کے لیے یہ نقلی حکم لکھو

کر ایسی جگہ باندھیں کہ ہوا سے متحرک ہو انشاء اللہ تعالیٰ مفرور واپس آئے گا مجرب ہے
 مربع کے اندر جو جگہ چھوٹی ہوئی ہے۔ بھاگے ہوئے کا نام لکھے اور بھاگے
 ہوئے کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام لکھے۔

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ

تَنْكِيلٌ

الْفِي فُلَانٍ بَرَّكَرْدُ دَرَسُوَائِي خَانَه خُولِيَش

قَرَار تَكْبِير د

فُلَات

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

دیگر

(بھاگنے والے کے لیے)

ترکیب اگر کسی کا چھوٹا بچہ کھویا جائے یا بڑا آدمی بھاگ جائے تو اس آیت
 کریمہ کو ایک ہزار تین سو اکیس بار پڑھ کر دعا کرنا اور اس آیت شریفہ کو ایک مفید کاغذ
 پر تین مرتبہ مع بسم اللہ کے لکھ کر درخت پر لٹکانا بے حد مفید ہے خدا
 کے فضل و کرم سے بہت جلد بچہ اور بڑا واپس چلا آئے گا۔ آیت یہ ہے۔
 قَرَدَدْنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ
 أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

انشاء اللہ تعالیٰ ہفتہ نہیں لگے گا کہ کھویا ہوا بچہ مل جائے گا اور بڑا بھاگا ہوا
 واپس آجائے گا۔ پڑھتے وقت اس کا تصور کیا جائے گا، پڑھنے والا اپنا خاص
 آدمی ہوگا، ماں باپ یا کوئی اور جس نے دیکھا ہو اور لکھنے کے وقت کھوئے
 ہوئے کا نام اور اس کی ماں کا نام ضرور لکھا جائے گا۔

دیگر

(بھاگنے والے کے لیے)

ترکیب ۱۔ جو بچہ مدرسے یا مکتب سے بھاگتا ہو اس کے گلے میں ان مبارک
 آیتوں کو لکھ کر موم جامہ کر کے تعویذ و انا نہایت مفید ہے، وہ پچھ انشاء اللہ
 تعالیٰ بھاگنا چھوڑ دے گا و آیتیں یہ ہیں۔

كَلَّا بَلْ تُكَدِّبُونَ بِالذِّنِّ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لِنَجَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ
 يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ فِي جَحِيمٍ
 يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الذِّنِّ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ۔

دیگر

(بھاگنے والے کے لیے)

ترکیب ۱۔ جس کا بچہ گم ہو جائے یا بڑا بھاگ جائے تو ایسی صورت میں اس کو
 چاہیے۔ سورۃ والضحیٰ (یعنی والضحیٰ واللیل إذا سبخی) کی پوری سورت
 پڑھتا رہے۔ ومنزلہ اور ضرور وقت ہر حالت میں اس سورۃ مبارکہ کو پڑھتا رہے۔

انشاء اللہ تعالیٰ جس جگہ سے بچہ کھو گیا تھا اس جگہ پہنچانے والے آن کر
 پہنچ جائیں گے اور بچہ اسی مقام پر واپس آ جائے گا اور بڑا خود بخود گھبرا کر بیت
 جلد انشاء اللہ اپنی جگہ لوٹ آئے گا مجرب ہے۔ پڑھنے کے وقت بھاگے ہوئے
 کا تصور رکھنا نہایت ضروری ہے اس کی تعداد نہیں ہے بلاتعداد کثرت سے
 اس کو پڑھتا رہے۔

دیگر

(بھاگنے والے کے لیے)

ترکیب ۱۔ جس شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے یا بچہ کھویا جائے تو اس کو چاہیے
 کہ اس درود شریف کو لکھ کر کسی درخت میں باندھ کر لٹکانے جو چیز گم ہو جائے
 اس درود شریف کے نیچے اس چیز کا نام لکھا جائے اور جو بچہ کھویا گیا ہے،
 اس بچے کا اور اس کی ماں کا نام ضرور لکھا جائے وہ درود شریف یہ ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

أَلْفَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَلْفَ أَلْفَ دَرَّةٍ ۝

(بھاگنے والے کے لیے)

ترکیب ۱۔ جس شخص کا بچہ کھو گیا ہو یا بڑا بھاگ گیا ہو تو وہ اس نقش
 مکرم کو لکھ کر انار کے درخت میں لٹکا دے انشاء اللہ کھویا ہوا یا بھاگا
 ہوا فوراً واپس ہو گا نہایت مجرب ہے۔ بھاگنے والے اور کھونے
 والے کا نام اور اس کی ماں کا نام ضرور لکھے۔

۷۹۵
 یَا اَللّٰهُ
 یَا اَللّٰهُ
 یَا اَللّٰهُ
 یَا اَللّٰهُ

الفی بحق ابن نقش مقروور
 فلاں بن فلاں (یعنی بھاگے ہوئے
 کا نام اور براس کی ماں کا نام) بیقرار شود۔ زود بیاید، زود بیاید۔ زود بیاید

دیگر

(بھاگنے والے کے لیے)

ترکیب ہے جو شخص کسی سے ناراض ہو کر چلا گیا ہو یا بھاگ گیا ہو تو اس آیت
 کو کسی کاغذ پر لکھ کر اور اس کاغذ کی تہہ بنا کر تعویذ بنانے اور ایک دھاگہ
 کے سفید سوت کا سات بالشت لہانے کر اس کو موڑ دے اس طرح وہ ایک
 ایک بالشت کے سات دھاگے بن جائیں گے ان سات دھاگوں کا ایک سراتہ
 کیے ہوئے تعویذ کے بیچوں بیچ باندھ دیا جائے گا اور دوسرا سر کسی اونچی
 جگہ یا اونچے مقام پر باندھ کر لٹکا دے جو ہوا سے ہلتا رہے، تعویذ میں بھاگے
 ہوئے کا نام اور اس کی ماں کا نام ضرور لکھنا ہے یہ کام اس کا ماں باپ یا کوئی
 رشتہ دار کرے گا تعویذ اس جگہ لکھنا ہے جہاں سے وہ بھاگا ہے انشاء اللہ
 تعالیٰ بھاگا ہوا بہت جلد واپس ہوگا۔

نہایت مجرب ہے وہ آیت یہ ہے۔

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُبَدِّلْ اللَّهُ وَجْهَ طَرَاقَ اللَّهِ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

الہی بحق این کلام مفرد فلاں بن فلاں بیقرار گردد، زود بیاید، زود بیاید، زود بیاید
تاکیداً ایسی حالت میں کہ جن کا کھویا ہوا بچہ واپس آجائے اور جھاگا ہوا لوٹ
آئے تو اس کے شکر یہ میں شیرینی ضرور تقسیم کر دینی چاہیے۔

برائے درد

عمل

ترکیب: جس شخص کے بیٹ میں درد ہو اس کے لیے دو ہاتھ کی مقدار کی
لکڑی مضبوط سی لے کر اس کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جس مقام پر درد
ہو رکھ کر سات مرتبہ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پوری پڑھ کر دم کرے۔ درد کی
جگہ پر لکڑی کو معمولی طریقے سے دبائے اگر درد جاتا رہے تو ضرورت نہیں
اور اگر درد دوسری جگہ منتقل ہو گیا ہے یعنی اس جگہ سے دوسری جگہ ہے تو
دوسری جگہ بھی اسی طرح سے پڑھ کر دم کرے اور دبائے انشاء اللہ تعالیٰ درد
جاتا رہے گا۔

دیگر

(برائے درد)

ترکیب: جس شخص کو فون کے دست درد کے ساتھ آتے ہوں اس کے

لیے روزانہ لکھ کر کاغذ پر، دھو کر پلائیں اور کاغذ کے ہونے کو بھی چبا کر کھالیں
انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد شفا ہوگی وہ آیت مبارکہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اِذْ قَالَتِ امْرَاةٌ عِمْرَانَ
رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا قَبْلَ مِنِّیْ
اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝

دیگر

(برائے درد)

ترکیب جس عورت کے ناف کے نیچے یعنی پیڑ میں درد ہو تو یہ آیت مبارکہ
لکھ کر پلائے انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی وہ آیت یہ ہے۔

مَنْ خَلَقْنَا هُمْ وَشَدَّ دُبَابَهُمْ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا
اَمْثَلَهُمْ تَبْدِيْلًا ۝

دیگر

(برائے درد)

ترکیب جس شخص کے پیٹ میں درد ہو تو پہلی بار پانچ مرتبہ پڑھ کر دم کر
کے ہاتھ سے پیٹ پر ملے۔ اگر درد جاتا رہا تو خیر ورنہ پھر گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم
کردو انشاء اللہ تعالیٰ درد جاتا رہے گا۔ وہ آیت شریفہ یہ ہے۔

وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تَسْعَطُ رَهْطٌ يُفْسِدُوْنَ فِي

الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۝

دیگر

(برائے درد)

ترکیب: یہ دعا درد شکم دور کرنے کے لیے مجرب ہے، اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو اس مبارک دعا کو لکھ کر دھو کر پلائیں، فی الفور درد موقوف

ہو جائے گا دعا یہ ہے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْبَاسِطُ وَأَنَا الْمَبْسُوطُ قَمِنْ بَدَاعِ الْمَبْسُوطِ إِلَّا الْبَاسِطُ يَا اللَّهُ

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

دیگر

(برائے درد)

ترکیب: جس کے پستان میں درد ہو۔ اس نقشیں مکرم کو لکھ کر پائیں اور ایک لکھ کر مریض کے گلے میں باندھیں انشاء اللہ تعالیٰ شفا یاب ہوگی سات روز تک برابر پلانا چاہیے اور اس پانی کو سینے پر بھی ملنا چاہیے، اس امر میں کبیر کا حکم رکھتا ہے۔

۸	۱۲	۱۵	۱
۱۳	۲	۷	۱۳
۳	۱۷	۱۰	۶
۱۱	۵	۴	۱۶

دیگر

(برائے درد)

ترکیب جس کو درد گلو کی شکایت ہو یا دم ہو تو اس حکم پر یہ نقش لکھ کر
باندھیں انشاء اللہ تعالیٰ کلی صحت ہوگی۔

نقش یہ ہے۔

موطیل	وطل
وطل	موطیل

دیگر

(برائے درد)

عمل برائے علاج عرق النساء

ترکیب ۱۔ ایسے مریض پر سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص (یعنی الحمد شریف پوری
اور سورۃ قل ہو اللہ شریف پوری) سات مرتبہ اور اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ
کردم کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ جلد شفا ہوگی۔ وہ دعا یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الْكَافِي بِسْمِ اللّٰهِ الشَّافِي بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ
شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتَنْزِيلُ مِنَ
الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

اس آیت کو سات مرتبہ پڑھے اور اس آیت کے بعد اس آیت کو ایک مرتبہ

پڑھے جو آگے لکھی ہوئی ہے یعنی وہ یہ ہے۔
 قَدْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لِّرَأْيِنَا أَنَّهَا تَأْتِيكُمْ مُّتَمَدِّدَةً وَأَنَّ خَشْيَةَ
 اللَّهِ فِي تِلْكَ الْأَمْثَالِ لَتُنذِرُ بِنهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ
 الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
 هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
 الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ لَا يُؤْتَىٰ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ
 الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ


دیگر

(برائے درد)

ترکیب ایسے شخص کے دانتوں میں درد ہو تو یہ عمل اس طرح کیا جائے اول
 گوشے میں پہلے چھری کا لڑک کر یعنی دبا کر یہ پڑھے۔
 اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِ ذَهَبِ عِشْمَانَ بْنِ عَقَّاتٍ۔

اور چھری کو اس گوشہ پر خوب زور دے اور سرین سے کہہ دیا جائے
 کہ جس دانت میں درد ہے اسے خوب زور سے پکڑے اگر درد جاتا
 رہے تو غیر درندہ دوسرے، تیسرے، چوتھے گوشے پر اسی طرح
 کرے۔

انشاء اللہ تعالیٰ درد بالکل جاتا رہے گا۔



دیگر

(برائے درد)

ترکیب ۱۔ جس شخص کے جس دانت میں درد ہو اس تعویذ کو لکھ کر دانت کے نیچے رکھے انشاء اللہ تعالیٰ درد جاتا رہے گا۔

أَيْهَا الضُّرُسُ الضُّرُوسِ اسْكُنْ بِقُدْرَةِ
الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ -

دیگر

(برائے درد)

ترکیب ۱۔ جس شخص کے جس مقام پر عرق النساء کا درد ہو اس جگہ پر اس آیت شریفہ کو پڑھ کر دم کرے اور نابالغ بچہ کی کاکاتا ہو اسوت لے کر دانتا لبا کیا جائے کہ وہ بندھے کی جگہ پر آسانی سے بندھ جائے، اس میں سات گروہ لگائے ایک دفعہ پڑھ کر پہلی گروہ پر دم کرے دوسری دفعہ پڑھے، دوسری گروہ پر دم کرے اسی طرح ترتیب

سے سات گرہوں پر سات مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور جس جگہ درد ہو اس درد کی جگہ اس گنڈے کو باندھے انشاء اللہ تعالیٰ درد جاتا رہے گا۔ مجرب ہے۔
وہ آیت شریفہ یہ ہے۔

وَإِذَا قَاتَلْتُمُو نَفْسًا فَإِذَا رَأَيْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ
مَا كُنْتُمْ تُكْتُمُونَ ۝ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا
كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
تَعَلَّمُوا تَعْقِلُونَ ۝

برائے آسانی پیدائش

عمل

ترکیب: مندرجہ ذیل دعا کو کسی پاک طشتری پر رکھے اور دھو کر حاملہ کو پلائے
تھوڑا سا اس کے پیٹ اور ناف پر مل دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ جلد آسانی سے
بچے کی ولادت ہوگی دعا یہ ہے۔

كَأَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ يُرَوُّنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا غَشِيَةً أَوْضَحُهَا
لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ
حَدِيثًا يُنْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ
تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝

دیگر

(برائے آسانی پیدائش)

ترکیب ۱۔ اس نقش کو لکھ کر درزیہ کی حالت میں عورت کی داہنی ران میں
پاجامہ کے اندر باندھے۔

انشاء اللہ تعالیٰ آسانی سے بچہ پیدا ہوگا اور اگر کسی جانور کو تکلیف ہو تو
اس کے سینگ میں باندھے دونوں کے لیے بے حد مجرب ہے۔
نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۳۱	۲۶	۲۳
۳۲	۳۰	۲۸
۲۷	۳۲	۲۹

دیگر

(برائے آسانی پیدائش)

ترکیب ۱۔ اس نقش کو لکھ کر عورت کے داہنے ہاتھ پر رکھ دے اور عورت اس
نقش کو غور سے دیکھے جلد بچہ پیدا ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ، نقش یہ ہے۔

ح ح خ ط ظ غ ف ق ی ک ل م ا
ش ش و ہ ہ ہ اس و ک ل م

دیگر

(برائے آسانی پیدائش)

ترکیب: کوری ٹھیکری پر نقش لکھ کر ہاتھ کے نیچے دبا کر توڑ دے اس عمل سے بھی بچہ بہت جلد پیدا ہوگا وہ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۶	۷	۲
۱	۵	۹
۸	۳	۴

دیگر

(برائے آسانی پیدائش)

ترکیب: اگر بچہ پیدا ہونے میں سختی اور درد زہ کی شدت ہو تو یہ تعویذ لکھ کر پاک کپڑے میں رکھ کر بائیں ران میں عورت کے باندھے اور پیدا ہونے کے بعد فوراً اس کو کھول ڈالے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِہِ وَالْقَتَّ فَا فِہَا وَتَخَلَّتْ
وَاذْنَتْ لِرَبِّہَا وَحَقَّتْ اِہْمًا اِشْرَہْمًا۔



دیگر

برائے آسانی پیدائش

ترکیب ۱۔ تھوڑے گڑ پر اکیس بار دم کرے پھر عورت کو وہ کھلائے مجرب ہے
آیت شریفہ یہ ہے۔

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ
مَدَّتْ وَآلَقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ

دیگر

(برائے آسانی پیدائش)

ترکیب ۱۔ جس عورت کے پیٹ میں پچھ مر گیا ہو تو یہ تعویذ لکھ کر اور دھو کر پلانے
خدا کے فضل سے جلد باہر آوے۔ وہ تعویذ یہ ہے۔

ح ح ح ع د د ك ر د ط
۲۵۱ کہ کہ ک و

دیگر

(برائے آسانی پیدائش)


ترکیب ۱۔ اگر لڑکا پیدا ہونے میں سختی و دروزہ کی شدت ہو تو یہ عبادت لکھ کر

پاک کپڑے میں رکھ کر بائیں ران میں عورت کے باندھے اور بعد پیدا ہونے
 لڑکے کے فوراً اس کو کھول دے۔

حنت و لدت یحیی و مریر و لدت عسی لارض
 و ندعوك یا ولد اخرج یا ولدہ

دیگر

(برائے آسانی پیدائش)



تقریباً یہ نقش سرعت ولادت کے لیے برب ہے پمیل کے پتے
 پر لکھ کر پانی میں دھو کر حاملہ عورت کے پلائے
 انشاء اللہ بچہ جلد پیدا ہوگا۔ دروزہ کی کچھ تکلیف نہ ہوگی

دیگر

(برائے آسانی پیدائش)

ترکیب ۱۔ جس عورت کے بچہ پیدا ہونے کے وقت سخت تکلیف ہو اور درد کی جگہ سے پریشان ہو تو اس کے واسطے یہ لکھ کر پیشانی پر باندھے انشاء اللہ تعالیٰ بچہ آسانی سے پیدا ہوگا وہ یہ ہے

الشُّكُورُ وَالصُّبُورُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

دیگر

(برائے آسانی پیدائش)

ترکیب ۱۔ جس عورت کے بچہ پیدا ہوتے وقت درد کی شکایت ہو اور بچہ پیدائش ہوتا ہو تو سخت تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کے لیے گڑ کی تین گولیاں بنا لیں اور ہر گولی پر تین تین مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر کھلائیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جلد سے جلد چھٹکارا ہو جائے گا۔

وہ آیت مبارکہ یہ ہے۔ اس کے اقل دو آخر دو شریف تین تین مرتبہ ضرور پڑھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّا خَلَقَ
خَلِقٌ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝ یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ
مَوَالِدًا یَبِیْ ۝

دیگر

(برائے آسانی پیدائش)

ترکیب: جس عورت کے دروزہ اٹھ رہا ہو اس نقش کو لکھ کر اس عورت کی بائیں ران میں باندھے، مگر ناپاک نہ ہونے دے، انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد بچہ پیدا ہوگا، اور پیدائش کے بعد فوراً یہ تعویذ کھول لے، جو نقش مثلث بائیں ران میں بندھے گا وہ یہ ہے۔

۷۸۶

۲	۹	۲
۳	۵	۷
۸	۱	۶

دیگر

(برائے آسانی پیدائش)

ترکیب: جس عورت کے بچہ پیدا ہونے کے وقت تکلیف ہو تو کاغذ پر یہ آیت شریفہ لکھے۔

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ أَهْيَا شَرَاهِيَا

اور اس کے تعویذ کو پاک دھبی میں لپیٹ کر عورت کی بائیں ران میں باندھے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد فوراً کھول لے، انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد بچہ پیدا

ہوگا نہایت مجرب ہے۔

بچہ کے رونے دھونے کے لیے

عمل

ترکیب ۱۔ جو بچہ روتا ہو خواہ لڑکا ہو یا لڑکی تو اس نقش کو لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالے۔ انشاء اللہ تعالیٰ رونا دھونا موقوف ہو جائے گا مجرب ہے۔

وہ نقش یہ ہے۔

فَا	سَّ	فَا	فَا
۳۶	۱۳۲	۶۲	۳۹
۶۱	۸۹	۶۱	۵۲
۸۹	۱۳	۶۱	

دیگر

(بچہ کے رونے دھونے کیلئے)

ترکیب ۱۔ جو بچہ روتا ہو اس قدر کہ گھر میں سب پریشان ہو تو اس کے لیے اس نقش کو لکھ کر بچے کے تکیہ میں سی کر سر کے نیچے رکھے انشاء اللہ تعالیٰ رونا بند ہو جائے گا جب تک سر کے نیچے یہ نقش رہے گا۔ (نقش آئندہ صفحہ پر ہے)

ع	ع	ل	ص
و	۱۷	۱۷	۱۳
ع	۷	۱۶	۱۳
۱۵	۲۳	۲	۱

دیگر

(بچہ کے رونے دھونے کیلئے)

ترکیب ۱۔ اگر بچہ روتا ہو تو دو دھونہ پتیا ہو ایک کاغذ پر ان مبارک آیتوں کا بچے کے گلے میں ڈالنا نہایت مجرب ہے۔ آیتیں یہ ہیں۔

وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانِنا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلِيُشْرِي
لِلْبِحْسِينِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ قَالَُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا
بِحَبْرَاءٍ بَيَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ

دیگر

(بچہ کے رونے دھونے کیلئے)

ترکیب ۲۔ یہ نقش مکرم بچہ کے رونے دھونے کے لیے مجرب ہے۔

اگر کسی کا بچہ روتا ہو تو اس نقش معظّم کو لکھ کر اس کے گلے میں باندھیں انشاء اللہ
 تعالیٰ اس کا رونا بند ہو جائے گا۔ نقش مبارک مع بسم اللہ اور اس آیت کو
 جو نقش کے نیچے لکھی ہے، لکھیں اور اس کا خیال نہ کریں کہ اس نقش کی چال
 صحیح نہیں ہے اور ہندسے مکرر آئے ہیں، وہ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۷	۴۴	۱۳	۸
۱۷	۲۴	۹۱	۳۴
۱۷	۱۳۴	۷۱	۱۲۳
۴	۹	۹	۱۲

لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا قَمَرًا ۝

دیگر

(بچہ کے رونے دھونے کیلئے)

ترکیب یہ ہے جو بچہ روتا ہو اور وہ بچہ درد بھی نہ پیتا ہو اس بچہ کے لیے اس
 آیت مبارکہ کو کسی کاغذ پر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالے۔

وہ آیت مبارکہ یہ ہے۔

وَجُودًا يُؤْمِنُ مَسْفِرَةً ۝ ضَاحِكَةً مُسْتَبَشِرَةً ۝ أَفْمِنْ
 هَذَا الْحَدِيثِ تَعَجُّبُونَ ۝ وَلَا تَصْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۝ وَأَنْتُمْ
 سِيدُونَ ۝

دیگر

(بچہ کے رونے دھونے کیلئے)

ترکیب :- جو بچہ روتا ہو اس نقشِ مکرم کو لکھ کر موم جامہ کر کے بچے کے گلے میں ڈالے وہ نقش یہ ہے۔ انشاء اللہ بچہ کا رونا بند ہو جائے گا۔

۷۸۶

۱۲۱۷۲	۱۲۱۷۹	۱۲۱۸۲	۱۲۱۶۹
۱۲۱۸۱	۱۲۱۷۰	۱۲۱۷۵	۱۲۱۸۰
۱۲۱۷۱	۱۲۱۸۴	۱۲۱۷۷	۱۲۱۷۲
۱۲۱۷۸	۱۲۱۷۳	۱۲۱۷۲	۱۲۱۸۳

دیگر

(بچہ کے رونے دھونے کیلئے)

ترکیب :- جو بچہ اس قدر روتا ہو کہ اس کی زبان ٹالو سے نہ نکلتی ہو اور تمام گھروالے اس کے رونے سے پریشان ہوں بشرطیکہ کان میں یا پیٹ میں درد نہ ہو یا ہنسی (یعنی مونڈھا) اتر نہ ہو تو اس صورت میں یہ سات جگہ لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالے اور ان میں ساتوں کو تین مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کرے انشاء اللہ تعالیٰ

رونا موقوف ہو جائے گا وہ یہ ہیں۔

ہٹی ہٹی ہٹی ہٹی ہٹی ہٹی ہٹی ہٹی ہٹی

دیگر

(بچہ کے رونے دھونے کیلئے)

ترکیب: جو بچہ بہت روتا ہو اور دودھ نہ پیتا ہو اس کے لیے آیت مبارکہ کو لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالیں انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی۔

وہ آیت مبارکہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ شَهِدَ اللّٰهُ اَنْهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
وَالْحَسْبُ لَکُمْ وَاُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ
الْحَكِیْمُ ۝ اِنَّ الدّٰیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ اِلٰسْلَامٌ ۝

دودھ بڑھ جانے کے لیے

عمل

ترکیب: جس عورت کے دودھ کی کمی ہو یا دودھ خشک ہو گیا ہو اس کو جاری کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ کو نمک لاہوری پر پڑھ کر سات مرتبہ اول آخر تین تین مرتبہ درود شریف اپنے کھانے کی چیزوں میں ملا کر استعمال کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ دودھ بڑھ جائے گا۔ آیت مبارکہ یہ ہے۔

مَثَلُ الَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ
اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِی كُلِّ سَنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۝ وَاللّٰهُ یُضَاعِفُ
لِمَنْ یَّشَآءُ ۝ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ ۝

دیگر

(دودھ بڑھ جانے کے لیے)

ترکیب ۱۔ اگر عورت کے دودھ میں کمی ہو تو ذیل کی آیتیں پڑھ کر نمک پر دم کر کے اور کھانے میں ڈال کر عورت کھائے۔

پہلی آیت ۱۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَالْوَالِدَاتُ یَرْضَعْنَ اَوْلَادَهُنَّ
 حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لَیْسَ اَنۡ اٰدَاۤ اَنْ یُّتِمَّ الرِّضَاعَةَ ۝
 دوسری آیت ۱۔ وَاِنَّ یَکَادُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا لِقُوۡنَکَ بِاَبۡصَارِهِمۡ کَمَا
 سَمِعُوۡا الذِّکۡرَ وَ یَقُوۡلُوۡنَ اِنَّہٗ لَمَجۡنُوۡنٌ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِکۡرٌ
 یُّلَعَلِّیۡنَ ۝

تیسری آیت ۱۔ وَاِنَّ لَکُمْ فِی الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِیۡکُم مِّنۡہَا فِیۡ بَطُوۡنِہِ
 مِنْۢ بَیۡنِ بَیۡنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَّیۡسَ اِلَیۡہَا رِجَالٌ یَّغَالِیۡشِبِیۡنَ ۝

دیگر

(دودھ بڑھ جانے کے لیے)

ترکیب ۱۔ اگر کسی بھینس یا گائے وغیرہ کو نظر ہو جائے اور دودھ نہ دیتی ہو تو آٹے کے پیرے پر پڑھ کر کھلائیں آٹا چنے کا ہو۔ وہ آیتیں یہ ہیں۔

وَاِنَّ لَکُمْ فِی الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِیۡکُم مِّنۡہَا فِیۡ بَطُوۡنِہِ مِنْۢ بَیۡنِ
 فَرْثٍ وَ دَمٍ لَّیۡسَ اِلَیۡہَا رِجَالٌ یَّغَالِیۡشِبِیۡنَ ۝ وَاِنَّ یَکَادُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا

لَيَزِلُّ قُنُوكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۗ وَمَا
هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۗ أَفَغَيَّرْ دِينَ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ فَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۗ سُبْحَانَ الَّذِي
سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مَقْرِنِينَ ۗ

اس عمل مذکور کو تین دن تک ہر روز تین دفعہ چنے کے آٹے کے پیسے
پر پڑھ کر دم کبر کے تب کھلائے انشاء اللہ فائدہ ہوگا اور دودھ دینے لگے گی۔

دیگر

(دودھ بڑھانے کے لیے)

ترکیب: اگر کسی جانور کا کسی بیماری کی وجہ سے دودھ خشک ہو جائے میں
روز تک پاؤ بھر چنے کا آٹے کر گیارہ مرتبہ الحمد شریف اور گیارہ مرتبہ آیت
وَأَنْ لَّكُوفِي الْأَنْعَامِ لِعَابِرَةٍ تَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ
فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا تَغَا لِّلشَّرِبِينَ ۗ پڑھ کر آٹے پر دم کر کے جانور
کو کھلائے انشاء اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ دودھ دینے لگے گی۔

دیگر

(دودھ بڑھ جانے کے لیے)

ترکیب: جس عورت کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا ہو اس نقش کو زعفران
اور گلاب سے لکھ کر موم جامہ کر کے عورت کے گلے میں ڈالے اور ایک تعویذ

روزانہ لکھ کر پلائے، سات یوم تک انشاء اللہ تعالیٰ دودھ خدا کے فضل و کرم سے جاری ہوگا نقش یہ ہے۔

۸	۲۰۲۶	۷-۳۰	۱
۷-۲۹	۲	۷	۷-۲۸
۳	۷-۳۲	۷-۲۵	۶
۷-۲۶	۵	۴	۷-۳۱

دیگر

(دودھ بڑھ جانے کے لیے)

۱۸	۱۱	۱۶
۱۳	۱۵	۱۷
۱۴	۱۰	۱۲

↑

دیگر

(دودھ بڑھ جانے کے لیے)

ترکیب: اگر کسی عورت کا دودھ خشک ہو گیا ہو اس کے گلے میں ان آیتوں

کو لکھ کر موم جامہ کر کے ڈالنا ان ہی آیتوں کو پانی پر پڑھ کر اس پانی سے سینے کو دھونا پھر اس پانی کو پاک محفوظ دیوار پر چھڑکنا یا ایسی زمین پر ڈالنا کہ وہ اس پانی کو خشک کر لے نہایت مفید ہے آیتیں یہ ہیں۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي دُعِيَ السَّقِيْنَ فِيهَا اَنْهَرُ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ اسِنَّةٍ وَ
اَنْهَرُ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَ اَنْهَرُ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةِ الشَّرَابِ
اَنْهَرُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى

دیگر

(دودھ بڑھ جانے کے لیے)

۱۳۶۷	۱۳۶۱	۱۳۶۴	۱۳۶۵
۱۳۶۳	۱۳۶۱	۱۳۶۶	۱۳۶۲
۱۳۶۲	۱۳۶۶	۱۳۶۹	۱۳۶۵
۱۳۶۰	۱۳۶۴	۱۳۶۳	۱۳۶۵

ترکیب ۱۔ جس عورت کے دودھ کم ہو یا کسی وجہ سے کم ہو گیا ہو تو اس عورت کا دودھ بڑھانے کے لیے اس نقشِ مکرم کو تین دن تک برابر با وضو لکھ کر پانی میں گھول کر پلائیے۔

خدا کے فضل و کرم سے دودھ زیادہ ہو جائیگا۔ وہ نقشِ مکرم یہ ہے۔ ↑

عورت کے مخصوص ایام

عمل

ترکیب ۱۔ جس عورت کو خونِ حیض و نفاس بشارت جاری ہو جائے اس نقش کو

ہرن کی چھٹی پر لکھ کر عورت کی دائیں ران میں باندھے خدا کے فضل سے خون بند ہو جائے گا۔ وہ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۲۰۲	۲۰۲	۷۵
۱۵	۴۰۱	۲۵۲
۵۲۷	یَا قَابِضُ	۳۷۳

دیگر

(عورت کے مخصوص ایام)

تذکیر اور جس عورت کی ماہواری میں کمی ہو اور اس سے تکلیف ہو تو ان آیات کو لکھ کر کمر میں باندھیں اس صورت میں کہ تھوڑا رحم پر پڑا رہے۔

آیات یہ ہیں:-

پہلی آیت: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِہِ وَجَعَلْنَا فِیْہَا جَبَّتِ مَرِّیٰ نَحِیْلِ
وَاعْنَابٍ وَفَجْرًا فِیْہَا مِنَ الْعِیُونِ لَیَّا کُلُوْا مِنْ ثَمَرِہِ ط وَمَا عَمِلْتُمْ
اٰیٰتِیْہِمْ اَفَلَا یَشکُرُوْنَ ۝

دوسری آیت: اَوَلَمْ یَرَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰہُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ ط اَفَلَا
یُوْمِنُوْنَ ۝

انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی۔

دیگر

(عورت کے مخصوص ایام)

ترکیب ۱۔ جس عورت کی ماہواری میں زیادتی ہو اس آیت کو لکھ کر کمر میں باندھیں
اس صورت میں کہ تعویذ رسم پر پڑا رہے وہ آیت یہ ہے

لِسْوَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقِيلَ يَا رَحْمَنُ اِنْبَلِغِي مَاءَ لِي وَنِسَاءً
اَقْلِعِي وَغِيْضَ الْمَاءِ وَقَصِّفِي الرَّمْلَ وَاسْتَوْتِ عَلَي الْجُوْدِي وَ
قِيلَ بَعْدًا اَلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝ انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی۔

دیگر

(عورت کے مخصوص ایام)

ترکیب ۱۔ جس عورت کی ماہواری بند ہو گئی ہو تو اس تعویذ کو لکھ کر عورت کی
دائیں ران میں باندھیں انشاء اللہ تعالیٰ حیض جاری ہو جائے گا وہ تعویذ یہ ہے۔

لا	حی	لا	لے	و	لا
ص	س	ن	ی	س	س
ح	س	ن	ی	س	س

بخار کے لیے عمل

ترکیب ۱۔ ان آیات مبارکہ کو لکھ کر بخار والے مریض کے گلے میں ڈال دے۔

انشاء اللہ تعالیٰ بخار جاتا رہے گا مجرب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ بِرَأْسِ عَصَاةٍ ۝ مِنَ اللّٰهِ الْعِزِّ بِرِ الْحٰكِمِ بِفُلَانٍ
 بِنِّ فُلَانٍ (فلاں بن فلاں کی جگہ مریض کا اور مریض کی ماں کا نام لکھا جائے)
 مِنْ كُلِّ مَا يَعْوِذُ بِاِذْنِ اللّٰهِ تَعَالٰی اَوْ كَمَا الَّذِي مَرَّ عَلٰی قَرْيَةٍ وَرَهِی
 حَاوِيَةٌ عَلٰی عُرْوَتِهَا قَالَا اِنِّیْ نَحْبِيْ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا
 فَلَمَّا نَسَّ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ فَاَنْظُرَاۤیْ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ
 يَتَسَنَّهٖ ۚ وَانْظُرَاۤیْ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰیَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرَاۤیْ
 الْعِظَامِ كَيْفَ نُنَشِّرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ
 اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۚ قُلْنَا اِنَّا رُكُوْنٌ بِرُودًا وَّسَلْمًا
 عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَاَرَادُوْا بِكَيْدٍ اَفْجَعَلْنٰهُمْ الْاٰخِسْرِيْنَ ۝

دیگر

(بخار کے لیے)

ترکیب: جس شخص کو بخار آنے لگا ہو تو اس تعویذ کو لکھ کر بغیر موم جامہ کیے
 ہوئے پاک دھبی میں پیٹ کر عورت اپنے بائیں بازو پر اور مرد اپنے دائیں بازو
 پر باندھے اس کے علاوہ گلے میں ڈالا جاسکتا ہے مجرب ہے۔


قُلْنَا اِنَّا رُكُوْنٌ بِرُودًا وَّسَلْمًا عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ
 كُلِّ عِرْقٍ تَقَارِدُ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَرِّ النَّارِ اللّٰهُ شَافِيٌ۔

انشاء اللہ تعالیٰ بخار جاتا رہے گا۔

دیگر

(بخار کے لیے)

ترکیب: یہ طلسم بخار کے لیے نہایت ہی مجرب ہے جس شخص کو بخار آرہا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس طلسم کو بخار والے مریض کے سر ہانے اس کے تکیے کے نیچے بغیر موم جامہ کیے ہوئے رکھے انشاء اللہ تعالیٰ بخار جاتا رہے گا۔ مریض اچھا ہو جائے گا وہ طلسم یہ ہے۔ طلسم میں فلاں بن فلاں جس جگہ لکھا ہے وہاں مریض اور مریض کی ماں کا نام لکھے۔



دیگر

(بخار کے لیے)

ترکیب: جس شخص کو بخار آتا ہو اور مرضی بھی معلوم ہوتی ہو تو ایسے مریض کے لیے اس نقش کو لکھ کر اس کے بازو پر باندھے انشاء اللہ تعالیٰ

	۷۸۶	
۵۶۷	۵۶۲	۵۶۹
۵۶۸	۵۶۶	۵۶۴
۵۶۳	۵۷۰	۵۶۵

جارا بخار جاتا رہے گا اور مریض
شفا یاب ہوگا۔۔۔۔۔
وہ نقشِ مکرم یہ ہے۔

دیگر

(بخار کے لیے)

ترکیب ۱۔ اس تعویذ کو لکھ کر بخار والے مریض کے گلے میں ایک دھبی میں
پیٹ کر ڈالے انشاء اللہ تعالیٰ بخار جاتا رہے گا اور شفا ہوگی موم جامہ کی ضرورت
نہیں دعا یہ ہے۔

اللَّهُمَّ ارْحَمْ جِلْدِي الرَّقِيقِي وَعَظْمِي الدَّقِيقِي مِنْ شِدَّةِ
الْحَرِيقِي يَا أَرْمِلِدَامَ إِن كُنْتُ أَمِنْتُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فَلَا تَصَدَّقْهُ
نَاسِي وَلَا تَنْتَهِي نَيْسِي وَلَا تَأْكُلِي لَحْمِي وَلَا تَشْرِبِي دَمِي وَتَحْرِي لِي
عَنِّي إِلَى مَنْ اتَّخَذَ إِلَهًُا خِوَمًا اللَّهُ -

دیگر

(بخار کے لیے)

ترکیب ۱۔ اس تعویذ کو لکھ کر دھبی میں پیٹ کر بغیر موم جامہ کر کے بخار والے
کے گلے میں ڈالے۔ انشاء اللہ صحت ہوگی۔

اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَظْمِي الرَّقِيقَ جِلْدِي الدَّرِيقَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
 قَوْلِهِ الْحَرِيقِ يَا أُمَّ مِلْدَمٍ إِنْ كُنْتَ أَمِنْتَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا
 تَأْتِيكَ الْحَيَى وَلَا تَشْرِبِي دَمِي وَلَا تَفُوتِي عَلَى فَمِي وَأَنْتَقِلِي إِلَى مَنْ
 يُؤْتِمُّ أَمْرًا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخِرَ فَنَائِي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
 مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

دیگر

(بخاری کے لیے)

ترکیب: جس شخص کو بخاری آتا ہو اس آیت مبارکہ کو لکھ کر بخاری والے کے
 گلے میں باندھیں مفید ہے، آیت یہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

فلان بن فلان کا بخاری جاتا رہے، فلان بن فلان کی جگہ اس کا نام اور اس کی ماں
 کا نام لکھنا چاہیے۔

دیگر

(بخاری کے لیے)

ترکیب: جس شخص کو بخاری آ رہا ہو اور کسی طرح اترتا نہ ہو جس کو پرانا بخاری کہا
 جاتا ہے ایسے مریض کے لیے چاہیے کہ التوار کے دن سات تلگے نیلے کچے

سوت کے لئے کراستے بڑے کہ ان کا گنڈا مریض کے گلے میں باندھ دیا جائے اور گنڈا اس ترکیب سے تیار ہو گا کہ ہر گروہ پر ایک ایک بار بسم اللہ شریف الحمد شریف پوری اور قل هو اللہ فتوحہ پوری اور قل اعوذ برب الفلق پوری اور قل اعوذ برب الناس پوری پڑھ کر دم کرے اسی طرح ان سات دھاروں پر سات گروہیں لگائے اور ہر گروہ پر اسی طرح دم کرے اور پھر مریض کے گلے میں باندھے، انشاء اللہ تعالیٰ مریض شفا پائے گا اور اس کا پرانا بخار اللہ کے فضل و کرم سے جاتا رہے گا۔

دیگر

(بخار کے لیے)

ترکیب: جس شخص کو بخار آتا ہو تو اس تعویذ کو لکھ کر گلے میں ڈالے یا پاک دھبی میں لپیٹ کر مرد اپنے دائیں بازو پر اور عورت اپنے بائیں بازو پر باندھے تعویذ میں مریض کا نام اور مریض کی ماں کا نام ضرور لکھے، انشاء اللہ تعالیٰ بخار جاتا رہے گا۔
وہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۞ اِنَّا رَاٰکَ کُوْنِیْ ۞ بِرَدَا ۞ سَلَامًا عَلٰی اَبْرَآئِمَ ۞
وَ اَرَادُوْا بِہٖ کَیْدًا ۞ فَجَعَلْنٰہُمْ الْاٰخِیْرِیْنَ ۞

دیگر

(بخار کے لیے)

ترکیب: جس شخص کو بخار جاڑے (یعنی سردی) کے ساتھ آتا ہو اس مریض

کے لیے سات مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پانی پر دم کر کے پلائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ جاڑے سے پڑھنے والا بخار جاتا رہے گا اور مریض اچھا ہو جائے گا۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے اس عمل کو تین روز یا سات روز تک کیا جائے بخار سے ایک یا دو گھنٹہ قبل پانی پر دم کر کے مریض کو پلائے۔

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۗ

دیگر

(بخار کے لیے)

ترکیب: جس شخص کو بخار آتا ہو اور کسی وقت نہ اترتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ صبح کو ایک چھوٹے سے کاغذ پر ۷۸۶ اور ریناڈ کوئی بَرْدًا و سَلَامًا عَلٰی اَبْرَاهِيْمَ لکھ کر پانی سے دھو کر مریض کو پلایا جائے اور جس کاغذ پر لکھا گیا ہے مریض اس کو چبا کر نگل جائے اور اوپر سے یہ پانی پی لے اور شام کو ایک چھوٹے سے کاغذ پر ۷۸۶ اور سَلَامًا وَاَقْرَبًا قَدْ دَبَّ زَحِيْمًا لکھ کر پانی سے دھو لے اور مریض کو پلایا جائے اور جس کاغذ پر لکھا گیا ہے مریض اس کو چبا کر نگل لے اور اوپر سے یہ پانی پی لے اس عمل کو سات یا نو یا گیارہ روز تک مسلسل کیا جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی اور بخار جاتا رہے گا۔

دیگر

(بخار کے لیے)

ترکیب: جس مرد، عورت یا بچے کو روزانہ بخار چڑھتا ہو اور اتر جاتا ہو ایسے

مریض کے لیے ایک چھوٹے سے کانڈر پر ۷۸۶ اور یا مَحِیْطُ اور دوسرے دن ۷۸۶ اور یا مَحِیْطُ اور تیسرے دن ۷۸۶ اور یا مَحِیْطُ لکھنے والا چاہے جس وقت لکھو دے دے اور تعویذوں پر نمبر ڈال دے کہ یہ پہلے دن کا ہے یہ دوسرے دن کا ہے اور یہ تیسرے دن کا ہے اس کے باندھنے میں یہ احتیاط رکھنی ضروری ہے کہ ہر تعویذ سورج نکلنے سے پہلے ہر روز باندھا جائے اور باندھنے کے بعد جو تعویذ کھولا گیا ہے اس کو کنوئیں میں ڈال دیا جائے ان تعویذوں کو ہر روز پاک دھجی میں لپیٹ کر مرد اور رُط کا اپنے دائیں بازو پر اور عورت اور رُط کی اپنے بائیں بازو پر باندھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مریض کو شفا ہوگی اور بخار جاتا رہے گا مریض پہلے اور دوسرے دن کے تعویذ کو دھجی سے الگ کر کے جب کنوئیں میں ڈالے تو تیسرے تعویذ کو اگر محسوس کرے کہ بخار کا کچھ اثر ہے چند روز بندھا رہنے دے اور جب سمجھے کہ بخار کا اثر بالکل اب نہیں ہے تب اس تعویذ کو کھول کر دھجی سے علیحدہ کر کے کنوئیں میں ڈال دے یا احتیاطاً چند روز بندھا رہنے دے۔

دیگر

(بخار کے لیے)

ترکیب جس عورت مرد یا بچہ کو ایک دن چھوڑ کر باری کا بخار چڑھتا ہوتا اس کو چاہیے کہ کوری تین ٹھیکری چھوٹی چھوٹی لے کر یا آب خورے کے تین چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر کہ جن کو پانی نہ لگا ہو تو بلی ٹھیکری پر ۷۸۶ اور یا مَحِیْطُ

دوسری ٹھیکری پر ۷۸۶ اور یا چھٹی ٹیسری ٹھیکری پر ۷۸۶ اور یا چھٹی ٹھیکری پر ۷۸۶
 کر باری پڑھنے سے دو گنہہ قبل پاک دھجی میں لپیٹ کر مرد اور لڑکا اپنے دائیں
 بازو پر اور عورت اور لڑکی اپنے بائیں بازو پر باندھے اور دوسری باری کے
 دوسری نمبر والی ٹھیکری باری سے دو گنہہ قبل باندھ دی جائے گی اور پہلی
 ٹھیکری جو کھولی گئی ہے دھجی سے نکال کر کنویں میں ڈال دی جائے گی۔ اس
 ٹھیکری کے باندھنے سے تین حالتیں ہوں گی یا تو بخار بالکل جاتا رہے گا یا کم ہو
 جائے گا یا بہت زور کا پڑھے گا مگر مریض اپنے دل میں فکر کو بہرگز جگہ نہ
 دے۔ اور بالکل نہ گھبرائے۔ تیسری والی ٹھیکری سے اگر بخار جاتا رہے تو
 دو روز اور بندھا رہنے دے اور اگر بخار کا کچھ اثر باقی ہے تو چند روز بندھا
 رہنے دے۔

انشاء اللہ تعالیٰ مریض شفا یاب ہو گا اور بخار جاتا رہے گا۔ پھر تیسری
 ٹھیکری کو بھی دھجی سے نکال کر کنویں میں ڈال دے۔

دیگر

(بخار کے لیے)

ترکیب: جس مرد عورت یا بچے کو چوتھے روز بخار آتا ہو جسے لوگ
 چوتھیا کہتے ہیں) تو ایسے مریض کے لیے پلانا گڑے کر اس کی تین گولیاں
 چنے کے برابر بنا کر چنے سے قدرے بڑی ہوں تو کوئی مضائقہ نہیں بہر گولی
 بنانے سے پہلے اس گولی کے اندر لال سرخ کا ایک بیج ضرور داخل کر لینا ہے۔

اگر پرانا گڑ نہ مل سکے تو پھر ویسا ہی گڑ لے کر اس کی تین گولیاں بنا لے۔ اور چوتھے روز
 بخار چڑھنے سے دو گھنٹہ قبل اس میں سے ایک گولی کھلا دے مگر مریض کو یہ خبر
 نہ ہونے دے کہ اس گولی کے اندر لال مرچ کا ایک بیج ہے۔ اور اگر اتفاق سے
 گڑ کی گولی میں لال مرچ کا بیج نہ ڈال سکے تو پھر بغیر لال مرچ کے بیج کے ہی
 تین گولیاں بنا کر ہر گولی پر اول آخر تین تین مرتبہ درود شریف اور سات سات
 مرتبہ سورۃ فاتحہ پوری پڑھ کر ہر گولی پر دم کرے اور ایک گولی مریض کو باری
 سے دو گھنٹہ پہلے کھلا دے انشاء اللہ تعالیٰ مریض شفا یاب ہو گا اور بخار کی
 شکایت جاتی رہے گی

دل کی گھبراہٹ کیلئے عمل

ترکیب۔ جس کا دل گھبراتا ہو یا دل میں دھڑکن زیادہ ہو اس کے لیے اس عبارت
 کو تین طہشریوں پر لکھ کر دن میں تین مرتبہ صبح دوپہر شام مریض کو پلائے۔
 دوسری ترکیب یہ ہے کہ تانبے کی تختی بنا کر اس پر یہ عبارت کھدوا کر گلے
 میں ڈالے خواہ اس میں کٹھکے لگا کر ڈورا ڈال کر گلے میں ڈالے یا بطور تعویذ
 کے کپڑے میں سی کر گلے میں ڈالے اس طرح کہ دل پر پڑا رہے۔
 وہ عبارت یہ ہے۔

نَادِعَلِيَّ يَا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ مُحَمَّدًا مَعْنُونَ لَكَ فِي النَّوَائِبِ مِنْ مَوْلَى هِمِّ دَعِيمٍ
 سَيَنْجِي بِعَظَمَتِكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ بِمَبْرَاتِكَ يَا مُحَمَّدًا يَا مُحَمَّدًا
 يَا مُحَمَّدًا يَا مُحَمَّدًا يَا مُحَمَّدًا هُوَ الشَّافِي هُوَ الْكَافِي هُوَ السَّعَافِي

دیگر (دل کی گھبراہٹ کے لیے)

ترکیب: جس شخص کو اختلاج قلب یا دل کی دھڑکن کی شکایت ہو، تو اس کو تھوڑے تھوڑے گولے میں اس طرح ڈالے کہ تھوڑے تھوڑے گولے آجائے یعنی دل پر پڑا رہے دراصل سینہ کے گڑھے یعنی کوڑھی پر پڑا رہے۔ وہ آیت یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ
الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمِیْنُ قُلُوْبُهُمْ بِذِکْرِ اللّٰهِ اِلَّا یَذِکْرُ اللّٰهُ تَطْمِیْنُ الْقُلُوْبِ

۸۰	۱۰	۶۰
۳۰	۵۰	۷۰
۲۰	۹۰	۲۰
یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ
ہول	دل	دفع
شود		

دیگر (دل کی گھبراہٹ کے لیے)

ترکیب: ہول کے مرض، اضطراب قلب خفقان کے لیے سینہ کے پانی سے اس آیت کا سات مرتبہ سات روز تک لگ کر پلانا یا سینہ کے پانی سے زعفران گولے کر سات مرتبہ آیت کو لگ کر مریض کے گلے میں ڈالنا افضل ہے۔ آیت یہ ہے۔

اِذْ یَغْشٰی کُمُ النُّعَاسُ اٰمَنَةٌ مِّنْهُ وَنَزَلَتْ عَلَیْکُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَآءٌ لِّیَطْمِئِنُّ کُرْہُہٗ وَ
یَذِہِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطٰنِ وَ لَیَرْبِطَ عَلٰی قُلُوْبِکُمْ وَ یَثَبِتَ بِہِ الْاَقْدَامَ

دیگر

(دل کی گھبراہٹ کے لیے)

ترکیب :- جس شخص کو اختلاج قلب یا دل کی دھڑکن یا دل کے درد کی شکایت ہو تو تین بار آیتہ الکرسی پاک صاف برتن پر لکھیں پھر صاف پانی سے دھو کر پلائیں اور پیتے وقت یوں کہہ میں نے شفا کی نیت کی اور جو مرض ہو اس کا نام لے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مریض شفا پائے گا اس کے علاوہ دردِ جگر کی شکایت ہو یا پیٹ میں مرڑا ٹھکتا ہو اس قسم کے مریض کو بھی تین بار آیتہ الکرسی پاک و صاف برتن پر لکھیں پھر صاف پانی سے دھو کر پلائیں۔

دیگر

(دل کی گھبراہٹ کے لیے)

ترکیب :- جس شخص کو اختلاج قلب یا دل کی دھڑکن کی شکایت ہو تو ان آیات مبارکہ کو لکھ کر موم جامہ کر کے گلے میں ڈالے اور اس کا ڈورا اتنا لبارکھا جائے کہ تعویذ مریض کے دل پر پڑا رہے وہ آیات مبارکہ یہ ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمِئِنُّ قُلُوْبُهُمْ
بِذِکْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝ وَرَبُّنَا عَلٰی
قُلُوْبِهِمْ وَرَبُّنَا عَلٰی قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَلِیُرِیْطَ
عَلٰی قُلُوْبِكُمْ ۝

سوتے ہوئے خواب میں ڈرنے والے کیلئے

عمل

ترکیب: جو شخص مرد، عورت یا بچہ سوتے سوتے ڈراوٹے خواب دیکھ کر ڈرتا ہو یا چونک جاتا ہو اس کے لیے اس نقش کو لکھ کر موم جامہ کر کے گلے میں ڈالے۔ انشاء اللہ تعالیٰ وہ سوتے ہوئے نہیں ڈرے گا، وہ نقش یہ ہے۔

يَا رَحِيمُ	يَا رَحْمَنُ	يَا اَللّٰهُ
يَا اَحَدُ	يَا قَدُّوْسُ	يَا مَالِكُ
يَا سَلَامُ	يَا مُهَيْمِنُ	يَا مُؤْمِنُ

دیگر

(سوتے ہوئے خواب میں ڈرنے والے کیلئے)
ترکیب: جو شخص پریشان خواب دیکھے اور ڈرے تو اس آیت کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈالے۔ بد خوابی جاتی رہے گی۔ آیت مبارکہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَارَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ (قلاں) در خواب ترسد۔

دیگر

(سوتے ہوئے خواب میں ڈرنے والے کے لیے)
 ترکیب: خواب میں ڈرنا، رونا، بند کے اچاٹ ہو جانے کے دفعیہ کے
 لیے ایک کاغذ پر زعفران سے لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں ڈالے۔ نہایت
 مجرب ہے۔ آیتیں یہ ہیں۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ رُؤْيَاكَ فَكَلِّمْهُمْ وَأَنْذِرْ بَكَ قَطَرًا وَمَوْجِزًا
 فَاهْجُرُوا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُوا وَلِرَبِّكِ فَاصْبِرْ ۝

مرگی والے کے لیے

عمل

ترکیب: جس شخص کو مرگی کا مرض ہو تو ان آیات کو لکھ کر موم جامہ کر کے
 گلے میں ڈال دیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

رَبِّ اِنِّیْ مَسْتَنِی السَّیْطٰنُ بِنُصْبِیْ وَعَدَاۤیْبِیْ ۝

رَبِّ اِنِّیْ مَسْتَنِی الْقَمْرُ وَاَنْتَ اَرْحَمُ

الرَّاحِمِیْنَ رَبِّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ

السَّیْطٰنِطِیْبِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اِنْ یُحْضَرُوْنَ ۝

❖

دیگر

(مرگی والے کے لیے)

ترکیب:۔ جو شخص مرگی کے مرض میں مبتلا ہو تو اس کو چارپہیے کہتا ہے کی ایک تختی جو کندھے دار مضبوط بنی ہو اتوار کے روز پہلی ساعت میں اس تختی کے ایک طرف کھدوائے **يَا قَاهِرُ ذَا الْبَطْنِ الشَّدِيدِ وَأَنْتَ الَّذِي لَا يُطَاقُ انْتِقَامُهُ يَا قَاهِرُ** دوسری طرف یہ کھدوائے **يَا مُدِيلُ كُلِّ جَبَّارٍ عَجِيبٍ بِقَهْرٍ عَزِيزٍ سُلْطَانُهُ يَا مُدِيلُ**۔ پھر سوم جامہ میں سی کر مریض کے گلے میں ڈالے رکھے جس روز ڈالے اس روز اپنی حیثیت یا طاقت کے مطابق کھانا پکا کر غریبوں مسکینوں کو کھلا دے اللہ تعالیٰ شافی ہے پھلی، دودھ دہی و گوشت گائے سے پرہیز کرے۔

دیگر

(مرگی والے کے لیے)

ترکیب:۔ جس شخص کو مرگی کی شکایت ہو اور مرگی کا دورہ پڑتا ہو تو اس کو چارپہیے کہ اس نقش کو لکھ کر سوم جامہ کر کے مریض کے گلے میں ڈالے۔
انشاء اللہ تعالیٰ مریض شفا یاب ہوگا۔
وہ نقش مکرم صفحہ آئندہ پر ہے۔

۸	۳	۱۰
۹	۷	۵
۶	۱۱	۶

دیگر

(مرگی والے کے لیے)

ترکیب بہ اگر کسی کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو اس کے لیے حضرت
عوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کا یہ عمل نہایت مفید رہے گا جو اس
طرح پر ہے کہ جب کوئی مرگی والا مریض آپ کے پاس آتا یا لایا جاتا تو آپ
مریض کے دائیں کان میں سورۃ فاتحہ پوری پڑھ کر دم کرتے تھے اور
ایک مرتبہ بائیں کان میں پڑھ کر دم کرتے تھے اور پھر بائیں کان میں یہ شعر
با آواز بلند پڑھتے تھے جس کو خود انہوں نے نظم کیا تھا وہ شعر یہ ہے۔

رُوحِي وَالْقَلْبُ يُحِبُّكُمْ فِي الْقَدَمِ

مِنْ قَبْلِ وُجُودِ خَلْقِهِمَا مَعَ عَدَمِ

هَلْ يَحْمِلُ مِنْ بَابِ عِرْقَانِكُمْ

أَنْ أَنْقَلَ عَنْ طُوقِ هُوَاكُمْ قَدَمِ

سیدھے کان میں فرماتے تھے شیخ عبدالقادر جیلانی تجھ کو کتنا بے جا اور
مت جا۔ اسی طرح تین بار کہتے تھے اور یہی دونوں شعر لکھ کر گردن میں

لشکا دیتے ہیں اور لکھتے تھے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی تجھ کو کہتا ہے۔ کہ چلی جا اور
 پھر عودت کیجو، اگر تو عود کرے گی تو ہم تجھ کو جلادیں گے۔ جہاں دونوں شعر لکھ
 کر گردن میں لٹکانے کا ذکر ہے وہاں یہ کر کے کہ دونوں شعر لکھے اور موم جامہ
 کر کے گلے میں باندھ دے اور لکھتے تھے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی تجھ کو
 کہتا ہے کہ چلی جا پھر لوٹ کر مت آنا اگر تو لوٹ کر آئے گی تو ہم تجھ کو جلا
 دیں گے۔ مرگی والے مریض کے لیے نہایت مجرب ہے۔

دیگر

(مرگی والے کے لیے)

ترکیب: مرگی کے واسطے گدھے کا سٹم لے کر اسکی انگوٹھی بنا کر مریض
 اپنی انگلی میں پہنے اللہ تعالیٰ مرگی کو دور کرے گا۔ اور مریض شفا پائے گا۔

دیگر

(مرگی والے کے لیے)

ترکیب: یہ یہ عمل بھی آزمودہ ہے منگل کے دن ایک سرخ سفید رنگ
 جس میں کسی رنگ کا دھبہ نہ ہو اور جوان ہو اس کو ذبح کر کے اس کا خون
 چینی کے پیالے میں نکال کر نئی قلم نئے چاقو سے بنا کر آفتاب نکلنے سے
 پہلے یہ تعویذ لکھے اور اسی وقت تانبے کے تعویذ میں جس میں کندھے
 لگے ہوئے ہوں بند کر کے نابالغ لڑکی سے چودہ تار سوت کے کتوا کر اس کا

ڈورا ڈال کر مریض کی گردن میں ڈال دے انشاء اللہ تعالیٰ اس مرض سے شفا ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ تعویذ لکھنے والا بیمار اور تانبے کا تعویذ بنانے والا سب کے سب روزہ سے ہوں اور ہیلد مرغ، انڈا، گوشت، مچھلی اور گلے کا گوشت، دودھ اور دہی و تیل وغیرہ سے پرہیز کرے کسی حالت میں پرہیز نہ توڑے، تعویذ یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ یَا غِیَاثِ عِنْدَ کُلِّ کَرْبَةٍ ۝ یَا مُجِیْبِ عِنْدَ کُلِّ دَعْوَةٍ ۝ وَمَعَاذِیْ عِنْدَ کُلِّ شِدَّةٍ ۝ یَا رَجَائِیْ حِیْنَ تَنْقَطِعُ حِیْلَتِیْ ۝

(مرگی والے کے لیے)

ترکیب :- جس شخص کو مرگی کی شکایت ہو تو اس کو چاہیے کہ عاقر قرع کا کوٹ کر اور کپڑے میں چھان کر شہد خالص میں ملا کر مرگی والے مریض کو چٹائے۔
عاقر قرع کا چھ ماشے اور شہد خالص ایک تولہ لیا جائے۔
انشاء اللہ تعالیٰ مریض شفا یاب ہوگا۔

دیگر علاج (ج)

(مرگی والے کے لیے)

ترکیب :- جس کسی کو مرگی کے دوروں کی شکایت ہو ان کو چاہیے کہ عود صلیب کی دو چھوٹی چھوٹی ثابت لکڑیاں بیکران کے بیج میں سوراخ کر کے وہ لکڑیاں پھین نہیں ان دونوں کے بیج میں ڈورا ڈال کر مریض کے گلے میں ڈالے اور لکڑیوں پر کپڑا نہ چڑھائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مریض شفا یاب ہوگا۔

دیگر

(مرگی والے کے لیے)

ترکیب: جس شخص کو مرگی کی شکایت ہو اور مرگی کا دورہ پڑتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نیل ڈلی وار (اصلی) سے اس تعویذ کو لکھ کر موم جامہ کر کے بازو پر باندھے۔

انشاء اللہ تعالیٰ مریض کو صحت ہوگی وہ تعویذ یہ ہے:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط يَا اَبُو تَابُوْتَا يَا اَبُو تَابُوْتَا سَعْيًا هَمًّا يَدُوْسًا قَدُوْسًا
اِنَّهُ عَلِمُوْنَ بِجُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَّ اِلَيْهِ اَجْمَعِيْنَ ط

دیگر

(مرگی والے کے لیے)

ترکیب: جس شخص کو مرگی کی شکایت ہو تو اس کو چاہیے کہ ہفتہ کے دن علی الصبح سیاہ کبوتر کہ اس کی آنکھ اور ناخن اور زبان کالی ہو ذبح کرے اور اس کے خون سے تانبے کی تختی پر ان دونوں نقشوں کو لکھے اس نقش کو تختی کے ایک طرف اور دوسرے نقش کو تختی کے دوسرے طرف یعنی پشت پر لکھے۔ اور ان کو کندہ کرا کے یعنی کھودنے والے سے کھدوا کر اور اس تانبے کی تختی میں اوپر کی طرف دو کندھے ڈورا ڈالنے کے لیے لگوا کر اس تختی کو مرگی والے مریض کے گلے میں ڈالے۔

انشاء اللہ تعالیٰ مریض شفا یاب ہوگا اور مرگی کی شکایت جاتی رہے

گی مجرب ہے۔

وہ نقشیں معظم یہ ہیں (اور تانبے کی تختی جس پر کربہ دونوں نقش کھدوائے گا اوپر کی طرف دونوں کندھے کھودنے سے پہلے ہی لگوالے۔ یعنی کندھے لگی ہوئی تختی لے۔)

۷۸۶

۵۴۴	۵۴۷	۵۵۱	۵۳۷
۵۵۰	۵۳۸	۵۴۳	۵۴۸
۵۳۹	۵۵۲	۵۴۵	۵۴۲
۵۴۶	۵۴۱	۵۴۰	۵۵۲

(تختی کے اوپر والا نقش)

۱۱۸۰	۱۱۸۳	۱۱۸۶	۱۱۷۳
۱۱۸۵	۱۱۷۴	۱۱۷۹	۱۱۸۴
۱۱۷۵	۱۱۸۸	۱۱۸۱	۱۱۷۸
۱۱۸۲	۱۱۷۷	۱۱۷۶	۱۱۸۷

(تختی کی پشت والا نقش)

دیگر کے لیے
امرگی والے کے لیے

ترکیب: یہ آیات و حروف مقطعات معہ بسم اللہ کا غڈپر لکھ کر تانبے کے تعویذ میں


رگہ کر مریض کے گلے میں ڈالے۔

آیات یہ ہیں۔

يَسْرِ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَعْرِفَةُ الْمُسَوِّمَةُ كَفَيْتُمْ يَسْرًا وَالْقُرْآنِ
 الْحِكْمَةُ حَمَمٌ سَقَانٌ وَالْقَلْبُ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝
 اور اسی کو پڑھ کر سات روز تک مریض کے بائیں کان میں دم کرتا رہے۔
 انشاء اللہ تعالیٰ مریض مرگی جاتا رہے گا۔

چمپک
 کے لیے عمل

ترکیب۔ جس بچے یا بڑے کو بخارا رہا ہو اور چمپک کی جابا کا زور ہو اور اس کو بھی
 یہ ڈر ہو کہ کہیں میرے چمپک نہ نکل آئے تو اس کو چاہیے کہ اس تعویذ کو لکھ کر
 بغیر موم جامہ کیے ہوئے اس مریض کے بازو پر باندھے اور باندھنے کے بعد
 پانچ یا دس پیسے کے بتائے یا کھلیں بچوں کو تقسیم کر دیں۔
 انشاء اللہ چمپک کی شکایت سب کے محفوظ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ
 شفا عطا فرمائے گا۔ وہ نقش یہ ہے۔

اللہ شافی	۷۸۶	اللہ کافی
		
یا حافظ	یا حفیظ	

دیگر

(چھپک کے لیے)

ترکیب ۱۰ جس مریض کو بخار آ رہا ہو اور اسے چھپک نکلنے کا ڈر ہو تو اس
نقش کو سورج نکلنے سے پہلے لکھ کر پاک دھبی میں پیٹ کر مریض کی
گردن میں باندھ دیا جائے انشاء اللہ مریض چھپک کے نکلنے سے محفوظ
رہے گا اور اگر نکل بھی آئے تو اللہ کی رحمت سے زور نہیں کرے گی
اور مریض کو کوئی خاص تکلیف نہیں ہوگی مریض شفا یاب ہوگا۔ مجرب
ہے وہ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

وَاِيَّاكَ	اِقْرَأْ اَلْحَمْدَ لِمَنْ تَعْبُدُ	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ	اَلْمَغْلُوبِ
اَلْمَغْلُوبِ	رَبِّ الْعَالَمِينَ	اِيَّاكَ تَعْبُدُ	هَرَّاطَ الدِّينِ
اَلْمَغْضُوبِ	وَاِلٰهَ الصّٰلِحِيْنَ	تَسْتَعِيْنُ	بِعَمَلِ الصّٰلِحِيْنَ
اَلْمَغْلُوبِ	مَالِكِ	اَلْمَغْضُوبِ	عَلَيْهِمْ

دیگر

(اچھک کے لیے)

ترکیب: جس بچہ یا بڑے کو بخار آ رہا ہو اور اچھک کی وجہ سے زور ہو اور اس کو یہ ڈر ہو کہ کہیں میرے نہ نکل آئے تو اس کو چاہیے کہ نئے رنگ کے سوت کے اکیس تار لے کر لوگرہ لگائے اور سرگرہ پر الحمد شریف ایک بار پڑھے اور گلے میں باندھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اچھک سے محفوظ رہے گا۔

دیگر

(اچھک کے لیے)

ترکیب: اگر اچھک نکلنے کا اندیشہ ہو تو یہ آیت لکھ کر تھوڑا بنا کر گلے میں ڈالے، انشاء اللہ اچھک ہرگز نہ نکلے گی، اور اگر نکل آئی تو لکھ کر دھو کر پلاتے رہیں اللہ کے فضل و کرم سے صحت ہوگی۔
آیت شریفہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِلِیٰٓہٗ اٰیٰہٗ تَدْعُوْنَ فِیْکُمْ شِفٰؤُ
مَا تَدْعُوْنَ اِلَیْہِ اِنْ شَاءَ وَتُنْسُوْنَ مَا تُشْرِکُوْنَ ۝

دیگر

(اچھک کے لیے)

ترکیب ۱۔ جب چیچک کا اندیشہ ہو اور چیچک کا زور بڑھ رہا ہو تو اس نقش کو لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالے۔ انشاء اللہ تعالیٰ چیچک سے محفوظ رہے گا وہ نقش یہ ہے۔

۱۵	۴	۵	۱۰
۶	۹	۱۶	۳
۱۲	۷	۲	۱۳
۱	۱۴	۱۱	۸

بچہ کی پسلی

کے لیے عمل

ترکیب ۱۔ جس بچہ کی پسلیاں چلتی ہوں تو چاہیے کہ ایک چاقو یا چھری لے لیکن چاقو ایسا ہو کہ جس کا دستہ بھی لوہے کا ہو اور چھری بھی پوری لوہے کی ہوئی چاہیے اس چاقو یا چھری کو بچے کے سینے سے ناف تک بار بار لاوے اور یہ آیت شریف سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ پڑھے اور ہر مرتبہ دم کرتا جائے یہ عمل دونوں وقت تین روز تک مسلسل کیا جائے۔

انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد شفا ہوگی۔

مغرب ہے وہ آیت شریفہ صفحہ آئندہ پر ہے۔

آیت شریفہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا وَاللّٰهُ
مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

دیگر

(بچہ کی پسلی کے لیے)

ترکیب: جس بچہ کی پسلیاں چلتی ہوں۔ اس کے لیے پانچ کنکریاں
نمک لاہوری یا سا بھڑ کی چنے کے برابر یا اس سے کچھ بڑی لے کر ہر
کنکری پر ایک بار پوری سورۃ قُلْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ پڑھے، ہر ناس
کو تین تین بار کہنے اور ہر نمک کی کنکری کو بچے کے سینے سے ناف
تک بار بار پھیرے اس کو سوزج نکلنے سے لے کر زوال کے وقت
یعنی بارہ بجے سے پہلے پہلے کرنا چاہیے۔ تین روز تک مسلسل ایک
وقت یعنی صبح کو انشاء اللہ تعالیٰ تین ہی دن میں شفا ہو جائے گی۔ ورنہ امتیاطاً
زیادہ سے زیادہ پانچ روز کرے عمل کے بعد ان پانچ کنکریوں کو کتوں میں
میں ڈال دے۔

دیگر

(بچہ کی پسلی کے لیے)

ترکیب: جس بچے کی پسلیاں چلتی ہوں۔ اس کے لیے پانچ کنکریاں

نمک لاہوری یا سا بھر کے چنے کے برابر یا اس سے کچھ بڑی لے کر ہر
ککری پر تین بار آیت قلب

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ
وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ
يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ط قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ط
يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ط يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ
الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَهُنَا ط قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ
عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ط وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَ
لِيَسْتَجِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ط

پر ٹھہر کر دم کرتا جائے، دم بچے کی پسلی پر کرنا ہے اور ہر ککری کو بچے کے
سینے سے لے کر ناف تک برابر پھیرے اس عمل کو سورج نکلنے سے لے کر
زوال کے وقت یعنی بارہ بجے سے پہلے پہلے کرنا چاہیے تین روز مسلسل
یا احتیاطاً پانچ دن کرنا چاہیے اور صرف ایک وقت یعنی صبح کو انشاء اللہ تعالیٰ
تین روز میں شفا ہو جائے گی۔

ان ککریوں کو عمل پورا ہونے کے بعد کسی کنوئیں میں ڈال دے۔

دیگر

(بچہ کی پسلی کے لیے)
ترکیب :- جس بچہ کی پسلیاں چلتی ہوں تو چاہیے کہ اس نقش کو لکھ کر موہا

کر کے گلے میں ڈالے اور ڈورا اتنا لبا لیا جائے کہ تعویذ بچے کی کوڑھی یا فہم حورہ میں پڑا رہے تاکہ دونوں پسلیوں سے ٹکراتا رہے انشاء اللہ تعالیٰ بچے کو پسلی کے درد سے نجات ہوگی۔ مگر بے بہہ نہلاتے وقت یہ تعویذ بچے کے گلے سے اتار لیا جائے اور نہلاتے کے بعد پھر گلے میں ڈال دیا جائے۔ وہ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

بِسْمِ اللّٰهِ يَشْفِيكَ
وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا قَدْ رَأَيْتُمْ

بِسْمِ اللّٰهِ كُلِّ دَاءٍ
بِسْمِ اللّٰهِ يُؤَدِّيكَ

بحق این نقش عارضہ پسلی دفع شود

دیگر

(بچہ کی پسلی کے لیے)


ترکیب۔ جس بچے کو پسلی کا عارضہ ہو جائے یہ نقش موم یا مہ کر کے گلے میں ڈالے اس طرح کہ تعویذ کوڑھی پر پڑا رہے انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی نقش یہ ہے۔

یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ
یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ
یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ
یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ

بو اسیر

کے لیے عمل

ترکیب یہ جس شخص کو بو اسیر کی شکایت ہو اتوار کے دن صبح کے وقت یعنی سورج نکلنے سے پہلے اس تعویذ کو لکھے اور موم جامہ کر کے زوال کے بعد کمر میں باندھے اس طرح کہ تعویذ پشت پر رہے۔ تعویذ یہ ہے :-



دیگر

(بو اسیر کے لیے)

ترکیب یہ جس شخص کو بو اسیر کی شکایت ہو تو پیر کی صبح یا جمعہ کی صبح کو لکھ کر موم جامہ کر کے کمر میں اس طرح باندھے کہ تعویذ پشت پر رہے۔

وہ عبارت یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ یَا رَحِیْمُ ۙ کُلُّ مَرِیْضٍ ۙ وَ

مَكْرُوْبٍ ۙ یَا رَحِیْمُ ۙ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ

وَآلِهِ ۙ وَاصْحَابِهِ ۙ اَجْمَعِیْنَ ۙ

انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی۔

دیگر

(بو اسیر کے لیے)

ترکیب: جس شخص کو خونی اور باری بو اسیر کی شکایت ہو تو اس کو چاہیے کہ کسی بھی چاند کے پینے کی ستائیس تاریخ کو اس نقش مکرم کو لگو کر موم جامہ کر کے مریض کی ناف پر باندھے اور تین روز تک یہ اہتمام رکھے کہ تعویذ کسی وقت بھی ناف سے ہٹنے نہ پائے اور اگر اتفاق سے کسی وقت ناف سے ہٹ جائے تو اس کو فوراً ناف پر کر لے اور تین یوم کے بعد کسی خاص احتیاط کی ضرورت نہیں بلکہ کم پر بندھا رہنے دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ بو اسیر کی شکایت جاتی رہے گی۔

۷۸۶

۱۲	۳۵	۳۸	۵
۳۶	۶	۱۱	۳۶
۷	۲۰	۳۳	۱۰
۳۲	۹	۸	۳۹

دیگر

(بو اسیر کے لیے)

ترکیب: جس شخص کو بو اسیر کی شکایت ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ پیر کے

دن یا جمعہ کے دن نماز فجر اس نقش معظم کو لکھ کر موم جامہ کر کے مریض کی کمر میں باندھے اور تعویذ پشت کی طرف رہے، انشاء اللہ تعالیٰ مریض شفا یاب ہوگا اور بواسیر کی شکایت جاتی رہے گی وہ نقش مکرم یہ ہے۔

۸	۱۱	۱۴	۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۳	۱۶	۹	۶
۱۰	۵	۴	۱۵

دیگر

(بواسیر کے لیے)

ترکیب :- جس شخص کو بواسیر کی شکایت ہو تو اس کو چاہیے کہ دو رکعت نماز نفل پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ، دوسری میں اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور بعد سلام پھیرنے کے شربار کہے۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ رَبِّیْ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ سُبْحَانَ اللّٰہِ

وَ بِحَمْدِہٖ رَبِّیْ

جب تک بواسیر کی شکایت باقی رہے اس کو جاری رکھے اور جب اللہ تعالیٰ شفا فرمادے چھوڑ دے انشاء اللہ تعالیٰ بواسیر کی شکایت جاتی رہے گی۔ بہتر ہے۔

دیگر

(بو اسیر کے لیے)

ترکیب: جس شخص کو بو اسیر کی شکایت ہو تو اس کو چاہیے کہ صفر النفر کے پینے کے آخری بدھ کو ایک چھٹا چاندی کا بنوا کر تھوڑا سا پانی کنوئیں یا برے یاد ریا کائے کر انتہائی مجبوری میں تل کا پانی بھی لے سکتے ہیں اور اس پانی پر سورہہ لیس سات مرتبہ پڑھ کر دم کرے پھر اس پھلے کو آگ میں ڈال کر گرم کر کے اسی پانی میں بچھا دے پھر اسی روز اپنے ہاتھ ہاتھ میں پیتے اور اس کام کو اسی دن یعنی بدھ کے روز فجر کی نماز کے بعد یا مشتری کی ساعت یعنی چوتھے گھنٹہ میں اس عمل کو کرے اور یہ پوتھا گھنٹہ سورج نکلنے کے وقت سے شمار کیا جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ دونوں قسم کی بو اسیر کی شکایت جاتی رہے گی خونی ہو یا بادی۔ تجربہ ہے۔

دیگر

(گندہ بو اسیر کے لیے)

ترکیب: اگر کسی کو خونی بو اسیر کی شکایت ہو تو اس کو چاہیے کہ کچا سوت سرخ رنگ کا ڈیڑھ گز لبا لے کر جس کے کہ اکیس تار ڈیڑھ ڈیڑھ گز لبا لے ہوں اس پر اکیس گز لبا لے لگائے ہر گز لبا لے بار پوری سورہہ تَبَّتْ يَدَا اَبِي لَهَيْبٍ پڑھ کر دم کرتا جائے اور اگر کسی میں ہمت ہو تو ہر گز لبا لے پڑھ کر تَبَّتْ يَدَا

پوری اکیس اکیس بار پڑھ کر دم کرتا جائے۔ اسی طرح اکیس گریں پوری کرے
 پھر ان ہی گریوں پر الٹی طرف سے ہر گزہ پر ایک ایک یہ آیت شریفہ۔
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
 رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝
 پڑھو پڑھو کر دم کرتا جائے پھر ان ہی گریوں پر سیدھی طرف سے ہر گزہ پر
 ایک ایک بار یہ آیت شریفہ۔

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَّمَاءُ اقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ
 الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝
 پڑھو پڑھو کر دم کرتا جائے، اور بوا سیر والے کی کمر میں باندھے انشاء اللہ تعالیٰ خوبی
 بوا سیر والے کی شکایت جاتی رہے گی۔

دیگر

(بوا سیر کے لیے)

ترکیب :- جس عورت یا مرد کو بوا سیر کی شکایت ہو تو اس کو چاہیے کہ عروج ماہ
 (شروع ہینہ) میں تو چند ہی جمعرات یا پیر یا جمعہ کو مشتری یا زہرہ کی ساعت میں
 چالیس نقش با وضو لکھے اور ہر روز ایک نقش چالیس دن تک کنوئیں کے
 پانی سے دھو کر پیئے۔ مجبوری میں نل کا پانی بھی استعمال کر سکتا ہے۔

انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی مجرب ہے اس تعویذ کے پانی کو نہا منہ پیئے
 اور پینے کے آدھ گھنٹے یا پونے گھنٹے بعد ناشتہ کرے وہ نقش مکرر لکھے صفر پر ہے

وہ نقش مکرم یہ ہے۔

۷۸۶

۲۶۱۵۷۱	۲۶۱۵۷۴	۲۶۱۵۷۷	۲۶۱۵۷۲
۲۶۱۵۷۶	۲۶۱۵۷۵	۲۶۱۵۷۰	۲۶۱۵۷۵
۲۶۱۵۷۶	۲۶۱۵۷۹	۲۶۱۵۷۲	۲۶۱۵۷۹
۲۶۱۵۷۴	۲۶۱۵۷۸	۲۶۱۵۷۷	۲۶۱۵۷۸

دیگر

(بو اسیر کے لیے)

ترکیب ۱۔ جس مرد یا عورت کو خونی بو اسیر کی شکایت ہو تو اس کو چاہیے کہ
 عبارت کو لکھ کر تعویذ بنا کر موم جامہ کر کے ناف کے نیچے پشت کی طرف
 باندھے، اور جب تک بندھا رہنے دے جب تک شکایت باقی رہے۔
 انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی، اور بو اسیر کی شکایت جاتی رہے گی، وہ عبارت یہ ہے۔
 بِسْمِ اللّٰهِ سَمِیْرٰی سَمِیْرٰی سَمِیْرٰی سَمِیْرٰی سَمِیْرٰی سَمِیْرٰی سَمِیْرٰی سَمِیْرٰی سَمِیْرٰی سَمِیْرٰی

دیگر

(بو اسیر کے لیے)

ترکیب ۲۔ جس مرد یا عورت کو بو اسیر کی شکایت ہو تو اس کو چاہیے کہ اس
 عبارت کو لکھ کر ایک کاغذ پر اور مٹی کا ایک پاک ڈھیلا لے کر اس کاغذ پر مل کر

مستہ کے اوپر وہ ڈھیلا میں اس طرح روزیہ عمل کریں انشاء اللہ تعالیٰ بواسیر
کی شکایت جاتی رہے گی۔ وہ عبارت یہ ہے۔ او ارادانا نھما ما سمت
سمیری سواھا بواھا سامری سمرونا اندونا۔

بد نظر کے لیے

ترکیب۔ جس بچے کو نظر لگ جائے یا ضد کرتا ہو یا سوتے میں ڈرتا ہو تو سورۃ
قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ پوری اور سورۃ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ پوری سورت تین
دفعہ پڑھ کر اس پر دم کرے اور یہ آیات اور دعا لکھ کر تعویذ بنا کر موم جامہ کر کے
بچے کے گلے میں ڈالے۔ وہ آیات اور دعا یہ ہیں۔

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْانْسِ اِنِ اسْتَفْعَنُوْا اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ
اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَاَنْفُذُوْا وَلَا تَنْفُذُوْا اِلَّا بِسُلْطٰنٍ
مِّنْ اٰمْرِ الْاَعْلٰی رَبِّكُمْ اَنَّ بَيْنَ هٰٓءِ اَعُوذُ بِكَلِمٰتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ
شَرِّ كُلِّ شَيْطٰنٍ وَهَامَةٍ وَعَيْنٍ لَّامَةٍ :-

دیگر

(نظر بد کے لیے)

ترکیب۔ جس کسی کو نظر لگ جائے۔ اس نقش کو لکھ کر موم جامہ کر کے گلے

۷۹۰۶	۷۹۰۹	۷۹۱۲	۷۸۹۹
۷۹۱۱	۷۹۰۰	۷۹۰۵	۷۹۱۰
۷۹۰۱	۷۹۱۴	۷۹۰۷	۷۹۰۴
۷۹۰۸	۷۹۰۳	۷۹۰۳	۷۹۱۳

دیگر

انظر بد کے لیے

ترکیب: جس کسی کو نظر بد لگ گئی ہو، تو اس مریض پر ان آیات شریفہ کو پانچ بار
 یا سات بار پڑھ کر دم کرنے انشاء اللہ تعالیٰ نظر بد کا اثر جاتا رہے گا
 وہ آیات مبارکہ یہ ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ لَخَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَا
 الْاَرْضِ اَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ
 لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ فارجع البصر هل ترى من فطورٍ ثم
 ارجع البصر كرتین ۝ یثقلب الیك البصر حاسبًا
 وَهُوَ حَسِیْرٌ ۝ وَاِنْ یكٰدُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَیُبْذِقُوْكَ
 یٰ اَبْسَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوْا الذِّكْرَ وَیَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ۝
 وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝

دیگر

(بد نظر کے لیے)

ترکیب ۱۔ جس کسی کو بد نظر لگ گئی ہو اور مریض کی حالت زیادہ خراب ہو گئی ہو تو اس نقش کو لکھ کر موم جامہ کر کے مریض کے گلے میں بانٹھ لے اور اسی نقش کو دوبارہ لکھ کر قید بنا کر مغرب کے بعد گائے کے گھی میں مریض کے سر ہانے روشن کرے اور جب تک قید جلتا رہے مریض چار پائی پر لیٹا رہے۔ قید روشن کرنے کا عمل تین روز برابر کرے اور پھر اس چراغ کو جو تین دن تک روشن رہا ہے کسی جگہ زمین میں دفن کر دے۔

انشاء اللہ تعالیٰ بد نظر کا اثر جاتا رہے گا اور مریض شفا یاب ہو گا وہ نقش مکر

یہ ہے۔

۷۸۶

۱۶۶۳۹	۱۶۶۴۲	۱۶۶۴۵	۱۶۶۴۲
۱۶۶۴۴	۱۶۶۴۳	۱۶۶۴۸	۱۶۶۴۳
۱۶۶۳۴	۱۶۶۴۷	۱۶۶۴۰	۱۶۶۳۷
۱۶۶۴۱	۱۶۶۳۶	۱۶۶۴۵	۱۶۶۴۶

دیگر

(بد نظر کے لیے)

ترکیب ۱۔ جس کسی آدمی یا جانور کو بد نظر لگ گئی ہو اس پر اس دعا کو پڑھ کر پانچ

باریاتین باردم کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ نظر بد کا اثر جاتا رہے گا، اور آدمی یا جانور تکلیف سے چھٹکارا پائے گا، وہ دعا یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ عَظِیْمِ الشَّارِءِ شَدِیْدِ
الْبُرْهَانِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ حَبِیْسٌ عَالِسٌ مِنْ حَجْرٍ یَّابِیْسٍ وَ شَهَابٍ
قَابِیْسٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ رَدَدْتُ عَیْنَ الْعَاثِمِ عَلَیْهِ وَعَلَىٰ اَحَبِّ النَّاسِ
اِلَیْهِ فِیْ كِبْدِهِ وَكَلْبَتِهِ لَهْمُ دَقِیْقٌ وَعَظْمٌ فِیْهَا لَهٗ بَلِیْقٌ قَارِجِعِ
الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُوْرٍ ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَیْنِ یَنْقَلِبُ
اِلَیْكَ الْبَصَرُ حَاسِبًا وَهُوَ حَسِیْرٌ ط

دیگر

(بدنظر کے لیے)

ترکیب: جس کسی کو بدنظر لگ گئی ہو خواہ مرد ہو، عورت ہو یا بچہ، ایسی حالت میں نوتار کے نیلے سوت کے لے کر اتنے بڑے کہ مریض کے گلے میں آجائیں، ان پر چھگر ہیں لگائی جائیں گی اس طرح کہ ہر گرہ پر سات بار درود شریف اور تین بار سُورَةُ اِخْلَاصٍ یعنی قُلْ هُوَ اللّٰهُ شَرِیْفٌ پوری پڑھ کر ہر گرہ پر دم کرتا جائے اور بہ گنڈا پھر مریض کے گلے میں ڈال دے اور اگر جانور کو بدنظر لگ گئی ہو تو سیاہ اون لے کر جو کاتا ہوا گھر کا ہوا تنا بڑا لیا جائے کہ جانور کے گلے میں آ جائے۔ اس اون کے بھی نوتار لیے جائیں گے اور ان پر بھی چھگر ہیں لگائی جائیں گی اور ہر گرہ پر سات بار درود شریف اور تین بار سُورَةُ اِخْلَاصٍ یعنی

قُلْ هُوَ اللَّهُ شَرِيفٌ پوری پڑھ کر دم کیا جائے گا اور اس گنڈے کو اس جانور کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جس کو بد نظر ہو گئی ہے۔

دیگر

(بد نظر کے لیے)

ترکیب: جس بڑے یا بچے کو بد نظر لگ گئی ہو تو اس کو چاہیے کہ ان آیات شریفہ کو لکھ کر ہوم جامہ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دے اور بڑا اپنے بازو پر باندھے۔
انشاء اللہ تعالیٰ بد نظر کا اثر جاتا رہے گا۔ وہ آیت شریفہ یہ ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَعُوْذُ بِكَ اللّٰهُ التَّامَّةِ
مِنْ شَرِّ كُلِّ شَیْطَانٍ وَّ هَامَّةٍ وَّ عَیْنٍ لَّامَّةٍ
تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ اَلْفِ اَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا
بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ ۝

دیگر

(بد نظر کے لیے)

ترکیب: جس کسی کو بد نظر لگ گئی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مخرب یا عشاء کے بعد مریض کو چار پانی پر لٹا کر اس کے دلہنے کان میں اس آیت مبارکہ کو اکیس بار پڑھ کر دم کرے (ایک مرتبہ بسم اللہ شریفہ کے ساتھ اور بیس مرتبہ بغیر بسم اللہ کے پڑھے کل تعداد اس کی اکیس مرتبہ) اور اس کے بعد کروٹ بدلو کر بعض

کے بائیں کان میں چاروں قُل دوسرے مرتبہ پڑھنا جائے اور مریض کے کان میں دم کرتا جائے۔۔۔ یعنی قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ - قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ چاروں سورتیں پوری پوری یعنی ایک سورۃ دوسرے مرتبہ پڑھی جائے اور مریض کے کان میں دم کر دیا جائے اس طرح چاروں سورتوں کو دم کیا جائے اس کو تین روز تک وقت معینہ پر برابر کیا جائے انشاء اللہ نظر بد اور اگر اس کے ساتھ بخار بھی ہو گا جاتا رہے گا آیت مبارکہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَفْحَسِبْتُمْ اَنْمَآ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنْتُمْ كٰفِرُوْنَ ۝ اَلَيْسَ اَلَا تُرْجَعُوْنَ ۝ فَتَعَلٰی اللّٰهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ ۝ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْکَرِیْمِ ۝ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهٖ ۝ اِنَّهٗ لَا یُعَلِّمُ الْکٰفِرُوْنَ ۝ وَقَدْ رَّبَّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَاَنْتَ خَیْرُ الرَّاحِمِیْنَ ۝

جو دلہنے کان میں اکیس مرتبہ پڑھ کر دم کی جائے گی۔

ناف

کے ٹل جانے کے لیے عمل
ترکیب اگر کسی کی ناف ٹل گئی ہو تو اس نقش مبارک کو ناکھ کر موم جامہ کر کے کمر میں باندھیں خواہ دھجی میں سی کر یا تعویذ پر کیڑے کا غلاف چڑھا کر ڈورے کے ساتھ باندھیں لیکن تعویذ ناف پر رہنا چاہیے انشاء اللہ ناف اپنی جگہ آجائے گی۔ (وہ نقش مکرم اگلے صفحہ پر ہے)


وہ نقش مکرم یہ ہے۔

د	ح	ب	ا
ی	۱	د	۳
۴	۲	در	د

دیگر

(ناف کے ٹل جانے کے لیے)

ترکیباً۔ اگر کسی کی ناف ٹل گئی ہو تو اس شکل کو کاغذ پر بنا کر موم جامہ کر کے کمر میں باندھے اس طرح کہ یہ شکل ناف کے اوپر رہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر آجائے گی مجرب ہے۔
وہ شکل یہ ہے۔



دیگر

(ناف ٹل جانے کے لیے اور کمر کے درد کے لیے)
 ترکیب ۱۔ اگر کسی کی ناف ٹل گئی ہو تو اس عبارت کو لکھ کر تعویذ بنا کر موم جامہ
 کر کے یا تو پاک دھجی میں سی کر یا تعویذ پر کپڑے کا غلاف چڑھا کر اور ڈوسے
 میں سی کر کمر میں باندھے ناف ٹل جانے کی حالت میں تعویذ ناف پر رہے اور
 کمر میں درد ہونے کی حالت میں تعویذ کمر پر رہے انشاء اللہ تعالیٰ ناف اپنی
 جگہ آجائے گی۔ اور کمر کا درد جاتا رہے گا۔ وہ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۸۸۸	۸۸۳	۸۹۰
۸۸۹	۸۸۷	۸۸۵
۸۸۴	۸۹۱	۸۸۶

دیگر

(ناف ٹل جانے کے لیے)
 ترکیب ۱۔ اگر کسی کی ناف ٹل جاتی ہو تو اس نقش مکرم کو لکھ کر باندھے
 لیکن موم جامہ کر لے اور تعویذ کمر میں اس طرح باندھے کہ ناف کے اوپر
 رہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر آجائے گی اور مریض کو شفا ہو
 گی۔ (نقش آئندہ صفحہ پر ہے)

وہ نقش مکرم یہ ہے۔

وَدَايَتِ	وَالْفَتْحُ	نَصْرُ اللَّهِ	رَادَا حَيَاءَ
دِينِ	فِي	يَدَا خُلُونِ	النَّاسِ
وَمَحْمَدِ	فَسِيحُ	أَفْوَا حَيَا	اللَّهُ
كَانَ	رَأَيْتَهُ	وَأَسْتَعْفِرُهُ	رَبِّكَ
يَا كَاتِبُ	يَا شَاقِي	يَا عَفُوسُ	تَوَّابَا

دیگر

(ناف ٹل جانے کے لیے)

ترکیب: جس کسی کی ناف ٹل جائے تو اس کو چاہیے کہ اس نقش معظّم کو لکھ کر موم جامہ کر کے کمر میں باندھے اس طرح پیر کہ تعویذ ناف کے اوپر پڑا رہے، انشاء اللہ ناف اپنی جگہ پر آجائے گی اور مریض کو شفا ہوگی نقش میں جس خانے میں فلاں لکھا ہے۔ اس جگہ مریض کا نام لکھے وہ نقش مکرم یہ ہے۔

۷۸۶

۸	۳۲	۳۶	۱
۳۵	۲	۷	۳۳
۳	فلاں	۳۰	۶
۳۱	۵	۴	۳۷

دیگر

(ناف ٹل جانے کے لیے)

ترکیب جس شخص کی ناف ٹل جاتی ہو اس کو چاہیے کہ یہ آیت بسم اللہ شریف لکھ کر ناف کی جگہ موم جامہ کر کے باندھیں انشاء اللہ تعالیٰ ناف اپنی جگہ پر آجائیگی اور اگر بندھا رہنے دے تو انشاء اللہ تعالیٰ پھر ناف نہ ٹلے گی۔

وہ آیت شریفہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّ اللّٰهَ یُمِیْسُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ اِنْ تَزُوْدَ لَا وَّلَیْمٌ زَالِتا اِنْ اَمْسَکَھُمَا مِنْ اَحَدٍ
مِّنْۢ بَعْدِہٖ اِنَّہٗ كَانَ عَلِیْمًا عَفُوْرًا ۝

تلی

(بڑھ جانے کے لیے عمل)

ترکیب جس شخص کی تلی بڑھ گئی ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ آیت شریفہ مع بسم اللہ لکھ کر موم جامہ کر کے کمر میں باندھے اور تعویذ تلی کے مقام پر پڑا رہے۔ انشاء اللہ اس تعویذ کی برکت سے تلی کا درم دور ہو جائے گا اور تلی اپنی اصلی حالت پر آجائے گی وہ آیت شریفہ یہ ہے۔


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ذٰلِكَ تَخْفِیْفٌ
مِّنْ رَّبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ ۝

دیگر

(رتلی بڑھ جانے کے لیے)

ترکیب: جس شخص کی رتلی بڑھ گئی ہو تو اس کو چاہیے کہ ایک رومال لے کر اس کی چار تہہ بنا کر اس رومال کو رتلی کی جگہ پر رکھے اور اس نقش کو کانٹھ پر لکھ کر اور دو بالشت بنا کر اس کے گوشے سے حقہ کی نئی بنتی ہے اس کے اندر اس نقش کو رکھے اور اس نرسل کے اندر نقش پر آگ کا ایک انگارہ ڈال دے اس نرسل کا نیچے کا سر رومال کے اوپر رکھے تاکہ نیچے کے سرے سے نکلنے والا دھواں اس رومال پر پہنچتا رہے جب تک تعویذ میں سے دھواں نکلتا رہے نرسل کو رومال کے اوپر ڈراٹھا ہوا رکھے رہے۔

انشاء اللہ تعالیٰ ایسا کرنے سے رتلی کا درم دور ہو جائے گا اور رتلی اپنی اصلی حالت پر آجائے گی اس عمل کو تین یا سات روز تک کرتا رہے آرام ہونے پر چھوڑ دے۔ وہ نقش مکرم یہ ہے




(رتلی بڑھ جانے کے لیے)

ترکیب: جس کسی کی رتلی بڑھ گئی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس نقش کو آگے آ رہا ہے

کانڈ پر لکھ کر تلی کے مریض کے بائیں ہاتھ پر رکھے اور اس نقش کے اوپر ایک ڈھیلا سفید مٹی یعنی پوتسی مٹی کا رکھے اور سورۃ اخلاص یعنی تَلَىٰ هُوَ اللّٰهُ شَرِيف پوری گیرہ مرتبہ پڑھ کر اس ڈھیلے پر دم کرے اور اس مریض کی تلی کو ایک دوسرا شخص پکڑا رہے اور لوہان بھی سلگالے تو بہتر ہے اس عمل کو تین روز یا پانچ روز برابر کرے، آرام ہونے پر چھوڑ دے۔

انشاء اللہ تعالیٰ مریض شفا پائے گا۔



دیگر

(تلی بڑھ جانے کے لیے)

ترکیب :- جس شخص کی تلی بڑھ گئی ہو تو اس کو چاہیے کہ ان آیات مبارکہ کو لکھ کر موم جامہ کر کے تعویذ بنا کر تلی والے مریض کے گلے میں ڈالے اور اتنا لیا ہو کہ تعویذ تلی پر پڑا رہے۔

انشاء اللہ تعالیٰ تلی کا ورم جاتا رہے گا، اور مریض اچھا ہو جائے گا۔ وہ آیات مبارکہ آئندہ صفحہ پر ہیں۔

آیات مبارکہ یہ ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اِنَّ اللّٰهَ یُمِیْسُكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ فَن تَزُوْلًا ۝ وَلَیْسَ زَالَتَا اَمْسَكَهُمَا مِنْ
اَحَدٍ مِّنْ اَعْدِیَّہ ۝ اِنَّہٗ كَانَ حَلِیْمًا غَفُوْرًا ۝ یَا
طٰحٰلُ اَرْجِعْ مَكَانَكَ بِحَقِّ اَمْحَابِ النَّبِیِّ طٰحٰلُ اللّٰهُ
عَلِیْہِ وَسَلَّمَ ۝

دیگر

(تلی بڑھ جانے کے لیے)

ترکیب: جس شخص کی تلی بڑھ گئی ہو تو اس کو چاہیے کہ بکری یا بکرے کی
تلی ایک عدد لیں اور غسل کریں اور بعد میں تازہ وضو کر کے یا غسل کے ساتھ ہی
وضو کرنے کے ساتھ کانٹے بھول (یعنی کیکر) کے لے کر سورۃ یس شریف
شروع کرے ہر مبین پر ایک کانٹا تلی میں دم کر کے چھوتا جائے اسی طرح
ساتوں مبینوں پر دم کر کے کانٹے اس میں چھوتا جائے اور ہر دفع ہر مبین
پر شروع یس سے پڑھ کر دم کرے اور آخر میں پوری یس شریف پڑھ
کر تلی میں دم کرے اور تلی کو ایسی جگہ پر لٹکائے جہاں مریض کی چارپائی
بچھی ہے۔ تلی ہر وقت اس کے منہ کے سامنے رہے یعنی چارپائی
کی پائنتی کی طرف رہے کہ مریض کی نظر ہر وقت تلی پر پڑتی رہے اللہ اللہ
تعالیٰ مریض شفا یاب ہوگا۔ مجرب المجرّب ہے۔

دکھتی آنکھوں

کے لیے عمل

ترکیب: جس کسی کی آنکھیں دکھ رہی ہوں اور آنکھوں میں سرخی قائم ہو گئی ہو طبیوں یا ڈاکٹروں کے علاج سے کسی طرح فائدہ نہ ہو رہا ہو تو ایسے مریض کے لیے چاہیے کہ ۲ چھٹانک پانی گرم کرنے کے لیے رکھے اور جب جوش آتے آتے ایک چھٹانک رہ جائے تو اس پانی کو بوتلے یا انگیٹھی سے نیچے اتار کر یہ نقش جو آگے آ رہا ہے اس پانی میں ڈال کر اس برتن کو ڈھک دے اور جب پانی ہاتھ ڈالنے کے قابل ہو جائے تو اس نقش کو ہاتھ سے مل کر اس کا غند حفاظت سے رکھتا رہے اور اس پانی میں ایک صاف سنہرا کپڑا بھگو بھگو کر آنکھ پر رکھتا رہے۔ اس پانی کا استعمال تھوڑے تھوڑے وقفے سے سارا دن کرتا رہے اور جو پانی ٹکڑے کے بعد بیچ رہے اس پانی کو کسی گیلے یا کیاری یا چھت یا دیوار جہاں وہ جذب ہو جائے کسی بھی محفوظ جگہ ڈال دے دوبارہ اس پانی کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب شام ہونے کو آئے تب اس پانی کو کسی مناسب جگہ ڈال دے جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے یہ عمل پانچ یا سات یوم برابر کرے۔ مجرب المجرّب ہے

(نوٹ)

پانچ یا سات روز استعمال کے بعد بھی اگر سرخی باقی رہے تو جب تک سرخی دور نہ ہو اس عمل کو کرتا رہے جو کاغذ بحفاظت رکھتا رہا ہے ان کاغذوں

کی آٹے کی گولیاں بنا کر دریا یا تالاب میں جہاں مچھلیاں ہوں ڈال دے۔
وہ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۹۰	۸۵	۹۲
۹۱	۸۹	۸۷
۸۶	۹۳	۸۸

دیگر

(دکھتی آنکھوں کے لیے)

ترکیب۔ جس شخص کی آنکھیں دکھ رہی ہوں تو اس کو چاہیے کہ بعد نماز فجر بلکہ پانچوں وقت کی فرض نماز یعنی فرضوں کے بعد اس آیت مبارکہ کو سات مرتبہ پڑھ کر اور ہاتھوں کے انگوٹھوں پر دم کر کے دونوں آنکھوں کو لگائے اور اگر اس کی آنکھیں تندرست ہیں تو دو وقتوں کے فرضوں یعنی بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب اس آیت مبارکہ کو سات مرتبہ مع اول و آخر تین بار درود شریف پڑھ کر ہاتھوں کے انگوٹھوں پر دم کر کے آنکھوں پر ملے یا لگائے۔

انشاء اللہ دکھتی آنکھیں تندرست ہوں گی اور تندرست آنکھیں دکھیں گی نہیں۔ مجرب ہے وہ آیات مبارکہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَمْرَكَ فَاصْرِكِ
الْيَوْمَ حَدِيثٌ ط

دیگر

(دکھتی آنکھوں کے لیے)

ترکیب: جس شخص کی آنکھیں دکھ رہی ہوں تو اس کو اس طرح لکھ کر بخیر موم جامہ
کیے ہوئے پاک دھجی میں لپیٹ کر سر میں باندھے کہ تعویذ دونوں آنکھوں
کے درمیان پیشانی پر رہے انشاء اللہ تعالیٰ صحت ہوگی۔ مجرب ہے۔

إِذَا مَا مُقَلَّتِي رَمَدَاتٌ فَكُحِّلِي
تُرَابٌ مِّنْ نَّعْدِ أَحَبُّ نُرَابٍ
هُوَ الْبُكَاءُ فِي الْمِحْرَابِ كَيْلًا
هُوَ الْقَمْحَاكُ فِي يَوْمِ الضَّرَابِ

دیگر

(دکھتی آنکھوں کے لیے)

ترکیب: جس شخص کی آنکھیں دکھ رہی ہوں تو اس کو چاہیے کہ ان آیات مبارکہ
کو مشک اور زعفران سے چینی کی طشتی پر لکھ کر دھو کر پیٹے یا گند پر لکھ کر موم جامہ
کے پاک دھجی میں لپیٹ کر سر میں باندھے اس طرح کہ تعویذ دونوں آنکھوں
کے درمیان پیشانی پر رہے۔ مجرب ہے۔ وہ آیات مبارکہ یہ ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذْ هَبُوا بَقِيصِي هَذَا
فَالْقَوْلُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بِصِيرًا ط

پھر دو رکعت تحیۃ الوضوء کی نیت سے نفل ادا کرے اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے اس آیت مبارکہ کو سات مرتبہ کاغذ پر لکھے اور اس کاغذ کو کسی گتے پر چپکا کر مکان میں لٹکا دے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ اِنَّہٗ مِنْ سُلَیْمٰنَ
وَ اِنَّہٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ اَلَا تَعْلَمُوْا عَلٰی
وَ اَنْتُوْنِیْ مُسْلِمِیْنَ ۝

اور اگر کسی آدمی پر کسی قسم کا اثر ہو جن آسیب و بنیرہ کا تو اس کے لیے بھی بالکل اوپر والے طریقے کے مطابق لکھ کر موم جامہ کر کے مریض کے گلے میں ڈالے انشاء اللہ تعالیٰ اسی دن وہاں سے جن رخصت ہو جائے گا، اور پھر اس مکان میں کبھی نہ آئے گا، اور مریض کے اوپر سے تمام اثرات زائل ہو جائیں گے، اور مریض اچھا ہو جائے گا، مجرب المجرّب ہے۔

دیگر

(مکان کی حفاظت کے لیے)

ترکیب: جس مکان میں جن و شیاطین و آسیب کا اثر ہو تو اس کو چاہیے کہ اسماء گرامی اصحاب کہف لکھ کر مکان کی دیواروں اور دروازوں پر چسپاں کرے کم از کم تین چار کاغذوں پر لکھ کر تین چار جگہ پٹھوں پر ہی چپکا دے

اور لٹکا دے۔

انشاء اللہ کسی قسم کا اثر اس مکان میں نہ رہے گا۔ اور اگر رہے گا، تو

پریشان نہ کرے گا۔ وہ اسماء گرامی یہ ہیں۔

اللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ اَيْمَانِنَا وَمَكْرَمَتِنَا اَشْفُو طَطْرًا اَذْرَقَطِيوُنُسْ
كشافطيوُنُسْ يُوَانِسْ يُوَانِسْ وَاِسْمٌ كَلْبُهُمَّ قَطْمِيْرٌ وَّعَلَى
اللّٰهُ تَسْبِيْحُ السَّبِيْحِ وَمِنْهَا جَائِزَةٌ ط

اور ان اسماء مبارک میں یہ بھی اوصاف ہیں کہ جس مقام پر آگ لگی ہو ان کو کاغذ پر لکھ کر آگ میں ڈال دے انشاء اللہ تعالیٰ آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔
مغرب ہے۔

دیگر

(مکان کی حفاظت کے لیے)

ترکیب جس مکان میں جن و شیاطین یا آسنب یا مہوت پریت، پھڑیل دینہ ارواح
خبیثہ کا اثر ہو تو پیر کے دن یا بدھ یا جمعرات کے دن بساعت مشترمی یا زہرہ پوری
سورۃ بقرہ اس مکان میں بیٹھ کر درمیانی آواز سے پڑھے۔ اور ایک گلاس پانی
کا بھر کر اپنے پاس رکھ لے اور جب سورۃ ختم ہو جائے تو اس پانی پر دم کر کے
مکان کی دیواروں پر چھڑک دے اور اس طرح پر کہ پانی زمین پر نہ گرے اور ساعت
کا حساب سورج نکلنے کے وقت سے لگائے۔

انشاء اللہ تعالیٰ کسی قسم کا اثر مکان میں نہ رہے گا۔ مغرب ہے۔

دیگر

(مکان کی حفاظت کے لیے)

ترکیب ۱۔ جس مکان میں جن و شیاطین یا کسی قسم کی ارواح خبیثہ کا اثر ہو تو اس کو چاہیے کہ لوہے کی چار کیلیں ٹوپی دار لے کر ان میں سے ہر کیل پر ۲۵، ۲۵ مرتبہ آیت مبارکہ پڑھ کر دم کرے اور ایک ایک کیل چاروں گوشوں میں گاڑ دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کا اثر عاتا رہے گا۔

وہ آیت مبارکہ یہ ہے۔

إِنَّهُمْ بَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا ط قَمِيلِ الْكُفْرَيْنِ
أَمْهَلُهُمْ رَوَيْدًا ط

حافظہ

(کی زیادتی کے لیے عمل)

جس شخص کو قرآن مجید نہ حفظ ہوتا ہو تو سوتے وقت عشاء کی نماز کے بعد ہر رات سو دفعہ پوری الحمد شریف پڑھا کرے۔ انشاء اللہ قرآن شریف یاد ہو جائے گا۔ مجرب ہے۔

دیگر

(حافظہ کی زیادتی کے لیے)

جس شخص کا حافظہ کمزور ہو تو اس کو چاہیے کہ عروج ماہ التوار کے دن اس

عمل کو شروع کرے اس طرح پر کہ اتوار کے سورج نکلنے سے پہلی ساعت شمس ستارہ کی ہوتی ہے، اس کا ایک گھنٹہ چھوڑ کر دوسرے گھنٹہ میں جو زہرہ کا ہوتا ہے، چھوٹے سے کاغذ پر موٹے قلم سے لکھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۔

اور بہار منہ اس کاغذ کو دھو کر اس کے پانی سے نقش والے کاغذ کو نکل لیا جائے اور یہ نقش دھویا ہو یا پانی اس کے اوپر سے پی لے اور اسی طرح دوسرے

اتوار کو دوسری ساعت میں مع بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ لکھے اور اسی طریقہ سے بہار منہ کھائے اور اسی طرح تیسرے اتوار کو دوسری

ساعت میں مع بسم اللہ شریف اللّٰهُ كَطِیْفٌ اَبْعَادٍ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِیْزُ۔ لکھے اور جس طرح پہلی اتوار کو کیا تھا اس کا استعمال کرے اور

چوتھے اتوار کو مع بسم اللہ شریف الْمَتَّقِ، كَهَيْعَصْنِ، طَه۔ لکھے اور جس طرح پہلی اتوار کو کیا تھا استعمال کرے اور پانچویں اتوار کو مع بسم اللہ شریف

حَقِیْقٌ اَحْمَدُ لکھے اور جس طرح پہلی اتوار کو کیا ہے اس کا استعمال کرے اور چھٹی اتوار کو مع بسم اللہ شریف طَسْمَ، طَسِ، اَلْرَاکِیْ لکھے اور جس طرح پہلی اتوار

کو کیا ہے اس کا استعمال کرے اور ساتویں اتوار کو مع بسم اللہ شریف صَقَّ قَدْ اِنَّمَا اَمْرٌ اِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ قَسِيْعًا الَّذِي يَبْدِءُ

مَنْكُوْبَتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ط یہ خیال رہے کہ ہر اتوار کو سورج نکلنے سے ایک گھنٹہ بعد یعنی دوسرے گھنٹہ میں جو کہ زہرہ کی ساعت

کہلاتی ہے، لکھا جائے گا مجرب البحر ہے

دیگر

حافظہ کی زیادتی کے لیے

ترکیب ۱۔ جو بچہ حفظ کر رہا ہو اور اس کا حافظہ کمزور ہو یعنی یاد کرنے کے بعد بھول جاتا ہو یا حفظ کر کے بھول گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ جمعرات کے دن سورج نکلنے ہی مشتری کی ساعت میں اول آخریہ گیدرہ منربہ ورد شریف اور اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پوری اس طرح پڑھی جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

یعنی بِسْمِ اللّٰهِ کی میم کو اَلْحَمْدُ کے لام سے ملا کر پڑھا جائے گا اور اکتالیس بار ختم کرنے کے بعد میں ایک پاؤ میٹھی کھیلوں پر دم کر دیا جائے اور روزانہ بہار منہ ان کھیلوں میں سے سات یا نو دن اس بچے کو کھلائیں جس کا حافظہ کمزور ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ حافظہ قوی ہو جائے گا اور جو پڑھے گا یاد رکھے گا مجرب ہے۔

دیگر

حافظہ کی زیادتی کے لیے

ترکیب ۱۔ جس کسی بچے یا بڑے کا حافظہ کمزور ہو تو اس کو چاہیے کہ جمعرات یا جمعہ کے دن پہلی ساعت میں چینی کی طشتری پر باو منور عفران مشک اور گلاب سے ان آیات مبارکہ کو لکھ کر نہار منہ ان کو دھو کر اس کو بلائے جس کا حافظہ کمزور ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ بھولی بات یاد رہنے لگی۔

اس عمل کو مسلسل سات دن تک کرے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ط قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ
 مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ط اِنَّكَ سَمِیْعٌ الدَّعَاۗءِ فَاَدَاتَهُ
 الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ
 بِرَبِّحِیْ مُصَدِّقًا اَبْكَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّوَبِيْنًا مِنَ
 الصّٰلِحِيْنَ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ یٰكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ وَّكَدُّ بَلَغَنِ الْكِبَرِ وَاْمْرًاۗتِیْ
 عَاقِرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ ط

نوٹ: اس عمل کے لیے موسم سرما یعنی (سردی) میں کیا جانا بہت ہی بہتر
 ہے گا۔

دکان

(کی ترقی کے لیے عمل)

ترکیب: اگر کسی کی دکان نہ چلتی ہو اور فائدہ کم ہوتا ہو تو اس آیت کو دو پزروں
 پر لکھ کر ایک پزے کو گتے پر چسپاں کر کے دکان کے اندر لٹکا دے اور دوسرے
 پزے کو موم جامہ کر کے اپنے گلے کے اندر جس میں وہ روپیہ پیسہ رکھتا ہو
 یہ خیال رہے کہ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی کھو گیا تو پھر اثر زائل ہو جائیگا
 کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اس کے لیے دونوں کی بڑی حفاظت رکھے
 گلے والے تعویذ اور گتے والے تعویذ کی،

انشاء اللہ تعالیٰ دکان خوب چلے گی اور خریدار بہت آئیں گے اور اگر

کسی دشمن نے بند کرا دی یا کر دی ہوگی اور کھل جائے گی۔
وہ آیت مبارکہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ هُوَ الَّذِیْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ
فِیْهَا رَوَاسِیَ وَاَنْهَارًا ۚ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِیْهَا زَوْجِیْنَ اُنْثٰی
یُغْشٰی اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

دیگر

(دکان کی ترقی کے لیے)

ترکیب ۱۔ اگر کسی کی دکان نہ چلتی ہو اور فائدہ کم ہوتا ہو تو اس کو چاہیے کہ
اس نقش کو سورج نکلنے سے پہلے یعنی (طلوع آفتاب سے پہلے) جمع
بہفتہ پیر یا منگل کو لکھے جمعہ کو سورج نکلنے سے پہلے شمس کی ساعت
ہوگی۔ بہفتہ کو سورج نکلنے سے پہلے قمر کی ساعت ہوگی۔ بہفتہ کو سورج
نکلنے سے پہلے قمر کی ساعت ہوگی پیر کو سورج نکلنے سے پہلے عطارد کی
ساعت ہوگی۔ منگل کو سورج نکلنے سے پہلے مشتری کی ساعت سب سے
بہتر ہے۔ اور آئندہ لکھنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے جس روز لکھے اور
لکھے کے بعد ایک گتے پر چپاں کر کے یعنی چپکا کر اس گتے کو دکان میں
لٹکا دے۔

انشاء اللہ تعالیٰ خوب خرید و فروخت ہوگی مجرب ہے وہ نقش مکرم
یہ ہے اور اس نقش کو لٹکانے کے وقت یہ اہتمام ضروری ہے کہ نقش

اس طرح اشکابا جائے کہ دیکھنے والے یا خریدار کی نظر کے سامنے ہو۔

۱۲۷	۱۳۰	۱۳۴	۱۲۰
۱۳۳	۱۲۱	۱۲۶	۱۳۱
۱۲۲	۱۳۶	۱۲۸	۱۲۵
۱۲۹	۱۲۴	۱۲۳	۱۳۵

دیگر

(دکان کی ترقی کے لیے)

ترکیب ۱۔ اگر کسی کی دکان نہ چلتی ہو اور فائدہ کم ہوتا ہو تو اس کو چار کوری سکوری جن میں کہ خوشی کے موقع پر کھیر یا فیرینی جاتے ہیں لیکن وہ ایسی ہوں کہ جن کو پانی نہ لگا ہو لیکن ان پر جمہرات، جعد یا پیر کے دن مشتری کی ساعت میں لکھے اور دکان کے چاروں کونوں میں ان کو الٹا کر کے رکھ دے۔

انشاء اللہ تعالیٰ خوب بکری ہوگی اور بہت زیادہ منافع ہوگا۔ جمہرات کو یہ ساعت سورج نکلنے ہی آتی ہے۔ اور جعد کو پانچویں گھنٹہ میں سورج نکلنے کے بعد سے آتی ہے اور پیر کو سورج نکلنے کے بعد تیسرے گھنٹے میں آتی ہے لکھنے والے کو ان اوقات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ (وہ آیات مبارکہ صفحہ آئندہ پر ہے)

وہ آیت مبارکہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ اِنَّ الَّذِیْنَ یَتْلُوْنَ کِتٰبَ اللّٰهِ وَاقَامُوا
الصَّلٰوةَ وَانْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِیَةً یَّرْجُوْنَ تِجَارَةً
لَّیْسَ تَبُوْرًا لِّیُوْفِیْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَیَزِیْدُ لَهُمْ مِنْ فَضْلِہٖ اِنَّہٗ غَفُوْرٌ
شکوْرٌ ط

دیگر

دکان کی ترقی کے لیے

ترکیب ۱۔ اگر کسی کی دکان نہ چلتی ہو اور فائدہ کم ہوتا ہو تو اس کو چاہیے کہ
اس نقش مبارک کو چار کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھے اور ان ٹکڑوں کو گتوں پر الگ الگ
چمکا کر دکان کے چاروں کونوں میں درسی و غیرہ کے فرش کے نیچے سیدھے بحفاظت
رکھے۔ اس نقش کو پیر کے دن سورج نکلنے کے بعد تیسرے گھنٹہ اور جمعہ کو
سورج نکلنے کے بعد پانچویں گھنٹہ میں لکھے کہ یہ سب ساتیں مشتری کی
ہوتی ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ بکری خوب ہوگی اور نفع بھی خوب ہوگا۔
وہ نقش مکرم یہ ہے۔

۷۸۶

۵۶۰	۵۵۵	۵۶۲
۵۶۱	۵۵۹	۵۵۷
۵۵۶	۵۶۳	۵۵۸

دیگر

(دکان کی ترقی کے لیے)

ترکیب :- اگر کسی کی دکان نہ چلتی ہو اور فائدہ کم ہوتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس نقش کو لکھ کر گتے پر چپکا کر دکان کے اندر لٹکا دے تاکہ عھدیدار کے سامنے رہے اور اس کو مشتری کی ساعت میں لکھے پیر کے دن سورج نکلنے کے بعد سے تیسرے گھنٹہ میں آتی ہے اور جمعرات کو سورج نکلنے سے پہلے گھنٹہ میں اور جمعہ کو سورج نکلنے کے بعد سے پانچویں گھنٹہ میں یہ ساعت آتی ہے انشاء اللہ تعالیٰ بکری خوب ہوگی اور نفع بھی زیادہ ہوگا۔

مغرب ہے وہ آیت مبارکہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلٰی
قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰی عُرُوشِهَا يَحْتَقِ الْكُفْرَ وَيَحْتَقِ
حَمَّ كَهَيْعَتِهِ وَيَحْتَقِ حَمَقَسَقٍ وَيَحْتَقِ بِسْمِ اللّٰهِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

دیگر

(دکان کی ترقی کے لیے)

ترکیب :- اگر کسی کی دکان نہ چلتی ہو اور نفع کم ہوتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس نقش کو مشتری کی ساعت میں لکھ کر گتے پر چپکا کر دے یا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس نقش

کو شیشہ کا فریم کر لے اور دکان یا گھر میں اس کو لٹکا دے انشاء اللہ تعالیٰ دکان کی بکری بڑھ جائے گی اور منافع کثیر ہونے لگے گا اور گھر کو اگر کسی نے باندھ دیا ہے تو وہ کھل جائے گا اور اگر جادو کر دیا ہے تو اس کا اثر بھی باطل ہو جائے گا اور جو لوگ اس گھر میں رہتے ہیں وہ بھی ہر قسم کی مہیبتوں سے، بندش، جادو وغیرہ سے بالکل محفوظ و مامون رہیں گے۔ اور کسی نے دکان کو باندھ دیا ہے تو وہ بھی اس کے لٹکانے سے کھل جائے گی۔ خواہ جادو کے ذریعے سے کیوں نہ باندھی ہو اور گھروالوں یا دکان والوں کے دشمن زیر ہوں گے۔

انشاء اللہ تعالیٰ جلد کام پورے ہوں گے۔ مجرب ہے پیر کے دن سورج نکلنے سے تیسرے گھنٹہ میں جمعہ کے دن سورج نکلنے سے پانچویں گھنٹہ میں اور جمعرات کو سورج نکلنے سے پہلے گھنٹہ میں اس کو لکھے اور اس شیشہ کے فریم کو وقتاً فوقتاً پندرہ دن یا مہینہ میں کپڑے سے صاف کرتا رہے اور نقش کو موٹے قلم سے لکھوائے تاکہ دور سے دکھائی دے۔

وہ نقش یہ ہے۔

يَا اَللّٰهُ	يَا رَحْمٰنُ	يَا اَلرَّحِيْمُ
يَا مَالِكُ	يَا رَزّٰقُ	يَا قَادِرُ
يَا رَزّٰقُ	قَدْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ	يَا رَزّٰقُ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ	يَا رَزّٰقُ	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
يَا رَزّٰقُ	اَللّٰهُ الصَّمَدُ	يَا رَزّٰقُ

دیگر

(ادکان کی ترقی کے لیے)

ترکیب ۱۔ اگر کسی کی دکان نہ چلتی ہو اور فائدہ کم ہوتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس مربع کو لکھ کر، موم جامہ کر کے کپڑے کا غلاف پڑھا کر اور ایک ڈور سے میں سی کر دکان کے اندر والی چوکھٹ پر کیں یا گو کا ٹھونک کر اس میں لٹکا دے۔ اس نقش کو مشتری کی ساعت میں لکھے۔ جہات کو سورج نکلنے سے پہلے گھنٹہ میں پیر کو سورج نکلنے سے تیس گھنٹہ میں جمعہ کو سورج نکلنے سے پانچویں گھنٹہ میں یہ ساعت ہوتی ہے۔

۷۸۶

فَاسْتَبْشِرُوا	بِطَلِيعِكُمْ	الَّذِي	بِأَيِّتُو بِهِ
۱۵۰	۷۴۳	۷۴۱	۵۲۰
۷۴۲	۵۲۹	۱۵۱	۷۴۳
۵۲۸	۷۴۹	۷۴۶	۱۵۲
۷۴۵	۱۵۲	۵۲۷	۷۴۰

چور

(کے لیے عمل)

ترکیب ۱۔ اگر کسی کا مال چوری ہو گیا ہو اور اس چور کا سراغ (پتہ) نہ ملے تو اس

دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنے سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ چور کون ہے یا جو مال چوری کیا گیا ہے وہ انشاء اللہ تعالیٰ واپس مل جائے گا۔ وہ دعائے مبارکہ یہ ہے یا چرانے والا خود اس کا مال اس کے گھر پر ڈال جائے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ یَا وَاسِعُ الْکُنْفِ وَیَا عَلٰی الشَّرْفِ
 یَحْرَمَةُ اَهْلَ الشَّرْفِ اَجْبِرْ عَلٰی مَا تَلَفَ یَحْرَمَةُ فَاطِمَةَ وَاَبْنِیَّهَا
 وَیَعْلِبَهَا وَاَبْنِیَّهَا یَا بِنْتِیْ اِنَّمَا اِنْ تَنْکِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ
 فَتَكُنْ فِیْ صَخْرَةٍ اَوْ فِی السَّمٰوٰتِ اَوْ فِی الْاَرْضِ یَا تُبٰرَکَ اَللّٰهُ
 اِنَّ اللّٰهَ لَطِیْفٌ خَبِیْرٌ ۝ وَلَوْ تَرٰی اِذْ فَرَعُوْا اَقْلَاقُوْتَ وَاُخِذُوْا
 مِنْ مَّکَانَ قَرِیْبٍ وَقَالُوْا اَمَّا بِیْہِ وَاَنْتَ لَہُمْ التَّنَاوُسُ
 مِنْ مَّکَانَ اَبْعِیْدِ ۙ اَللّٰهُمَّ اَجْبِرْ کَذَا وَاکْذِبْ یَسَّ وَالْقُرْاٰنِ
 الْحٰکِیْمِ وَصَّ وَالْقُرْاٰنِ ذِی الذِّکْرِ وَتَّ وَالْقُرْاٰنِ وَالرَّحْمٰنِ
 عَلَّمَ الْقُرْاٰنِ یَا عِبَادَ اللّٰهِ الصّٰلِحِیْنَ رُدُّوْا عَلٰی صَالِحِیْ بِرَحْمَتِکُمْ
 اللّٰهُ وَاَحْسِبُوْہَا اِلٰی اللّٰهُ لَا تُفْتِنِّیْ بِہَا وَلَا تُنْبَغِیْ بِطَلِبِہَا
 بِحَقِّ جِبْرِیْلِ وَمِیْکَائِیْلِ وَاِسْرَافِیْلِ وَعِزْرَ اَبِیْلِ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلٰی اللّٰهُ
 تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمْ تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا اَعَدَّ دَخْلِقَکَ وَرِضَاءَ نَفْسِکَ وَزِنَةَ
 عَرْشِکَ وَمِدَادَ کَلِمَتِکَ ۔

دیگر

(چور کے لیے)

ترکیب۔ اگر کوئی شخص اپنی دکان یا اپنے گھر کے اسباب میں اس دعا کو لکھ کر

گتے پر چسپاں کر کے لٹکا دے انشاء اللہ تعالیٰ سامان چوری سے محفوظ رہے
گا اور وہ دعا یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ یَا حَفِیْظُ لَا یَنْسِیْ وَیَا مَنْ نِعْمَ الرَّحْمٰنُ
تُحْصِیْ وَیَا مَنْ لَّهُ الْعُرْوَةُ الْوُثْقٰی وَیَا مَنْ لَّهُ الْعِزَّةُ وَالْثَنَاءُ وَ
لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی اِحْفَظْ کَذَا وَکَذَا اِیْمَا حَفِیْظْتَ اِیْمَا اَرَضْتَ
وَالسَّمَآءَ وَالْجَبَّآءُ تَطْهِّرُنِیْ فِی حِفْظِ ذٰلِکَ اِلٰی الْقِیٰوْمِ فَاِنَّکَ قُلْتَ
وَقَوْلُکَ الْحَقُّ اِنَّا نَحْنُ نَنْزِلُکَ الَّذِیْ کَرَّمْنَا لَهٗ لِحَافِظُوْنَ وَصَلٰی اللّٰهُ
تَعَالٰی عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمَ ۝

دیگر

(چور کے لیے)

ترکیب: اچوگرگ چوری میں مہتمم ہوں، یعنی جن لوگوں پر چوری کا شبہ ہو ان سب
کے نام الگ الگ پرپوں پر لکھیں اور ان پر چوں کی گپھوں کے آٹے میں جو گندھا ہوا
ہو گولیاں بنا لیں اور ان سب پر اول آخردرو شریف گیارہ گیارہ بار پڑھیں اور
اس کے بعد آیت الکرسی اور چاروں قل ایک ایک بار پڑھیں اور اس کے
بعد طشت میں پانی بھر کر اس میں وہ سب گولیاں ایک دم پانی میں ڈالی جائیں گی
چور کی گولی پانی میں غرق نہ ہوگی اور پانی پر تیرتی رہے گی۔

مغرب ہے۔

دیگر

(چور کے لیے)

ترکیب۔ اگر کسی کا مال چوری ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ سرسوں کے تیل کے چراغ کی سیاہی یا توڑے کی سیاہی لے کر اس کو تھوڑے سے سرسوں کے تیل میں ملا کر ایک نابالغ لڑکے، یا لڑکی کی ہتھیلی میں دونوں کو مل دے اور اس کے بعد سات دانے یا نو دانے ثابت اُرد کے یا جو کے لے کر ان میں سے ہر دانے پر ایک ایک باریہ عزیمت پڑھ کر ایک دانے کو اس لڑکے یا لڑکی کے مارتا جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ لڑکے یا لڑکی کے ہاتھوں پر چور کی شکل ظاہر ہو جائے گی۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ فَتَحُونَ فَتَحُونَ فَتَحُونَ فَتَحُونَ فَتَحُونَ فَتَحُونَ
 شَفِيعًا شَفِيعًا شَفِيعًا شَفِيعًا شَفِيعًا شَفِيعًا شَفِيعًا شَفِيعًا
 سُرُورًا قُدُورًا قُدُورًا قُدُورًا سَهْلًا سَهْلًا سَهْلًا سَهْلًا سَهْلًا سَهْلًا
 أَحْضَرُوا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ بِحَقِّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ
 عَلَيْهِمَا السَّلَامُ -

دیگر

(چور کے لیے)

ترکیب۔ اگر کسی شخص کا مال چوری ہو گیا ہو اور اس کا پتہ نہ لگتا ہو تو اس کو چاہیے

کہ ایک چوکر یعنی چار کونوں والی کیل لے کر اس کے ایک طرف یَسُّ وَالْقُرْآنُ اور
دوسری طرف الْقُرْآنُ اور تیسری طرف تَقِ وَالْقُرْآنُ اور چوتھی طرف حَمَّ عَسَقِ
هَذَا يَوْمَ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ - لکھ کر کیل کو
زمین میں گاڑ دے اور یہی کلمات جو کیل پر لکھے گئے ہیں پڑھا جائے پھر جن
جن پر شبہ ہو ان کو اس کیل پر کھرا کرے جو چور ہوگا اس کیل پر کھرا نہ ہوگا۔
انشاء اللہ تعالیٰ یہ معلوم ہو جائے گا کہ چور کون ہے۔

دیگر

(چور کے لیے)

ترکیب ۱۔ اگر کسی شخص کا مال چوری ہو گیا ہو اور پتہ نہ لگتا ہو تو اس کو چاہیے کہ جتنے
لوگوں پر اس کا شبہ ہے اتنے بزرگ ترین (ترینج کے پتے) لے کر ہر پتے پر یہ
آیت کریمہ لکھے اور اس آیت کے نیچے ہر اس شخص کا نام لکھتا جائے کہ جن جن
پر شبہ ہے اور پھر ان پتوں میں سے ایک ایک پتہ آگ میں ڈالتا جائے انشاء
اللہ ضرور چور کے پیٹ میں درد ہوگا وہ آیت مبارکہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا
اَیْدِیْہِمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۝

دیگر

(چور کے لیے)

ترکیب ۱۔ اگر کسی کا مال چوری ہو گیا ہو اور چور کا پتہ نہ چلتا ہو تو اس کو چاہیے کہ

مشگرف اتنی مقدار میں لے کہ ران پر ملنے کے بعد بچے نہیں اور اس مشگرف کو پانی میں بھگونے کے بعد اس پر دس مرتبہ درود شریف پڑھ کر دم کرے اور اسے اپنی ران پر ملے اس کے بعد استرہ لے اور استرہ پر چالیس مرتبہ ان اسماء کو پڑھ کر دم کرے اور استرہ سے اپنی ران کے بال مونڈے جب ایسا کرے گا تو چور کے سر کے بال منڈیں گے از عجائب است یہ عمل مشتبه لوگوں کے سامنے بٹھا کر کیا جائے وہ اسما بد کہ یہ ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ عَلَیْهِهٖ مَلِیْقَهٗ طَلِیْقَهٗ
تَلِیْقَهٗ بِحَقِّ كَاٰلِهٖٓ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ
وَ عَلٰی وَّلِیِّ اللّٰهِ ؕ

دیگر

(چور کے لیے)

ترکیب اگر کسی کا مال چوری ہو گیا ہو اور چور کا پتہ نہ چلتا ہو تو اس کو چاہیے کہ عروج ماہ نوچندی جمعرات سے اس عمل کو شروع کرے فجر کی نماز کے بعد اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف اور اس کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف، بسم اللہ شریف کی میم ملا کر پڑھے اور چالیس روز تک مسلسل پڑھتا رہے اس طرح یہ پڑھنے والے کے عمل میں آجائے گا اور جب چالیس روز مکمل ہو جائیں تو ہر روز پھر گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرے اس طرح اس کا عمل تازہ رہے گا۔ یہ درود برابر جاری رکھے جب اس

عمل کا عامل ہو جائے تو پھر یہ کرے کہ جن لوگوں پر خیر ہے ان سب کو بلا کر اپنے
 پاؤں بٹھائے اور ہر ایک کے حصے کے ایک ایک تولہ چاول سفید رنگ کے لے
 خواہ کچا باسنتی ہو یا سیلا اور ایک پاؤ کچا دودھ لے کر اس میں سب کو بھلو دے
 اور تین چار منٹ تک بھیکارہ بنے دے اور پھر ان کو نکالی کر ایک صاف و پاک
 کپڑے پر پھیلا کر خشک کرے اور جب خشک ہو جائیں تو ایک کائٹلے جس
 سے سونا اور دو اینٹوں میں تولی جاتی ہیں اور اس میں ایک ایرانی روپیہ چاندی کا پڑھ کر
 ہوا اس پر ایک طرف کلمہ شریف اور ایک طرف بادشاہ کا نام ہوتا ہے پورے ایک
 تولہ کا ہوا اس کو ایرانی لوگ فروخت کرتے پھرتے ہیں اس روپے پر ایک مرتبہ
 بسم اللہ شریف اور دس مرتبہ سورۃ فاتحہ اسی طریقے سے یعنی بسم اللہ کی ہم ملا
 کر پڑھے اور اس روپے پر دم کرے اس وقت تک یہ روپیہ کائٹلے میں پڑا
 رہنے دے جب تک یہ کام مکمل نہ ہو جائے اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں جن
 پر شبہ ہے ان کو ایک ایک تولہ چاول الگ الگ اس میں سے تولہ تول کر دینا
 جائے اور جہانے کو کہے پورے نہیں چھائے جائیں گے اور اگر چھائے تو
 تھوکنے پر خون کے رنگ کے نکلیں گے اگر وہ اس پر اور کرے کہ میرے سونے
 دکھ رہے ہیں یا میرے منہ میں پان تھا تو منہ صاف کرنا کہ جتنی مرتبہ چھائے گا
 اسی رنگ کے چاول نکلیں گے جرب المجرب ہے۔

شفقت عمل

(برائے جملہ حاجات)

ترکیب اس نقش کو لکھ کر بازو پر باندھے تمام حاجات کے لیے مجرب ہے۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۱۸۴۰	۱۲۴۸۹۱	۱۶
۱۱۲	۱۲۲۴۹۳۰	۳۶
۴۲۰	یا تباہیٹ اجب یا جبرائیل	۱۱۳

رَبِّكَ نَعْبُدُ وَرَبَّكَ نَسْتَعِينُ

دیگر

(برائے درد)

عمل سورۃ الفاتحہ، ساگر بدن میں درد ہوتا ہے طشتری میں معہ بسم اللہ کے سورۃ فاتحہ لکھے۔ بعدہ تل کا تیل طشتری میں ڈالے تل کے تیل پر ستر بار سورۃ الفاتحہ پڑھے اس کے بعد تیل کو شیشی میں بھر کر محفوظ رکھے۔

اور درد کی جگہ پر مالش کرے۔

انشاء اللہ تعالیٰ بحکم خدا درد و رفع ہو جائے گا مجرب ہے۔

دیگر

(برائے سخت مشکل و بیماری) :

ترکیب :- اگر کسی شخص کو کوئی سخت حاجت درپیش ہے۔ اور وہ اس میں سخت پریشان ہو تو اس کو چاہیے کہ اس نقش مبارک کو اس طریقے سے جو آگے آ رہا ہے عمل میں لائے کہ سورج صاۓ نوچندی آوار کو صبح کے وقت چار بجے غسل کریں اور کم از کم پانچ گزیہا سو پانچ گزیہا احرام لٹھے کالے کر باندھیں اور اول آخر ۱۱ مرتبہ درود شریف اور ۷۸۶ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اس نقش مبارک کو سیاہی سے لکھے۔ ۲۱ بار یعنی ۲۱ نقش اور پھر ان کی آٹے کی گولیاں بنا کر دریا میں ڈالے، سورج نکلنے سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی سورج چھپنے سے پہلے پہلے چاہے جس وقت ڈال آئے اور جب اکیس روز پورے ہو جائیں تو پھر بسم اللہ شریف کو اول آخر بسم اللہ شریف کو پڑھ لیا کریں، اور یہ نحویز جو لکھ کر آٹے کی گولیاں بنا کر دریا میں ڈالے جائیں گے، انار کی لکڑی کا قلم ہو نقش لکھنے کے وقت ایک خاص جگہ مقرر کر لی جائے گی اور اسی جگہ روزانہ بیٹھ کر یہ نقش لکھے جائیں گے، جب اس کا عامل ہو جائے یعنی اکیس روز پورے ہو جائیں تب اگر اپنی سخت مشکل کے لیے یہ عمل کرے گا تو اس طرح پر کرنا چاہیے نوچندی آوار علی الصبح چار بجے غسل کرے احرام باندھے اور یہ نقش اسی طریقے سے لکھے اور اس نقش کو

اپنے سامنے رکھ لے اور اول آخگر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف اور ۷۸۶ مرتبہ
بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے دلی مقصد کے لیے دعا مانگیں درگاہ قاضی الحاجات
میں اور جب دعا مانگ چکے تو تعویذ کو لپیٹ کر موم جامہ کر کے عطر وغیرہ لگا کر کسی
ڈبیر میں رکھ کر اپنی جیب میں رکھیں اور باطہارت بہر وقت رہیں اور وضو بیت
ہی اچھا ہے سات یوم اس عمل کو کریں جیسے پہلے دن کیا تھا یہی عمل ڈبیر میں
سے تعویذ نکال کر سامنے رکھ کر ہر روز کیا جائے اور پھر اس کو اپنے پاس رکھا
رہنے دے۔

انشاء اللہ تعالیٰ دلی مقصد پورا ہوگا اور اگر کوئی بیمار ہے تو نیا نقش
لکھ کر سات یوم اس نقش کو گھول کر بلائیں بیمار اچھا ہو جائے گا اور جو شخص
خلاف یا ناراض ہو تو سات یوم پلانے سے عمر بھر وفاداری کا جذبہ پیدا ہو جائے
گا۔ عمر بھر وفادار اور غلام رہے گا۔

پڑھینا۔ جس روز سے یہ عمل شروع کریں ترک حیوانات جلالی و جمالی کریں۔
یعنی گوشت انڈا، مچھلی پیاز دودھ گھی گڑ تیل وغیرہ صرف نمک کی روٹی اہلی ہوئی
دال چنے کی اور اہلی ہوئی ترکاریوں، مٹھاس اور مچھل وغیرہ استعمال کر سکتا ہے اور
اس دوران عمل شرح کے خلاف کوئی بات نہ ہونے سے اور دال کوری ہانڈی
لے کر اس میں پکائے اور پانی اپنے استعمال کا خود لائے (نوٹ) نقش بھرنے
کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کاغذ کے اوپر کی طرف بسم اللہ شریف کا نقش بھرے اور
پھر اس نقش کی پشت پر بالکل اس طرح اس نقش کو بھرنا شروع کرے یعنی
جس خانے میں بسم اللہ لکھی ہے اسی طرح میں پشت کی طرف ۱۸۹ ہوگا اور

بالترتیب ۴، ۲، ۱ تک ختم کریں مجرب الجرب ہے نہ وہ نقش مکرم یہ ہے

۱	۱۱	۱۲	۱۳
۲	۱۲	۱۳	۱۴
۳	۱۳	۱۴	۱۵
۴	۱۴	۱۵	۱۶

۱۸۹	۱۹۹	۲۰۴	۱۹۶
۲۰۰	۱۹۰	۱۹۵	۲۰۱
۱۹۳	۲۰۳	۱۹۷	۱۹۱
۲۰۲	۱۹۳	۱۹۲	۱۹۸

دیگر

(برائے حاجت)

ترکیب ۱۔ ہر حاجت کے واسطے یہ نقش معنی کا موم جامہ کر کے بازو پر باندھے جو حاجت رکھتا ہوگا اللہ تعالیٰ پوری ہوگی۔ مجرب ہے۔

۲۸۲	۲۸۵	۲۸۹	۲۶۵
۲۸۸	۲۶۶	۲۸۱	۲۸۶
۲۶۷	۲۹۱	۲۸۲	۲۸۰
۲۸۳	۲۶۹	۲۶۸	۲۹۰

دیگر

(برائے ہر کام)

ترکیب ۱۔ یہ نقش حزب اللہ کا ہے ہر کام کے واسطے بے حد مجرب ہے
 اور آزمودہ ہے لکہ کر بازو پر باندھے نقش یہ ہے۔

۲۱۴۰۷	۲۱۴۰۵	۲۱۴۰۹	۲۱۴۹۵
۲۱۴۰۸	۲۱۴۹۶	۲۱۴۰۱	۲۱۴۰۶
۲۱۴۹۷	۲۱۴۱۱	۲۱۴۰۳	۲۱۴۰۰
۲۱۴۰۴	۲۱۴۹۹	۲۱۴۹۸	۲۱۴۱۰

دیگر

(برائے ہر مقصد)

ترکیب ۱۔ ہر مقصد کے لیے یہ نقش اللہ العزیز کا ہے لکہ کر بازو پر باندھے
 مجرب ہے۔

۵۷	۶۰	۶۳	۵۰
۶۳	۵۱	۵۶	۶۱
۵۲	۶۶	۵۸	۵۵
۵۹	۵۴	۵۳	۶۵

دیگر

(بدائے پیش و ہر کام)

ترکیب اہر کام کے واسطے مجرب ہے۔ مریض کو اگر پیش ہو تو اس کو
تین نقش روزانہ لکھ کر پلاٹے کاغذ کو بھی نکل جائے۔
نقش یہ ہے۔

۶	۱	۷	۸
۷	۵	۳	
۲	۹	۲	

دیگر

(بدائے ہر دفع مہمات)

ترکیب اریاخی یا قیوم: اگر بعد تکبیر دو ہزار ^{۲۱۲۳} ایک سو بائیس مرتبہ سات روز تک
برابر پڑھے اور ایک ہی جلسے میں، تمام لہجات آسان ہو جائیں گی اور اگر بیماری
جسم کی شکایت ہے تو اس حالت میں بھی فائدہ بخش ہے اور اگر باغ میں
پھل نہ آتے ہوں تو اس اسم کے پڑھنے سے باغ میں خوب پھل آئیں
گے اور جملہ آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر کسی کا دل
پریشان و مضطرب رہتا ہو تو بعد تکبیر ۵۸۴ مرتبہ پڑھنے سے دل کی پریشانی

اور اضطراب جاتا رہے گا۔ اور جمعیت خاطر حاصل ہو جائے گی اور اس دعا کو انتہائی تنگی و پریشانی کی حالت میں پڑھنا چاہیے اس دعا کو پڑھنے والا صاحب جمعیت ہو جائے گا اور پھر دوسری بار افلاس کی حالت نہ ہوگی۔

دیگر

(برائے فتوحات)

ترکیب یہ جو شخص چاہے کہ اسے دستِ غیب حاصل ہو تو اس کو لازم ہے کہ عروجِ ماہِ نو چندی جمعرات سے اس عمل کو شروع کرے اور چالیس روز تک برابر پڑھتا رہے انشاء اللہ تعالیٰ دستِ غیب حاصل ہوگا وہ اسم مبارک یہ ہے۔

یا مُنْعِمُ

ہر روز دو سو گیارہ بار پڑھا جائے گا مجرب ہے، اس کے اول و آخر لا، ا بار درود شریف پڑھنا بہت ضروری ہے، دستِ غیب سے مراد ہے جو کام شروع کیا جائے گا قدرتی اسباب پیدا ہوں گے۔

دیگر

(برائے دفع تنگی و پریشانی)

ترکیب: مگر کوئی شخص اپنے زرق کیلئے تنگ ہو یعنی معاش کی تنگی اور پریشانی میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ تہجد کی رکعتیں پڑھنے کے بعد اس اسم مبارک

یا غنی یا مغبنی کو دو سو بیالیس بار پڑھے اور اقل آٹھ گیارہ بار درود شریف
پڑھے اگر تہجد کے وقت کا اہتمام نہ ہو سکے تو جبوری میں نماز عشاء پڑھے رزق
کی تنگی و پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے اور انشاء اللہ تعالیٰ غنی تو بگڑا ہو جائیگا
ایک چل تک برابر پڑھے اس کو سورج ماہ نو چندی جمرات نے شروع کرے۔

دیگر

(برائے ہر کام)

ترکیب ایہ نقش بھی حزب العبر کا ہے ہر کام کے واسطے مجرب ہے اور بیمار
کیلیے بھی بہت ہی اکیسر ثابت ہوا ہے اس نقش مکرم کو لکھ کر موم جامہ کر کے
بازو پر باندھے انشاء اللہ تعالیٰ ہر کام پورا ہو گا اور اگر بیمار کو دینا ہے تو معنی کی
فستری پر یا کاغذ پر لکھ کر گھل کر پلائیں اگر کاغذ پر لکھا ہے تو پہلے کاغذ کو نکل کر اوپر
سے پانی دھوئے ہوئے نقش کا پی لیں اور اگر کسی کو نظر بد یا جنات و شیاطین کا
اثر ہو گیا ہے تو اس نقش کو لکھ کر اس کا نقیہ بنا کر ایک گڑھی یا پیالہ میں آگ رکھ
کر اس نقیہ کا سران انگاروں پر رکھے اور مرین کو چادر یا دوپٹہ اوڑھ کر بٹھا دے
اور اس کی دھونی لے۔ انشاء اللہ تعالیٰ وہ اثر یا نظر بد باطل ہو جائے گا قرب
بے وہ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۲۱۶۸۲	۲۱۶۸۵	۲۱۶۸۸	۲۱۶۹۵
۲۱۶۸۷	۲۱۶۹۲	۲۱۶۹۶	۲۱۶۹۹
۲۱۶۹۱	۲۱۶۹۴	۲۱۶۹۷	۲۱۷۰۰
۲۱۶۹۳	۲۱۶۹۹	۲۱۷۰۸	۲۱۷۱۹

کلی اعداد ۱۶۸۶۳

دیگر

(برائے دفعِ حُبِّ مخلوق)

ترکیب: جس شخص پر مخلوق کی محبت غالب ہو تو اس کو چاہیے کہ کسی پاک فشتری پر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو لکھے جن میں حرفِ یاء (ی) ہو جیسے کَرِيمٌ، رَحِيمٌ، حَفِيظٌ اور مثل ان کے جن ناموں میں (ی) ہو پھر زبان سے اس فشتری کو چائے انشاء اللہ تعالیٰ اس کے دل سے مخلوق کی محبت جاتی رہے گی فشتری کو لکھ کر تہار متہ چائے اور جب تک چائے تازہ رہے جب تک اس کے دل میں محبت کا جذبہ باقی رہے چائے وقت یہ نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ میرے دل سے محبت دنیا جاتی رہے۔

دیگر

(عمل برائے توفیقِ طاعت)

ترکیب: جو شخص اس دعا کو یا وودود محمد رسول اللہ کو سفید ریشمی کپڑے کے ٹکڑے میں لکھ کر اپنے پاس رکھے اور موم جامہ کر کے اس ٹکڑے کو غلے میں بسائے تو اللہ تعالیٰ عبارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا نیز شیاطین کے مکر و فریب سے بچائے گا اور لوگوں کے قلوب میں اس کی ہیبت ڈالے گا اس عمل کو جمعہ کی نماز کے بعد اسی مقام پر بیٹھ کر کیا جائے گا۔

انشاء اللہ تعالیٰ عبارت کی توفیق عطا ہوگی۔ مجرب ہے اور اسباب

رزق میں آسانی اور سہولت ہوگی۔

دیگر

(برائے حاجت)

ترکیب ۱۔ یہ دونوں نقش مربع و مثلث یا قیوم کے ہیں ہر حاجت کے لیے کارآمد ہیں مشک و زعفران سے با وضو لکھ کر بازو پر باندھے مثلث کام میں لائے یا مربع دونوں میں سے کوئی ساٹے کر تجربہ کر لے مفید ثابت ہوگا۔ وہ دونوں نقش یہ ہیں۔

(یہ نقش مربع ہے) ۷۸۶

۳۸	۴۲	۴۵	۴۱
۴۴	۳۲	۴۶	۴۳
۴۳	۴۶	۴۰	۴۶
۴۱	۴۵	۴۴	۴۶

(یہ نقش مثلث ہے) ۷۸۶

۵۳	۴۸	۵۵
۵۴	۵۲	۵۰
۴۹	۵۶	۵۱

دیگر

(برائے حاجت)

ترکیب :- یہ نقش مکرم :-
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ قَاهِي الْحَاجَاتِ
 کا ہے ہر حاجت کے لیے برب ہے۔

۷۸۶

۴۱۷	۴۲۱	۴۲۴	۴۱۰
۴۲۳	۴۱۱	۴۱۶	۴۲۲
۴۱۲	۴۲۶	۴۱۹	۴۱۵
۴۲۰	۴۱۴	۴۱۳	۴۲۵

دیگر

(برائے سختی و دشواری)

ترکیب :- یہ نقش معظم آیت کریمہ :-
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
 کا ہے ہر سختی و دشواری کے لیے اکسیر ہے۔
 (نقش اگلے صفحہ پر دیکھیے)

نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۵۹۳	۵۹۶	۵۹۹	۵۸۶
۵۹۸	۵۸۷	۵۹۲	۵۹۷
۵۸۸	۶۰۱	۵۹۴	۵۹۱
۵۹۵	۵۹۰	۵۸۹	۶۰۰

دیگر

(برائے ہر دکہ درواور پریشانی)

ترکیب: یہ نقش مبارک یا مالک کا ہے ہر دکہ درواور پریشانی کو دور کرتا ہے
اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاء اللہ تعالیٰ کارآمد ہوگا۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۳۱	۲۶	۳۳
۳۲	۳۰	۲۸
۲۷	۳۴	۲۹

دیگر

(برائے حاجت)

ترکیب: جس شخص کو کسی قسم کی حاجت درپیش ہو اور لوگوں میں عزت و توقیر

چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس عبارت کو ۲، ۳ بار روزانہ بوقت صبح بعد نماز فجر و روزانو
 بیٹھ کر دو گدستہ سامنے لاکر رکھو یا خوشبودار مہلوں کے دو ہار رکھ لو اور حرام ہاندھ کر
 جو کہ خوشبو میں معطر ہو بعد روئی گئی باریک بینی بنا کر اور پنبیلی کاتیل چراغ میں ڈال
 کر روشن کرے پھر یہ عمل پڑھے جو حاجت ہو دعا کے وقت خدا سے طلب کرے
 اور اس طرح گیارہ روز پورا کرے انشاء اللہ تعالیٰ اس کی دعا بہت جلد قبول ہوگی
 اس عمل کو عروج ماہ نو چندی حجرات سے شروع کرے مجرب ہے۔

وہ عبارت یہ ہے۔

يَا عَزِيزُ عَزِّرْنِي فِي اَعْيُنِ النَّاسِ

دیگر

(نقش برائے امساک)

ترکیب :- اس نقش مکرم کو لکھ کر موم کے اندر گولی بنا کر ضرورت کے وقت زبان
 کے نیچے رکھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ جب تک گولی منہ میں رہے گی امساک رہے
 گا۔ اس نقش کو سوائے رُحل اور مریخ کی ساعتوں کے ہر ساعت میں لکھ
 سکتا ہے۔ وہ نقش مکرم یہ ہے :-

۷۸۶

ز	و ح غ	ع ح	ا
و د	ی	و	م
ا	و	م	ح ح
و	و	ح	س

دیگر

(برائے احتلام)

ترکیب: اگر کسی شخص کو بہت زیادہ احتلام ہوتا ہو تو اس کو چاہیے کہ سوتے وقت اپنے سینے پر شہادت کی انگلی سے

(عُزْرُو)

لکھ کر اور جس وقت آنکھ کھل جائے تو پھر اسی طرح سینے پر عُزْرُو لکھ لے۔ سو جائے غرض جتنی دفعہ سوتے سوتے آنکھ کھل جائے ہر دفعہ انگلی سے سینے پر عُزْرُو لکھ لے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہرگز احتلام نہ ہوگا۔

دیگر

(برائے امساک)

ترکیب: اس نقش کو لکھ کر حاجت کے وقت سر اپنی زبان کے نیچے رکھے یا دھجی میں پیٹ کر موم جامہ کر کے اپنی کمر میں باندھے اور زبان کے نیچے رکھا جانے والا نقش بھی موم جامہ کر کے رکھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ امساک ہوگا جو بھروسہ ہے۔ وہ نقش مکرم یہ ہے۔

۷۸۶

و	ن	ن	ما
ما	د	د	ص
س	و	ی	ع
م	ن	ھ	ع

دیگر

برائے نامردی یعنی جماع پر قادر نہ ہونے کیلئے
 ترکیب: جو شخص جماع پر قادر نہ ہوتا ہو خواہ اس کو کسی نے باندھ دیا ہو یا مرد
 ہو تو اس کو چاہیے کہ تین روز تک بالترتیب اس عبارت کو کاغذ کے ٹکڑوں پر
 لکھ دے اور اس کو دھو کر کاغذ کو نکل لے اور اوپر سے دھویا ہو پانی پی لے یا چینی
 کی طشتری پر گلاب اور زعفران سے لکھ کر نہار منہ چاٹ لے انشاء اللہ تعالیٰ
 عورت پر قادر ہوگا۔

پہلے روز یہ لکھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ كَهَيْعَتِمْ يَا حَسْبِي يَا قِيَوْمُ
 وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ اَجْمَعِيْنَ اَللّٰهُمَّ
 بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالحُسَيْنِ وَالحُسَيْنِ اَنْ
 تُعَافِيَنِي مِنَ الْعِنَةِ وَتَقْدِرِنِيْ عَلٰى الْجَمَاعِ الْمَلِيْلَةِ
 وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ اَجْمَعِيْنَ ۞

دوسرے روز یہ لکھے۔

حَمَّعَسَقِ يَا صَمَدُ يَا رُدِّيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ لَا اِلٰهَ
 اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ اَنْ تُعَافِيَنِي
 مِنَ الْعِنَةِ وَتَقْدِرِنِيْ عَلٰى الْجَمَاعِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ اَجْمَعِيْنَ ۞

تیسرے روز یہ لکھے۔

كَلِّعَصْنَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا اَحَدُ يَا فَرْدُ اَنْ تُعَافِيَنِي مِنْ
 الْعِنَّةِ وَتَقْدِرُنِي عَلَى الْجَمَاعِ وَمَلَى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى
 مُحَمَّدًا وَاٰلِهِ اَجْمَعِيْنَ ط

اس عبارت کو بدھ حجرات یا جمعہ کو لکھ لیکن مشتری کی ساعت میں لکھنا چاہیے
 بدھ کے روز سورج نکلنے کے بعد سے چوتھا گھنٹہ حجرات کو سورج نکلنے
 سے پہلا گھنٹہ جمعہ کو سورج نکلنے سے پانچواں گھنٹہ نہایت مجرب ہے۔

دیگر

(برائے مسان)

ترکیب :- اگر کسی بچے کو مسان کی شکایت ہو یعنی سوکھے کی بیماری ہو گئی ہو
 تو اس کو چاہیے کہ چہل کاف کا نقش مکرم لکھ کر اس تخوید کو لوبان کی دھونی دے
 کر موم جامہ کر کے اس بچے کے گلے میں ڈالے

انشاء اللہ تعالیٰ اس چہل کاف کے نقش مکرم کی برکت سے بچے کے
 مسان کی شکایت دور ہو جائے گی اور موٹا تازہ فریبہ ہوتا چلا جائے گا۔
 وہ نقش مکرم یہ ہے۔

۷۸۶

۳۹۰۹	۳۹-۳	۳۹۱۱
۳۹۱۰	۳۹-۸	۳۹-۶
۳۹-۵	۳۹۱۲	۳۹-۷

دیگر

(دشمن پر غالب ہونے کیلئے)
 ترکیب: جو شخص موم جامہ کر کے اس نقش کو اپنے بازو پر باندھے گا، انشاء
 اللہ تعالیٰ وہ دشمنوں پر کامیابی حاصل کرے گا اور اس کے دشمن ذلیل و خوار
 ہوں گے
 وہ نقش مکرم یہ ہے۔

۷۸۶

یا عزیزو

۳۲	۲۷	۳۵
۳۲	۳۱	۲۹
۲۸	۳۶	۳۰

دیگر

(برائے باندھنے عورت اور مرد کے)
 ترکیب: یہ نقش مکرم مرد اور عورت کے واسطے ہے مرد کے باندھنے کے لیے
 اگر یہ نقش دے تو یہ عبارت نقش کے نیچے لکھے۔
 بِسْمِ ذِکْرِ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ بِرَفْرَجِ فُلَانِ بِنْتِ فُلَانِ
 اور اگر عورت کے باندھنے کے لکھے تو یوں لکھے۔

بِسْمِ رَبِّكَ فَارْجُ فَلَانَةَ بِنْتِ فَلَاحَةَ بِرَدِّكَ فَلَاحُ بْنُ فَلَاحٍ

بِحَقِّ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْأَعْظَمِ

۷۸۶

۲۸۲	۲۹۷	۲۹۳	۲۸۳
۲۸۸	۲۹۰	۲۹۳	۲۸۷
۲۹۲	۲۸۶	۲۸۹	۲۹۱
۲۹۵	۲۸۴	۲۸۱	۲۹۶

تائمت سے نقش کو
باندھ کر پانی کی جگہ
دفن کر دے۔
وہ نقش یہ ہے

دیگر

ایسے ملنے ملازمت و دور ہونے بے کاری
ترکیب :- اگر کوئی شخص بے کار ہو اور اسے ملازمت نہ ملتی ہو تو اس نقش
کو مشک و زعفران سے لکھ کر موم جامہ کے اپنے سیدھے بازو پر باندھے۔
اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ
یہ نقش مکرم اس آیت مبارکہ کا ہے اور نقش مکرم یہ ہے۔

۷۸۶

۳۲۱	۳۲۴	۳۲۸	۳۱۴
۳۲۷	۳۱۵	۳۲۰	۳۲۵
۳۱۶	۳۳۰	۳۲۲	۳۱۹
۳۲۳	۳۱۸	۳۱۷	۳۲۹

دیگر

(برائے حاجت براری)

ترکیب: یہ دونوں نقش مربع و مثلث تاضی الحاجات کے ہیں۔ ہر حاجت براری کے لیے مجرب و آزمودہ ہیں ان کو زعفران و گلاب سے لکھ کر موم جامہ کر کے بازو پر باندھے۔ ان دونوں نقشوں میں سے جس کو دل چاہے استعمال کرے۔ مربع استعمال کرے یا مثلث والے کا اختیار ہے انشاء اللہ تعالیٰ نائز المرام ہوگا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔
وہ نقش مکرم یہ ہیں۔

(مربع)

۷۸۶

۳۲۱	۳۲۲	۳۲۶	۳۲۲
۳۲۶	۳۳۵	۳۲۰	۳۲۵
۳۲۶	۳۲۹	۳۲۲	۳۲۹
۳۲۳	۳۳۸	۳۳۶	۳۲۸

(مثلث)

۷۸۶

۲۵۶	۲۵۱	۲۵۹
۲۵۸	۲۵۵	۲۵۳
۲۵۲	۲۶۰	۲۵۲

دیگر

(برائے ڈرنے یا چونکنے سوتے وقت بچوں کے)
 ترکیب: یہ نقش معظم یا حَفِیظ کا ہے ہر حاجت کے لیے مجرب ہے
 خصوصاً ان بچوں کے لیے جو رات کو سوتے سوتے چونکتے ہوں یا ڈرتے
 ہوں بے حد مفید ہے اس نقش کو لکھ کر موم جامہ کر کے گلے میں ڈالے
 جو بچہ کہ ڈرتا ہو اور جو شخص حاجت مند ہو وہ لکھ کر موم جامہ کر کے بازو پر
 باندھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مقاصد میں کامیابی ہوگی۔

۷۸۶

۲۲۹	۲۵۲	۲۵۵	۲۲۲
۲۵۲	۲۲۳	۲۲۸	۲۵۳
۲۲۳	۲۵۶	۲۵۰	۲۲۶
۲۵۱	۲۲۶	۲۲۵	۲۵۶

دیگر

(برائے مسان)

ترکیب: یہ معظم نقش ان بچوں کے لیے کہ جن کو سوکھے کی بیماری ہو بے حد
 مفید ہے اس نقش کو لکھ کر موم جامہ کر کے بچے کے گلے میں ڈالے۔

انشاد اللہ تعالیٰ بچہ فریب اور موٹا تازہ ہو جائے گا۔ مجرب ہے۔
وہ نقش مکرم یہ ہے۔

۸	۱۱	۶۲۴۷	۱
۶۲۴۶	۲	۷	۱۲
۳	۶۲۴۹	۹	۶
۱۰	۵	۴	۶۲۴۸

دیگر

(اسیب والے کے لیے)

ترکیب: جس شخص کو آسیب کا اثر ہو تو اس کو چاہیے کہ اس نقش کو لکھ کر فتیلہ بنا کر کورا چراغ لے کر جس میں پانی نہ لگا ہو سرسوں کا خالص تیل ڈال کر اس فتیلہ کو بغیر روئی یا کپڑا پیٹے تیل میں بجھو کر روشن کرے۔ یہ چراغ مریض کی چارپائی کے سرہانے اس طرح روشن کرے۔ کہ چراغ کی اونچائی مریض کی چارپائی کے سرہانے کی اونچائی کے برابر رہے گی۔ اور مریض عورت ہو یا مرد تمام ضروریات سے فارغ ہو کر لیٹے گا کہ فتیلہ روشن کرنے کے بعد پھر صبح تک اسی چارپائی پر لیٹا رہے گا۔ وہاں سے اٹھے گا نہیں اور جو شخص مریض کے سرہانے فتیلہ روشن کرے گا۔ وہ چراغ کی روشنی پر نظر رکھے گا کہ ہرے رنگ کی سیاہی سرخ رنگ کی ہے یا اس کی روشنی کس رنگ کی ہوتی ہے اور وہ

بیٹھا بیٹھا فتیلہ کو ضرورت کے وقت کسی تنکے سے یا دیاسلانی کی کاڑھی سے اوپر سرکاتا رہے۔ چراغ میں تیل بھر کر رکھے اور اگر وہ بجھ جائے تو اس کو فوراً روشن کر دے اور خیال رکھے کہ کتنی مرتبہ بجھا اور جب وہ فتیلہ جل کر ختم ہو جائے، تو اس چراغ کو بحفاظت کسی اونچی جگہ پر رکھ دے اور پھر اگلے روز اسی طرح اس نقش کو جلانے غرض یہ ہے کہ اسی طرح تین روز مسلسل کرے اور ایسا ہی کیا جاسکتا ہے کہ ایک دن چھوڑ کر روشن کرے اس فتیلہ کو اس وقت روشن کرے کہ جب گہر کے سب آدمی سو گئے ہوں اور فتیلہ روشن کرتے وقت گھڑی کا دیکھ لینا بھی بڑا ضروری ہے۔ جس وقت پہلے دن روشن کیا تھا۔ دوسرے روز بھی ٹھیک اسی وقت روشن کرے جب نقش کا فتیلہ بنانے لگے تو جس کو نے پر ۶ کا ہندسہ لکھا ہے اس طرف سے نقش موڑنا شروع کرے اور ۸ کا ہندسہ اوپر کی طرف رہے اور اس طرف سیاہی کا نشان لگادیں اس نقش کو منگل کے دن مشتری یا زہرہ کی ساعت میں لکھے اور جب دن ختم ہو کر بدھ کی شب آئے تب اس میں شروع کرے اور یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ پہلے دن چراغ کتنی دیر تک روشن رہا اور دوسرے اور تیسرے دن کتنی کتنی دیر روشن رہا مریض کو فتیلہ روشن ہوتے وقت چت لیٹا رہنا چاہیے اور اشہد بھوری میں کوٹ بھی بدل سکتا ہے۔ مجرب المجرّب ہے۔ وہ نقش مکرم یہ ہے۔

۷۸۶

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

فرعون قارون هامان ثمود نمرود ابلیس علیہ
اللعنة واتباع ایشان اگر نگریزند سوختہ شوتند

دیگر

(ہر مقصد کی کامیابی کے لیے)

ترکیب ۱۔ یہ دونوں نقش سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ الرَّحِيمِ کے ہیں۔
ہر مقصد کی کامیابی کے لیے مجرب اور کسیر ہے۔ دونوں میں سے جس کو دل
چاہے استعمال کرے مریح استعمال کرے یا مشدث۔
انشاء اللہ مقصد میں کامیاب ہوگا۔

۷۸۶

(مریح)

۲۰۴	۲۰۷	۲۱۰	۱۹۷
۲۰۹	۱۹۸	۲۰۳	۲۰۸
۱۹۹	۲۱۲	۲۰۵	۲۰۲
۲۰۶	۲۰۱	۲۰۰	۲۱۱

۷۸۶

(مشدث)

مِّن	قَوْلًا	سَلَامٌ
رَّبِّ	مِّن	قَوْلًا
الرَّحِيمِ	رَّبِّ	مِّن

دیگر

(بچوں کی دھونی کے لیے)

ترکیب: جو پکے روتے بہت بہوں اور ان کو کسی قسم کی تکلیف کان کا درد یا موڑھا
 اترتا وغیرہ ہو اگر نظر لگ گئی ہو تو اس کا قنید بنا کر اس کی دھونی پچھے کو دی
 جائے انشاء اللہ تعالیٰ نظر کا اثر بھی جاتا رہے گا، اور روزا بھی بند ہو جائے گا۔

۲۸۹۳۰ طح

دیگر

(بچوں کی دھونی کے لیے)

ترکیب: مذکورہ بالا عمل کی طرح یہ بھی ہے اسی طرح عمل میں لائے۔

حصہ مخدور ہامان فدعون شدا و ۱۲ ۹ ۷۸۸ ۷۷ ۷۷ ۷۷

دیگر

(بمراۃ حاجت)

ترکیب: یہ نقش مبارک یا خنی کا ہے، ہر حاجت کے لیے مجرب ہے
 با وضو لکھ کر بازو پر باندھے انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد کامیاب ہوگا۔

يَا حَيُّ

۷	۲	۹
۸	۶	۴
۳	۱۰	۵

دیگر

(برائے فتوحات)

ترکیب: جو شخص اللہ کے حکم سے فقر اور مفلسی کو دور کرنا چاہیے تو سب سے پہلے وہ تقویٰ اور طہارت اختیار کرے اور منہیات کو ترک کرے اور اکل حلال کی کوشش کرے تاکہ خدا تعالیٰ کی مرضیات کو حاصل کرے۔ اور دنیا کی اذیتوں پر صبر کرے اور سفید کپڑے پہنے اور عامہ ریاضہ ہو پھر جمعرات کو روزہ رکھے اور سرخ کھجور یا سرخ کشمش سے انظار کرے۔ اور دو رکعت نماز عشاء کے بعد ادا کرے اس کے بعد سورۃ کہف کی تلاوت کرے۔ اور قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھے۔ دس ہزار مرتبہ۔

يَا لَطِيفُ يَا حَيُّ اَلَا لَطَافِ اَذْرِ كُنِي بِلُطْفِكَ الْخَفِيِّ

الَّذِي مِنْ لُطْفَتِ بِهٖ كَفِي

پھر موکل انسانی صورت میں اس ہیئت سے حاضر ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور اس کا لباس سفید ہوگا اور وہ عامل سے کہے گا کہ تیری کیا

حاجت ہے اور اس سے کچھ خوف نہ کرے پس وہ تجھ کو کچھ نقدی دے گا اور یہ شرط ٹھہرائے گا کہ اس نقدی سے مناسب اشیاء خریدنا اور صدقہ بھی کرنا تو یہ کہنا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف میری اور تیری دوستی ہو جائے۔ اس کے بعد وہ تجھے ایک پتھر سیاہ دے گا جس وقت اس کو بلانے کی تجھے ضرورت ہو تو اس پتھر کو آگ میں ڈالنا پس وہ حاضر ہوگا جب اس کو رخصت کرنے کو اس دعا کو پڑھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي تَبَرَّأْتُ مِنْ حَوْلِي وَقُوَّتِي وَالْقَيْتُ
بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ فَأَرِنِي بَعَائِبَ مَنْعِ لُطْفِكَ بِرَحْمَتِكَ
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

دیگر

(عمل برائے نکاح مجرب ہے)

ترکیب: مکھ موہنی برمال جال وہی جگادے سر کو کال۔ آگاسی تھاکی چندے چاہے
تھاکی پلا دو پاؤں تلے پڑجا۔ آسوئی ہمیں تمہیں ایک کھاٹ بیٹھنا لاکھ موہنی ٹھاہی
کرے سلام جاری، جاری، جاری۔ رو برو چراغ جس میں کہ تیل چنبیلی یا
خالص گھی جس میں تھوڑی سی کچی کھانڈ ڈالی جائے اور چراغ روشن کرے
مع دھونی لوبان عطر موتیا قسم اول تعداد ۱۰۰ مرتبہ بخواند۔ اس کا دن نوچندی
ہفتہ یا آوار کو کرے۔ حرام کے لیے نہ کرے۔ ورنہ پچھتائے گا عشاؤ کے
بعد کرے اور بعد میں اس لڑکی کا نام اس کی والدہ کا نام یا والدین راضی نہ ہوں

توان دونوں کا نام لے انشاء اللہ ضرور کامیاب ہوگا۔

دیگر

(بولنے رعشہ بدن مجرب است)

ترکیب: جو شخص رعشہ کے مرض میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ نقش کو لکھ کر اکثر و بیشتر وقتاً فوقتاً دیکھا کرے، انشاء اللہ تعالیٰ اس کے بدن سے رعشہ دور ہو جائے گا اور صحت ہوگی مجرب ہے۔

۳۲۲	۳۲۸	۳۳۱	۳۱۷
۳۳۰	۳۱۸	۳۲۳	۳۲۹
۳۱۹	۳۳۳	۳۲۶	۳۲۲
۳۲۷	۳۲۱	۳۲۰	۳۳۲

دیگر

(بھاگے ہوئے کے لیے)

ترکیب: جو شخص بھاگ گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس نقش کو مشتری یا زہرہ کی ساعت میں لکھے اور چرخے کی مال پر تہہ کر کے اس کو باندھ دیا جائے اور چرخے کو الٹا چلائے۔ دن میں جتنی بار چلا سکتا ہے چھوڑ چھوڑ کر چلاتا رہے جس طرح چرخہ گھومے گا اس کا دل بھی پریشان ہوگا، اور وہ بہت جلد حاضر ہوگا یعنی

لوٹ آئے گا اگر سینکڑوں کوس پر بھی چلا گیا ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ لوٹ آئے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یَا هُوَ یَا هُوَ
 یَا مَنْ هُوَ یَا مَنْ هُوَ یَا مَنْ هُوَ لَا اِلهَ اِلَّا هُوَ
 بِحَقِّ هَارُوْتٍ وَمَارُوْتٍ وَبِحَقِّ سُلَیْمٰنَ بْنِ دَاوُدَ
 عَلَیْهِ السَّلَامُ اَلْفَ بِرِضَايْكَ الْحُبِّ فَلَاں۔

(مفرد کا نام) بن فلاں (مفرد کی ماں کا نام) علیٰ حبّ فلاں (بلائے
 والے کا نام) بن فلاں (بلائے والے کی ماں کا نام)

دیگر

(عمل برائے ہر مشکل)

ترکیب: حضرت محی الدین جیلانی نے فرمایا ہے جو شخص (۱۱۱) ایک سو گیارہ
 مرتبہ اس دعا کو پڑھے جو مشکل رکھتا ہو حق تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کرے
 جو کچھ میں نے پایا اس دعا کے لیے سے پایا اس دعا کو فجر یا عشاء کی نماز کے
 بعد پڑھے اس وقت تک جب تک کہ مقصد میں کامیابی ہو۔
 اللّٰهُ الْكَافِي الْكَافِي الْكَافِي وَقَصْدَةُ الْكَافِي وَجِدَّةُ
 الْكَافِي بَكَافِي الْكَافِي وَكَفَانِي الْكَافِي وَنِعْمَ الْكَافِي
 وَبِاللّٰهِ الْحَمْدُ

اس کے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے۔

دیگر

(فائدہ عجیب)

ترکیب :- جو شخص اپنے کسی کام میں مشغول ہو اور کوئی شخص اس کے کام میں مغل ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے دل ہی دل میں اس دعا کی تلاوت کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ وہ شخص بغیر کہے فوراً اس کے پاس سے چلا جائے گا۔

وہ دعا یہ ہے۔

الْفِرُّوَاحِفَا وَثِقَالًا وَجَاهِدُ وَا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تَذْرُوحُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا رَبَّنَا اشْفِ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ يَوْمَئِذٍ يُضْدِرُّ النَّاسُ أَشْتَاتًا لَّيْرًا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

دیگر

(عمل برائے حصول حسن خاتمہ)

ترکیب :- جو شخص ہمیشہ دو رکعت اس طریقہ سے پڑھے گا یقینی اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا ان دو رکعت کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت نماز پڑھے دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ تدر و سورۃ اخلاص اور سورۃ نلق اور سورۃ ناس ایک ایک مرتبہ پڑھے اور چاروں سجدوں میں ۳۳ مرتبہ اس

دعا کو پڑھے۔

دعا یہ ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتُوذِعُكَ دِينِي وَإِيمَانِي وَأَخْلَافِي
عَلَيَّ فِي حَيَاتِي وَعِنْدَ وِفَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي۔

دیگر

(برائے دفع بلغم)

ترکیب: جس شخص کو بلغمی مرض ہو اسات کنکریاں لاہوری نمک کی لے
اور ہر کنکر کا پرسیات سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے۔ اور ہر روز ایک کنکری
نہار منہ کھائے انشاء اللہ تعالیٰ سگی شفا ہوگی۔

دیگر

(برائے ہر کام بہت ہی مجرب ہے)

ترکیب: جس شخص کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو مقدمات کاروبار
وغیرہ تو عورت اپنے بائیں بازو پر باندھے، اس نقش کو عروج ماہ
مشرقی یا زہرہ کی ساعت میں لکھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی
کے لیے تیر بہدف ثابت ہوگا۔ مجرب المجرّب ہے۔
وہ نقش مکرم اگلے صفحہ پر دیکھیں۔

۵۹۱۵	۵۹۰۸	۵۹۱۳
۵۹۱۰	۵۹۱۲	۵۹۱۴
۵۹۱۱	۵۹۱۶	۵۹۰۹

(کل اعداد ۱۷۷۳۶)

دیگر

(جس عورت کا بچہ پیدا نہ ہوتا ہو)

ترکیب: جس عورت کے بچہ نہ پیدا ہوتا ہو اس کو چاہیے کہ اس نقش کو شستری یا زہرہ کی ساعت میں لگو کر موم جامہ کر کے عورت کی ناف پر باندھے تاکہ رحم پر پڑا رہے انشاء اللہ تعالیٰ اس عورت کے بچہ پیدا کرے گا۔ مجرب ہے۔

وہ نقش مکرم یہ ہے۔


ا	بدوح	بدوح	بدوح
ا	بدوح	بدوح	بدوح
ا	بدوح	بدوح	بدوح
ا	بدوح	بدوح	بدوح

دیگر

(جس عورت کے بچہ پیدائش ہوتا ہے)

ترکیب: جس عورت کے بچہ پیدائش ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس نقش کو مشتری یا زہرہ کی ساعت میں لکھ کر موم جامہ کر کے عورت کے گلے میں باندھے۔
انشاء اللہ تعالیٰ اس عورت کے بچہ پیدائش ہوگا، بخریب ہے۔
وہ نقش مکرم ہے۔

۷۸۶



دیگر

(بڑے فاطمہ بالجبر ہونے کے)

ترکیب: حضرت حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے رب العزت کو ایک ہزار مرتبہ خواب میں دیکھا اور ہر مرتبہ میں نے خداوند تعالیٰ سے حسن فاطمہ کے متعلق

دریافت کیا تو حق تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد اس دعا کو چالیس یا اکتالیس مرتبہ پڑھا کرے۔

وہ دعا یہ ہے۔
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ وَيَا بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 اَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلِيْ قَلْبِيْ بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ اَبَدًا
 سَرْمَدًا يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ

دیگر

(آیات شفا برائے جملہ امراض)

ترکیب۔ یہ وہ آیتیں ہیں قرآن پاک کی جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایسے مریض کہ جن کو اپنے مرض کے متعلق پریشانی ہو اور اس کے مرض کا پتہ نہ چلتا ہو یا علاج کراتے کراتے مایوس ہو چکا ہو ان آیات مبارکہ کو صبح کی پاک طشتری پر لکھ کر دھو کر پلائے غذا کے فصل و کرم سے بالکل تندرست و توانا ہو جائے گا اور جملہ امراض اس کے دور ہو جائیں گے۔

وہ آیات مبارکہ یہ ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَيَشْفِيْ صُدُوْرَ
 قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَشِفَاؤُ لِمَا فِي الصُّدُوْرِ فِيْهِ
 شِفَاؤُ لِلنَّاسِ مِمَّا هُوَ شِفَاؤُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ
 وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِيْ كُلُّ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَشِفَاؤُ

دیگر

(برائے حفاظت زہریلے جانور)

ترکیب: جو شخص چاہے کہ اسے کوئی زہریلا جانور نہ کاٹے یا سانپ یا بچھو سے محفوظ رہنا چاہے تو اس کو لازم ہے کہ اس آیت شریفہ کو سات مرتبہ صبح اور سات مرتبہ شام روزانہ بلا ناغہ پڑھ لیا کرے۔ انشاء اللہ ہر قسم کے زہریلے جانور سے محفوظ رہے گا وہ آیت مبارکہ یہ ہے۔

سَلَامٌ عَلٰی نُوْحٍ فِي الْعَلَمِيْنَ

دیگر

(دعا و واسطے دفع ہونے پھوڑنے اور دنیل کے)

ترکیب: اس دعا کو سات مرتبہ پڑھ کر پندول مٹی پر دم کرے اور اس مٹی کو باریک پیس کر تھیلی پر رکھ کر انگلی پر لجا کر دہن لگا کر اس مٹی کو دنیل پر لگا دے اس طرح کئی روز تک لگا دے انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہو جاوے گی مجرب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةٌ اَرْضُنَا بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا يَشْفِي
سَقِيمَنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا

دیگر

(تعویر واسطے غیر اہل اسلام)

ترکیب در چاہے ہنود ہو یا نصرانی یا یہودی یا آتش پرست کل بیماریوں کے واسطے
اس میں شفا ہے۔

الإِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكَفْرُ بَاهِلٌ الْإِسْلَامُ نُورٌ
وَالْكَفْرُ ظُلْمَةٌ

دیگر

(اس بیمار کے واسطے جسکی بیماری نے طبیبوں کو عاجز کر دیا)
ترکیب: جو شخص کسی طرح کے مرض میں مبتلا ہو اور طبیب یا ڈاکٹر علاج کرتے
کرتے عاجز آگئے ہوں یعنی کسی طرح آرام نہ ہوتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس
عبارت کو چینی کی پشتری پر لکھ کر پانی سے دھو کر نہار منہ مرلیض کو اکیس روز یا چالیس
روز مسلسل پشتری یا زہرہ کی یا جس ساعت میں چاہے لکھے انشاء اللہ تعالیٰ
مریض کو شفا ہوگی بشہو عقل ہے اور مجرب ہے اور وہ عبارت یہ ہے۔
يَا حَيُّ جِئْ فِي دِيْمُوْمَةٍ مُلْكٍ وَبِقَائِهِ يَا حَيُّ

دیگر

(شیر یا کتا حملہ کرے)

ترکیب: جس شخص کو راستے میں یا کسی جگہ یہ ڈر ہو کہ کتا یا شیر حملہ کرنے کی
کوشش کرے گا تو اس کو چاہیے کہ فوراً اس آیت شریفہ کو پڑھنا شروع
کر دے تو کتا یا شیر شور مچانے اور حملہ کرنے سے باز رہے گا انشاء اللہ تعالیٰ

وہ آیت شریفیہ ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کَلِمَةٌ بِاسْطِ ذَرَاعِیْنِ

دیگر

(نقش برائے ہر کام قصیدۃ غوثیہ)
ترکیب: جس شخص کو کسی طرح کی شکل درپیش ہو اس کو چاہیے کہ اس نقش
کو مشتری یا زہرہ کی ساعت میں لکھ کر موم جامہ کر کے مرد اپنے سیدھے بازو پر
اور عورت اپنے اٹے بازو پر باندھے انشاء اللہ تعالیٰ ہر مشکل آسان ہوگی۔
وہ نقش مکرم یہ ہے۔

۷۸۶

۳۰۹۲۳	۳۰۹۱۸	۳۰۹۱۹
۳۰۹۱۶	۳۰۹۲۰	۳۰۹۲۲
۳۰۹۲۱	۳۰۹۲۲	۳۰۹۱۷

دیگر

(برائے مضرور یا محبت میں کسی کو بیقرار
کرنا یا کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہو)
ترکیب: اگر کوئی شخص کسی کو اپنی محبت میں بیقرار کرنا چاہے یا کسی سے محبت
کرنا چاہتا ہے یا بھاگے ہوئے کو واپس بلانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک
تازہ اندام مرغی کا لے کر جو زیادہ دن کا نہ ہو یا تورات کا دیا ہو یا صبح کو دیا ہو یا

عصر کے قریب دیا ہوئے کر اگر اس پر کچھ لگا ہو تو دجھی سے صاف کر لے اور اس پر ۸۶ یعنی بسم اللہ کے عدد لکھ کر حروف ابجد الف سے لے کر ط تک لکھے۔
ب، ج، د، ہ، و، ز، ح، ط یہاں تک لکھ کر پھر مطلوب کا نام اور پھر اس کی ماں کا نام اور پھر اپنا نام اور اپنی ماں کا نام لکھے اور اس کے بعد آیت شریفہ۔

وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةَ أَنَّهَا لَمُخَضَّرُونَ ۝

لکھ کر انڈے کو ایک گڑھا کھود کر زمین میں انڈے کو رکھ میں رکھ کر اس کے اوپر اتنی راکھ چڑھا دے کہ بھو بھل ڈالنے سے یا آگ اس کے اوپر رکھنے سے جل نہ جائے بلکہ گرم رہے اور تین دن تک مسلسل اس عمل کو کرے۔ یعنی چوبیس گھنٹہ یہ انڈا گرم رہے اس کی آگ ٹھنڈی نہ ہونے پائے۔ انشاء اللہ مفرد پس ہو گا مطلوب بیکر ہو کر آئے گا۔ مطلوب کے نام کی جگہ

الْحُبُّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ عَلَى حُبِّ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ

اس طور پر لکھے۔

دیگر

(برائے محبت)

پہلی ترکیب۔ جس شخص کو مطلوب کی محبت درکار ہو اس کو چاہیے کہ شروع ماہ نو چندی جمعرات کو اس عبارت کو ایک سو مرتبہ پڑھے اور سر مہ کے اوپر دم کرے اور اپنی آنکھوں میں لگا کر مطلوب کے سامنے جائے۔
انشاء اللہ تعالیٰ محبت کا برتاؤ کرے گا۔

دوسری ترکیب: جو شخص چاہتا ہو کہ میرا مطلوب بے قرار ہو کر فوراً میرے پاس پہنچے تو اس کو چاہیے کہ اس عبارت کو چھ سو پچاس مرتبہ مرغی کے انڈے پر دس روز تک پڑھے اور پھر زمین میں گڑھا کھود کر اس انڈے کو رکھے اور گرم راکھ یا آگ کے ذریعے اس کو سینک پہنچائے۔

انشاء اللہ تعالیٰ مطلوب حاضر ہوگا۔

تیسری ترکیب: ساٹھ ہزار چھ سو مرتبہ مصری پر لکھے اور مطلوب کو کھلائے انشاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ مطیع و فرمانبردار رہے گا۔

وہ عبارت تینوں ترکیبوں کے لیے یہ ہے۔

اللَّهُمَّ يَا مُسَجِّرُ سَجْرِي مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مُسَجِّرًا
لِي لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ نِيْلِي وَذَلِيْلِي وَسَجْرِي وَالْفِئْمَجِيْتِي
فِي قَلْبِي وَجَعَلَهُ رَوْقًا مُجِيْبِي يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيْمُ

دیگر

(نافرمان کے لیے)

ترکیب: اگر کسی شخص کی بیوی یا اولاد نافرمان ہو اور وہ انہیں تابعدار کرنا چاہیے وہ اکیس روز تک عشاء کی نماز کے بعد ۵۰ مرتبہ اس آیت کو پڑھے۔

آیت شریفہ یہ ہے۔

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتِنَا قُوَّةَ أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

دیگر

(برائے آسیب زدہ)

ترکیب :- اگر کوئی شخص جن بھوت، ہلک مرض یا جادو کے اثر میں مبتلا ہو تو اس فتیلہ کو سترے کاغذ پر لکھے اور اس کی پشت پر یہ عبارت لکھے (ہر بلائے کو دروہو فلاں بن فلاں باشد گرفتہ بسوزندم فلاں بن فلاں کی جگہ مریض اور اس کی ماں کا نام لکھے چودھویں خانے کی طرف سے موڑے اور نیلا ڈورا لپیٹے، باہر میں خانے کی طرف سے روشن کرے اور اس خانہ پر سیاہی لگا دے اور ایک کورے چراغ میں کڑوا تیل ڈال کر اس وقت روشن کرے جب سب سو جائیں اور آمدورفت بالکل بند ہو جائے مریض کا رخ قبلہ کی طرف ہو جلاتے وقت پھول اور عطر کوری رکابی میں رکھ لے صبح کو مریض کے اٹھنے سے پہلے ان سب چیزوں کو کٹوئیں میں ڈال دے انشاء اللہ تعالیٰ دس گیارہ روز کے اندر بالکل بند ہو جائے گا۔

انست علیکم یا دروہو

بحق اجہڑ

۱۲	۱۹	۱۲
۱۳	۱۵	۱۴
۱۸	۱۱	۱۶

بحق اجہڑ

بحق

انست علیکم یا دروہو

انست علیکم یا دروہو

دیگر

(برائے عداوت)

ترکیب:۔ جن دو شخصوں میں ناجائز محبت ہو اور ان میں عداوت کرنی چاہے تو یہ عمل کرے کہ ایک آنجورہ کوزہ مع ڈھکن کے لیوے اور سورۃ یس شریف ۴۱ بار اس ترکیب سے پڑھے کہ جب **خَصِيْعَتَيْنِ** اور **عَدُوَّتَيْنِ** پر پہنچے، آنجورے میں دم کرتے اور ڈھکن ڈھک دیاوے اور اپنے مطلب کے مطابق دعائیں مانگے جب اس ترکیب سے پڑھ چکے اور اس بند آنجورے کو بحفاظت تمام لے کر اس جگہ پر جہاں وہ دونوں پاس پاس بیٹھے ہوں توڑ دے یعنی زمین پر دے مارے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مطلب پورا ہوگا۔

دیگر

(برائے مہمات دینی و دنیوی)

ترکیب:۔ ان سات آیتوں کو بیت خاصیتیں ہیں، خصوصاً کفایت، مہمات دینی و دنیوی کے لیے کوئی دعا ان آیتوں سے بہتر نہیں ہے، ان آیتوں کو روزانہ سات بار پڑھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اِنْ يَجْتَنِبُوا كِبَاۤیْرَ مَا تُرْمَوْنَ عَنْهُ مُكْفَرًا عَنكُمْ
 سَيَاتِكُمْ وَنُدْبِكُمْ مُنْذَرًا كَرِيْمًا

۲۔ وَلَا تَسْمَعُوا مَا قَصَلَ اللَّهُ بِهِ يَعْضُكُمْ عَلَى
بَعْضٍ ۖ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ وَ
لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۖ وَسئَلُوا اللَّهَ
مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
۳۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً
يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۚ
۴۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ
لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ اتَّخَذَ إِثْمًا
عَظِيمًا

۵۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا
اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ
تَوَّابًا رَحِيمًا ۚ
۶۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ
اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ۚ
۷۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۚ

دیگر

(برائے موافق ہونے کاوند کے)

ترکیب :- اگر کسی کا خاوند غیر عورت سے ناجائز تعلق رکھتا ہو تو عورت کو چاہیے کہ آیت شریفہ کو عروج ماہ نوچندی جمعرات سے شروع کرے اول آخر ۱۱، ۱۱ مرتبہ درود شریف اور ایک ہزار بار اس آیت کو پڑھ کر شیرینی پر دم کر کے کھلائے گیارہ یوم تک انشاء اللہ تعالیٰ موافق ہو جائے گا اور غیر عورت سے تعلق چھوڑ دے گا وہ آیت مبارکہ یہ ہے۔

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ
الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

دیگر

(برائے ہر کام)

ترکیب :- جو کوئی اس نقش کو جس کام کے واسطے لکھے گا وہ کام برائے گا اگر اپنے بازو پر باندھے گا تو کسی آفت میں نہ پھنسے گا اور اگر تنگ دست ہو گا رزاق مطلق روزی غیب سے دے گا۔ کبھی محتاج نہ رہے گا صاحبِ توقیر ہو۔ دشمن دوست ہو اگر بیمار کے بازو پر باندھے یا گھول کر پلانے سرریض شفا پائے گا مرض دور ہو جائے اگر حاکم ظالم سے ڈرتا ہو تو اپنی ٹوپی یا گپڑی میں رکھ کر اس کے سامنے جاوے اور مہربان ہو جائے اور اس نقش کی بہت سی خاصیتیں ہیں۔ مختصر تعریف کی گئی ہے۔

وہ نقش مکرم اگلے صفحہ پر دیکھیں۔

۲۸۹	۲۲۹	۶۶	۱۰۲
۶۵	۱۰۲	۲۲۶	۲۳۰
۱۰۲	۶۶	۳۲۷	۲۸۷
۲۲۸	۲۸۹	۱۰۵	۶۷

دیگر

(آیتہ قطب کے عجیب و غریب اوصاف)

ترکیب ۱۔ اول جو شخص کہ بعد نماز فجر روزانہ چالیس بار پڑھے جو کچھ چاہے حق سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔

دوسری ۱۔ جس کسی کو بادشاہ یا امیر سے کوئی کام درپیش ہو اور مشکل نظر آئے دو رکعت نماز ادا کر کے مہلت پر تین بار یہ آیت پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے منہ پر پھیرے مراد برآورے۔

تیسری ۱۔ جس کسی پر دیو، جن، پری، آسیب کا اثر ہو بائیں کان میں یہ آیت پڑھ کر دم کرے انشاء اللہ تعالیٰ اثر جاتا رہے گا۔

چوتھی ۱۔ بچھو کے کاٹے ہوئے پر اس کے سیدھے کان میں پڑھ کر بھونک مارے انشاء اللہ صحت پائے گا۔

پانچویں، جو شخص کسی ہم یا جنگ کے لیے، پندرہ، تیرہ مرتبہ پڑھے
انشاء اللہ تعالیٰ فتح پائے گا۔

چھٹے، جو شخص چار بار پڑھ کر دشمن کے گھر پر پھونک مارے، دشمن
کا گھر خراب ہو جائے گا۔

ساتویں، جو شخص دشمن پر غالب آنا چاہے تو بارہ بار پڑھے انشاء اللہ
دشمن مایوس ہو جائے گا۔

آٹھویں، جو کوئی سات بار پڑھ کر کسی مجلس میں آوے مجلس
والے تعظیم سے پیش آئیں۔

نویں، جو کوئی نو درہم شہد اوزد درہم دکھنی مرچوں پر دم کر کے کھائے
قوت باہ زیادہ ہووے۔

دسویں، جو کوئی روزانہ ہزار بار پڑھے گا روزی زیادہ ہوگی غیب
سے رزق پہنچے گا۔

گیا رہیں، اگر گھوڑا شرازت کرے تو تین بار پڑھ کر دم کرے
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ
بَعْدِ الْعَمْرِ اِنَّهُ نَعَّاسٌ یُّغْشِیْ کُلَّیْقَةٍ مِّنْكُمْ وَکَاطِفَةٌ
قَدْ اَهْتَتَتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ یُظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنِّ
الْجَاحِلِیَّةِ یَقُولُوْنَ هَلْ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَیْءٍ وَقُلْ
اِنَّ الْاَمْرَ کُلَّهُ لِلّٰهِ یُخْفُوْنَ فِیْ اَنْفُسِهِمْ قَالَا لَیْسَ لَنَا
لِکَ یَقُولُوْنَ لَوْ کَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَیْءٌ مَا کُنَّا هَهُنَا

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ
إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَ
لِيُنْجِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

دیگر

(برائے کامیابی ہر مقصد)

ترکیب ۱۔ اگر کوئی شخص اس دعا کو سات دن تک ہر روز کاغذ پر لکھے اور
دریا میں ڈال دیا کرے، ہو نیت کرے گا وہ بخوبی برآورے گی۔
وہ دعایہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ
يَا سُلْطَانَ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

دیگر

(برائے شفا پانے بیمار کے)

ترکیب ۱۔ اگر کوئی بیمار ہو اور اس پر یہ دعاسات بار پڑھ کر دم کرے وہ
بیمار بہت اچھا ہو جائے گا۔

وہ دعایہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تُخْلِقُوا رُؤُسَكُمْ

حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَجْلَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا
أَوْ بَدَأَ مِنْ رَأْسِهِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ

أَوْ نُسُكٍ

دیگر

چہل کاف

(برائے آسیب زدہ)

ترکیب :- اگر کسی کو آسیب، پرسی یا جن کی شکایت ہو تو اس کو چاہیے کہ اس
چہل کاف کو سات مرتبہ کڑوے یعنی سرسوں کے ایک چھٹانک تیل پر پڑھ
کر دم کرے۔ اور اول آخر درود شریف تین تین بار پڑھے اس کے بعد
اس تیل کا ایک قطرہ یعنی بوند پچکاری یا ڈاڑھی سے مریض کے کان میں ٹپکائے
پہلے داہنے کان میں ایک بوند پھر بائیں کان میں ایک بوند لیکن یہ خیال رہے کہ یہ
بوند تیل کی کان سے باہر نہ آنے پائے بلکہ ہاتھ سے کان کو ہلا کر اندر ہی اس
بوند کو پہلے ایک کان میں پھر دوسرے کان میں جذب کر دیا جائے اور اس
کے بعد علیحدہ سے سرسوں کا تیل اتنی مقدار میں لے کر کہ تمام جسم پر ملا جا سکے
اس سادے تیل میں پڑے ہوئے تیل کے چند قطرے ملا کر اور مریض
کے تمام جسم پر ملنے سات دن تک یہ عمل کیا جائے گا ایک دن بیچ کر کے
یعنی جس طرح شروعات کی اس دن کے بعد جو دوسرا دن آئے گا اس کو
چھوڑ کر تیسرے روز کرے اس طرح سات دن مکمل کر لے۔
انشاء اللہ تعالیٰ مریض صحت یاب ہوگا۔ مجرب المجرّب ہے۔

جیل کاف یہ ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 كَفَاكَ رَبُّكَ كَمَا يَكْفِيكَ وَاِكْفَاكَ + كَفَاكَ فُهَا كَلِمَيْنِ
 كَانَ مِنْ كَلِمٍ + تَكْرُ كَرَا كَرِي فِي كَبِدٍ +
 تَحْكِي مُشْكَاةً كَكَلِكِ الْكَلِكِ + كَفَاكَ مَا بِي
 كَفَاكَ الْكَافِ كُرْحَةً + وَيَا كَوَكْبُ كَانَتْ
 تَحْكِي كَوَكْبُ الْفَلَكِ

دیگر

عمل (دکان کی ترقی کے لیے)

۷۸۶

۸۰	۸۳	۸۶	۷۳
۸۵	۷۴	۷۹	۸۲
۷۵	۸۸	۸۱	۷۸
۸۲	۷۷	۷۶	۸۷

جس شخص کی دکان پر بکری کم ہوتی ہو تو
 اس نقش کو ساعت مشتری میں لکھ کر گتے
 پر چسپاں کر کے دروازے پر لٹکائے
 انشاء اللہ تعالیٰ خریدار غیب سے آئے
 مال بکنے لگے بخوبی نفع ہو روز بروز بڑھتا
 جائے نقشِ معظّم و مکرم یہ ہے۔

↑

دیگر

(برائے آسیب)

ترکیب۔ ایک کپڑے کا ٹکڑا لے کر ہلدی میں رنگ کر چالیس فقیہ بناوے
 ایک فقیہ روزانہ آسیب زدہ کے سونے کی جگہ روشن کرے اس کے بعد چالیس
 روز تک ایک ایک فقیہ کو ہر رات اسی مکان میں روشن کرے۔
 انشاء اللہ تعالیٰ آسیب دفع ہو جائے گا۔

دیگر

(برائے آسیب)

ترکیب۔ قُلْ أَعُوذُ بِدِيْتِ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ
 النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي
 يُوَسْوِسُ فِي صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنْ الْجَنَّةِ
 وَالنَّاسِ ۝

اس پوری سورۃ کو بے سین کے (یعنی
 بدت۔ النہ۔ الہ النہ) سرسوں کے تیل پر سات مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور آسیب
 زدہ کی آنکھ، کان، ناک اور ہاتھ پاؤں کے ناخنوں پر مالش کرے۔
 انشاء اللہ شفا پائے گا۔

دیگر

(برائے اطاعت والدین یا آقا)

ترکیب۔ اگر کسی کا لڑکا یا لڑکی ملازم شرارت کرتا ہو بھاگ بھاگ جاتا ہو اور والدین
 یا آقا کی اطاعت نہ کرتا ہو ایسے نافرمانی کو اگر مطیع کرنا منظور ہو تو اس آیت کریمہ

کو تین سو تیرہ دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلانا یا کسی چیز پر دم کر کے کھلانا، یا لکھ کر بطور تعویذ گلے میں ڈالنا مجرب ہے۔

آیت شریفہ ہے۔ **وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمُ اقْبَاطًا عَلِيمًا لِّئَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا**

پڑھنے کے لیے اول آخراء، امرتبہ درود شریف اور لکھنے پڑھنے دونوں میں ایک مرتبہ بِسْمِ اللّٰهِ ضرور ہو۔

دیگر

(برائے ہر مصیبت و بیماری کے دفع کے لیے)

ترکیب۔ ہر مصیبت کے لیے، بیماری کے لیے اس آیت کریمہ کا ایک لاکھ پچیس ہزار (۲۵۰۰۰) مرتبہ بطور ختم کرنا عجیب اثر ہے وہ بلا جلد دفع ہوگی مریض بہت جلد تندرست ہوگا، اگر موت مقدر میں ہے تب بہت جلد سے خاتمہ بالخیر ہو کر انجام بخیر ہوگا آیت یہ ہے۔

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّ یُجِیْبُ الْمُنْتَظِرُ
اِذَا دَعَا وَیَكْشِفُ السُّوْءَ**

ختم پڑھنے کے لیے پانچ یا سات یا نو آدمی اور چاہیں تو گیارہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ختم پڑھنے کے بعد حسب توفیق شیرینی وغیرہ فاتحہ دے کر بچوں کو تقسیم

کو دے اور اگر کسی مریض کے پاس جائے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سات
یا نو یا گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کرے گا تو شفا یاب ہوگا۔
زیادہ سے زیادہ تین دن تک کرے۔

دیگر

(برائے بیدار ہونے وقت پر)

ترکیب ۱۔ جو شخص سورۃ زلزال کو تین مرتبہ رات کو چار پائی پر لیٹ کر وضو
یا غیر وضو پڑھ کر اور ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لینا بھی ضروری ہے تین مرتبہ
پڑھنے کے بعد زبان سے نام لے کر کہ فلاں وقت بیدار ہو جاؤں۔
انشاء اللہ تعالیٰ ضرور بیدار ہوگا۔ اٹھنا نہ اٹھنا اس کی اختیاری بات ہے
وہ سورۃ یہ ہے۔

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

یعنی پوری سورۃ پڑھی جائے گی۔

دیگر

(برائے دل اکھاڑنا، مکان، دکان یا کسی جگہ سے)

ترکیب ۱۔ اگر کسی شخص کا کسی مکان یا دکان یا کسی جگہ سے دل برداشتہ کرنا یا وہاں
سے اکھڑنا مقصود ہو تو ان مبارک آیتوں کو اکتالیس مرتبہ تین روز تک پینے کی کسی
چیز پر دم کر کے پلانے یا کھلانے سے مقصود حاصل ہو جائے گا۔
آیتیں یہ ہیں۔

يَوْمَ تَرْجِفُ الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ
يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أِنَّا
لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً
قَالُوا إِنَّكَ إِذَا كُنَّا خَاسِرَةً فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ
وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالشَّاهِرَةِ

دوسری ترکیب یہ ان ہی آیتوں کو کاغذ پر لکھ کر کسی درخت میں لٹکانا یا تانبے کے
پترے پر کندہ کرنا کہ کسی پرانے کنویں میں ڈالنا بھی یہی مطلب پورا کرتا ہے مگر
نیچے اس شخص کا نام جسے کسی جگہ سے جدا کرنا منظور ہو اور پھر اس جگہ کا نام جہاں
سے جدا کرنا منظور ہو ضرور کاغذ پر لکھنا یا پترے پر کندہ کرنا چاہیے جہاں نام
لکھا جائے گا۔ وہاں اس کی ماں کا نام ضرور ہو اگر ماں کا نام معلوم نہ ہو تو جوا لکھے

دیگر

(برائے جدائی و الناد و شخصوں میں)

ترکیب ۱۔ اگر دو شخصوں میں جدائی و الناد منظور ہو تو اس آیت مبارک کو کاغذ پر لکھ
کردونوں میں سے ایک کے تیکے میں رکھے۔ انشاء اللہ فوراً جدائی ہوگی

آیتیں یہ ہیں

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبِهِ
وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

یہ آیت لکھ کر نیچے نفل شخص فلاں سے جدا ہو جائے گا اور ماؤں کا نام ضرور

لکھا جائے اور فلاں کی جگہ اس کا نام اور اس کی ماں کا نام اور دوسرے فلاں
کی جگہ اپنا اور اپنی ماں کا نام تحریر کرے۔

دیگر

(خوشحالی اور دشمنوں پر غالب رہنے کے لیے)

ترکیب: جو شخص اس دعا کو ہر روز صبح کی نماز کے بعد، مرتبہ پڑھے تو انشاء اللہ
تعالیٰ اس کی زندگی خوشحالی سے گزرے گی۔ ایک دفعہ پڑھنا بھی کافی ہے اور
اسی دعا کو اگر کوئی شخص لکھ کر کسی کو دے تو جو شخص اس کو اپنے پاس رکھے
گا اس کے دشمن انشاء اللہ مغلوب رہیں گے۔

وہ دعا یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی نَفْسِیْ وَدِیْنِیْ
بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی اَهْلِیْ وَمَالِیْ وَوَلَدِیْ۔ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی مَا
اَعْطَانِی اللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّیْ لَا اَشْرَکَ بِہٖ شَیْئًا، اَللّٰهُ اَبْرَ اللّٰهُ
اَحْبَرُ وَاَعْرَ وَاَجَلٌ وَاَعْظَمُ مِمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ وَجَلَّ تَنَآؤُکَ
لَا اِلٰهَ غَیْرُکَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ کُلِّ شَیْطَانٍ
مَّرِیْدٍ وَمِنْ شَرِّ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیْدٍ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَّ حَسْبِیْ
اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْمَرْشِ الْعَظِیْمِ
اِنَّ وِیْلَیَّ اِلٰہَ الَّذِیْ نَزَلَ الْکِتَابَ وَهُوَ یَسُوْی
الصّٰلِحِیْنَ ۝

دیگر

(برائے معلوم کرنے آسیب)

ترکیب، جو شخص اس نقشِ مکرم کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے۔ اس کو چاہیے کہ
 ۱۔ نقش لکھ کر دریا میں ڈالے۔ اور اس طریقے سے لکھے کہ انار کی لکڑی کا ایک
 قلم بنائے، اور روزانہ مشتری کی ساعت میں ۲۵ نقش لکھ کر الگ الگ ہر ایک
 کی آٹے میں گولی بنا کر دریا میں ڈالے۔ سورج کے نکلنے سے لے کر سورج
 کے غروب ہونے سے پہلے پہلے ڈال آئے۔ آٹھ یوم کی اکٹھی یا چالیسویں
 دن بھی ڈال سکتا ہے آخری دن یعنی چالیسویں دن پچیس کی بجائے چھبیس
 نقش لکھے گا تا کہ ایک ہزار ایک کی تعداد پوری ہو جائے۔ زکوٰۃ پوری ہونے
 پر کسی شیرینی وغیرہ پر حسب توفیق فاتحہ دلا کر بچوں کو تقسیم کر دے۔ اس کے
 بعد جب ضرورت ہو اس نقش کو لکھ کر آسیب زدہ کو دے وہ اپنے سامنے
 رکھ کر جس خانہ میں سیاہی کا بڑا نقطہ ہے۔ اس کو دیکھتا رہے۔ جس آسیب
 کا اس پر اثر ہے۔ نقشِ مکرم کے موکل مریض کے سامنے اس کو لا کر حاضر
 کریں گے کہ مریض خود دیکھ کر معلوم کر لے گا کہ کون سا آسیب ہے۔
 نقشِ مکرم یہ ہے۔

۳۳۵-۸	۳۳۵-۳	۳۳۵-۱۰
۳۳۵-۹	•	۳۳۵-۵
۳۳۵-۴	۳۳۵-۱۱	۳۳۵-۶

دیگر

ایرانے مغلوب کرنے دشمن کے اور غالب آنے
کشتی کے

ترکیب: جو شخص اپنے دشمن کو زیر کرنا چاہے یا کسی کو کشتی کا شوق ہو تو وہ اکھاڑہ
میں اترنے سے پہلے اقل و آخر درود شریف ۳۷۳ مرتبہ اور اس دعا کو گیارہ
مرتبہ پڑھ کر چاروں طرف دم کرنے انشاء اللہ تعالیٰ اپنے مقابل پر غالب رہے گا
وہ دعا یہ ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَمَا كَانَتْ اللَّهُ كَمَا كَانَتْ اللَّهُ كَمَا كَانَتْ اللَّهُ كَمَا كَانَتْ اللَّهُ
جو میرا دشمن ہو

ہاتھ میں ہتھکڑی

پاؤں میں بیڑی

گلے میں طوق

دیگر

(ایرانے حاجت)

ترکیب: جس شخص کو کوئی حاجت ہو صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد
تین سو دفعہ اقل آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھ کر اس دعا کو پڑھے۔
انشاء اللہ تعالیٰ حاجت پوری ہوگی یا اَحْيٰ يَا حَلِيْمٌ يَا عَزِيْزُ
یا کَرِيْمُ اس سخت کام کو آسان کر

بِحَقِّ آيَاتِكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ” جہاں اس سحت کام کو آسان کر
 آیا ہے، اس کی جگہ اپنے کام کا نام لے جس وقت مشکل درپیش ہو
 پڑھے۔ بلا تید عروج و زوال کے۔

دیگر

(دشمن کے مغلوب کرنے کے لیے)

ترکیب: قرآن شریف میں چار آیتیں ایسی جامع ہیں کہ جب دشمن کے مقابلہ
 میں پڑھی جاتی ہیں تو فوراً مغلوب اور مقہور ہو جاتا ہے اور ظالم کے شر کو کافی
 ہیں۔ ہر آیت میں دس دس فاف ہیں وہ آیات یہ ہیں۔

۱۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاۤئِكَةِۙ اِذْ اَسْرٰٓءِیْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوسٰی
 اِذْ قَالُوۡا لِلنَّبِیِّۙ لَہُمْۙ اِنۡعٰثُ لَنَاۤ مِلۡکًاۙ نَّقَاتِلَ فِیۡ سَبِیْلِ
 اللّٰہِ ؕ قَالَ ہَلْ عَسِیْتُمْۙ اِنْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُۙ اَلَّا تَقَاتِلُوۡا
 قَالُوۡا وَمَا لَنَاۙ اَلَّا نَقَاتِلَ فِیۡ سَبِیْلِ اللّٰہِ وَقَدْۢ اُخْرِجْنَا مِنْ
 دِیَارِنَاۙ وَاَبْنَاءِنَا قُلَّمَا کُتِبَ عَلَیْہِمُ الْقِتَالُۙ کَوۡفُوۡا و
 قَتَلُوۡہُمْۙ اِلَّا نَبِیَّآءَۙ بَعِیْرَ حَقِّ وَّ تَقُوۡلُۙ ذُوۡقُوا عَذَابَ الْحَرِیۡقِ ؕ
 ۲۔ لَقَدْ سَمِعَ اللّٰہُ قَوْلَ الَّذِیۡنَ قَالُوۡۤا رَبَّنَا اللّٰہُ فَقِیۡرٌ وَّ
 نَحْنُۙ اَغْنِیَآءُۙ سَنَلۡکُبُ مَا قَالُوۡا وَّ قَتَلُوۡہُمُۙ اِلَّا نَبِیَّآءَۙ بَعِیْرَ حَقِّ
 وَّ تَقُوۡلُۙ ذُوۡقُوا عَذَابَ الْحَرِیۡقِ ؕ
 ۳۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیۡنَ قِیۡلَ لَہُمْۙ کُفُوۡاۤ اَیۡدِیۡکُمْ وَاَقِیۡمُوا

الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ إِذَا فِرْقٌ
 مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَ
 قَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ
 قَرِيبٍ طَقَلُ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ
 اتَّقَىٰ فَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝

۴۔ وَاثِلٌ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبْنَا بَانًا
 فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ
 لَا أُقْبَلُكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝

دیگر

(برائے آسیب)

ترکیب اسے جس شخص پر آسیب، دیوباجن، پریاں وغیرہ کا اثر ہو تو اس کو چاہیے
 کہ اس فلیتہ کو عشاء کی نماز کے بعد لکھ کر جب کہ لوگوں کی آمد و رفت کم ہو جائے
 تنہائی میں اس چراغ کو سرسوں کا تیل ڈال کر روشن کرے اور مریض اس
 کو دیکھتا رہے یا اسی طرح اس فلیتہ کو تین دن یا پانچ دن عمل کرتا رہے جب
 فلیتہ روشن ہو کر ختم ہو جائے تو بحفاظت اٹھا کر رکھ دیا جائے اور جب تیل
 کم ہو جائے تو اسی تیل میں اور نیا تیل ڈال دیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ مریض

رو بہ صحت ہوگا جو شخص اس فلیتہ کو روشن کرے وہ وہیں رہے اور فوراً
چراغ کو اٹھا کر رکھ دے مگر ریض اپنے پلنگ پر لیٹ جائے اٹھے نہیں

فلیتہ یہ ہے۔

۱۱	۸	۱	۱۳
۲	۱۳	۱۲	۷
۱۶	۳	۶	۹
۵	۱۰	۱۵	۴

سو حتم دریں فلیتہ دیونیاں و پیریاں و جنیاں و جوگیاں و گفتاراں
و سحر و جادو و دھس آسبہ کہ در وجود فلاں بن فلاں را
آزاد میدهد آن را بند کس درہ دریں فلیتہ و چراغ بیار دو
خاکستر کند بحق علیقا صلیقا طلیقا۔ انت تعلم صافی قلوبہم
علیقا شداد، فرعون، فارون، ابلیس، جہاہر و جہاروں
دیگر

(دشمن پر غالب اور ہر ارادے کے پورا
ہونے کے لیے)

ترکیب: جو شخص اس نقش کو اپنے پاس موم جامہ کر کے رکھے اگر
قتل و غارتگری ہو رہی ہوگی اور وہ وہاں سے گزرے گا تو کوئی دشمن
انشاء اللہ تعالیٰ نظر اٹھا کر نہ دیکھے گا۔ اور کسی قسم کا کوئی خوف و خطر اس

کو پیش نہ آئے گا۔ اور کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو انشاء اللہ فوراً اس کی برکت سے وہ پریشانی دور ہوگی اور جس مجلس میں جائے گا تعلیم و تکریم ہوگی اور اگر وہاں دشمن موجود ہو تو شرمندہ ہوگا اور نظر اٹھا کر نہ دیکھے گا۔ ہر مقصد میں اس کی برکت سے کامیابی ہوگی۔ اس نقش کو لکھ کر بازو پر باندھے۔ مرد سیدھے بازو پر، عورت اٹے بازو پر، اور اگر گلے میں ڈالے تب بھی کوئی حرج نہیں۔

مغرب المغرب ہے۔ وہ نقش مکرم یہ ہے۔

۷۸۶

۱۶۵۶۱۸	۱۶۵۶۲۱	۱۶۵۶۲۵	۱۶۵۶۱۱
۱۶۵۶۲۳	۱۶۵۶۱۲	۱۶۵۶۲۷	۱۶۵۶۲۲
۱۶۵۶۱۳	۱۶۵۶۲۷	۱۶۵۶۱۹	۱۶۵۶۱۶
۱۶۵۶۲۰	۱۶۵۶۱۵	۱۶۵۶۱۴	۱۶۵۶۲۶

دیگر

(ہر حاجت پورا ہونے کے لیے)
 ترکیب جس شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو تو اس کو چاہیے کہ اس صورت کو روزانہ گیارہ بار لکھ کر دریا میں ڈالے۔
 انشاء اللہ بہت جلد مقصود کو پہنچے گا وہ صورت اگلے صفحہ پر ہے

تمام مخالفین تابع فرمان بن جائیں گے کوئی مخالفت کسی سے نہ رہے گی۔
عجرب العجرب ہے وہ نقش مکرم یہ ہے۔

۷۸۶

اللہ اللہ اللہ		
۱۰۰۵	۱۰۱۰	۱۰۰۳
۱۰۰۴	۱۰۰۶	۱۰۰۸
۱۰۰۹	۱۰۰۲	۱۰۰۷
۱۰۰۱ ۱۰۰۱ ۱۰۰۱		

دیگر

(برائے رزق کی زیادتی کے لیے)

تذکیب ہو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں زیادتی ہو تو اس کو چاہیے کہ
انار کی لکڑی کے قلم سے گیارہ تعویذ لکھ کر کسی بھی نماز کے بعد ایک وقت
معتین کر کے آٹے میں گولیاں بنا کر دریا میں ڈالے اور اگر دریا قریب نہ ہو
تو کسی کنوئیں میں ڈال دے۔

انشاء اللہ تعالیٰ ایسا کرنے سے بہت جلد رزق کی زیادتی ہوگی ان
گولیوں کو ہر روز سورج چھپنے سے پہلے پہلے ڈال دے۔ عجرب ہے۔
وہ نقش یہ ہے۔ اگلے صفحہ پر

۱۸	۴۸	۹
۱۲	۲۲	۳۶
۴۲	بَابِ سِطِّ	۳۰

دیگر

(برائے حل مشکلات)

ترکیب: جس شخص کو کوئی سخت مشکل درپیش ہو اس کو چاہیے کہ بعد نماز فجر یا عشاء اول آخر دو شریف گیارہ گیارہ بار پڑھ کر سورہ قریش یعنی لایلف قریش کو ستر (۷۰) بار پڑھے، مع بسم اللہ کے یعنی ایک بار بسم اللہ ضرور پڑھے جب تک مشکل آسان نہ ہو برابر پڑھتا رہے۔
انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد مشکل آسان ہوگی۔

دیگر

(برائے نفع ہونے تجارت میں)

ترکیب: جو شخص یہ چاہے کہ میری تجارت میں روز افزوں ترقی ہو اور نادمے روز بروز زیادہ ہوتے رہیں تو اس کو چاہیے کہ دکان پر بیٹھا بیٹھا یا ہر وقت

اس درود کو کثرت سے پڑھے انشاء اللہ بہت جلد اپنے مقصود کو پہنچے گا۔
 وہ درود مبارک یہ ہے، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ
 وَصَلِّ عَلٰى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ
 دیگر

(دشمن کے مقابلے میں دشمن کو مغلوب کرنے کیلئے)
 ترکیب: اگر کبھی دشمن سے ہم کلامی ہونے کا موقع ہو اور اس سے نقصان
 پہنچنے کا ڈر ہو تو ان اسماء کا برابر درود کرتا رہے، انشاء اللہ تعالیٰ دشمن مغلوب
 ہو جائے گا وہ اسماء یہ ہیں۔

يَا سُبُوْحُ، يَا قُدُّوْسُ، يَا غَفُوْرُ، يَا وَدُوْدُ

یہ چاروں کلمے نہایت مجرب المجرّب ہیں۔

دیگر

(دشمنوں پر غالب آنے کے لیے)
 ترکیب: جو شخص معرکہ جنگ میں جائے تو سورۃ زلزال یعنی اِذَا زُلْزَلَتِ الْاَرْضُ
 زُلْزَالَهَا پوری سورۃ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور تھوڑی سی
 خاک اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکے، پھر اپنے سر پر ہاتھ پھیرے اور یہ آیت
 پڑھے۔ قَا ضَرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى
 وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا
 فَأَعْشَيْنَهُمْ فَعَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝

دشمن پر غالب اور فتح یاب ہو یہ عمل اسرار الہی میں سے ہے۔

دیگر

(دشمن کے لشکر پر غالب آنے کے لیے)

ترکیب :- اگر ایک مٹھی خاک پر آیت :-

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الذُّبُرَ ط اور

اب ج دھ و ز ح ط

پڑھے اور دشمن کے لشکر کی طرف پھینکے انشاء اللہ تعالیٰ دشمن کا لشکر بھاگ جائے گا۔

دیگر

(برائے دور ہونے یرقان یعنی پیلیا کی شکایت)

ترکیب :- جس کو یرقان ہو جائے اس نقش کو لکھ کر گھول کر اس پانی سے

مریض کا منہ دھلا دے خدا چاہے تو مریض بہت جلد صحت پاوے۔

نقشِ معظم و مکرم یہ ہے۔

۷۸۶

۵	۱۶	۲	۱۱
۱۰	۳	۱۳	۸
۱۵	۶	۱۲	۱
۴	۹	۷	۱۴

دیگر

(برائے اُمّ البیتین)

ترکیب: یہ آیت مبارک دو کاموں کے لیے اور جادو کے لیے مجرب ہے
 اگر کسی بچے کو سوکھے کا مرض ہو یا آسیب و میزہ کا خلل ہو یا کسی نے جادو کر دیا
 ہو ان تینوں کاموں کے لیے اس آیت مبارکہ کو لکھ کر موم جامہ کر کے بچے کے
 گلے میں آسیب والے کے گلے میں اور جادو والے کے گلے میں ڈال دے
 خدا کے فضل و کرم سے تینوں قسم کے مریض صحت یاب ہوں گے۔ وہ آیت
 مبارکہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ فَاِذَا قَرَأْتَ
 الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ
 اِنَّهٗ لَیْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰی رَبِّهٖمْ
 یَتَوَكَّلُوْنَ ۙ

دیگر

(جوڑ کاروتا ہو یا خواب میں چونکتا ہو)

ترکیب: جوڑ کاروتا ہو یا خواب میں چونکتا ہو اس نقشِ مکرم کو لکھ کر
 موم جامہ کر کے گلے میں ڈالے۔

نقشِ مکرم و معظّم اگلے صفحہ پر ہے
 فلاں کی جگہ بیچہ کا نام۔

۸	۱۹	۲۲	۱
۲۱	۲	۷	۲۰
۳	فلاں	۱۷	۶
۱۸	۵	۴	۲۳

ایام کے سعد و نحس

یہ دنوں کے سعد و نحس جو لکھے جاتے ہیں وہ علم نجوم کے اعتبار سے لکھے جا رہے ہیں لیکن شرعاً اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جہاں تک سیاروں کی رفتار کا تعلق ہے ان کی رو سے ہفتہ کے سات دن بعض کاموں کے لیے اچھے ہیں اور بعض کاموں کے لیے برے ہیں۔

سیاروں کی رفتار کے اثرات کے لحاظ سے ساتوں دنوں کے متعلق ہم درج کرتے ہیں۔

اتوار

یہ شمس کا دن ہے ستارہ اس کا شمس ہے۔ پہلی ساعت میں اگر محبت کرے تو کامیاب ہوگا یہ تمام دن اچھا ہے نیا کپڑا پہننے کے لیے مفید ہے۔ مکان بنانے کے لیے، زمین جوتنے کے لیے، بچے کو مکتب میں بٹھانے کے لیے مناسب دن ہے۔ سفر کے لیے بھی اچھا ہے اگر شرق

کی جانب سفر کرے تو بہتر ہے۔ جو فرزند اس دن پیدا ہوگا، خوش نصیب ہوگا۔

پیر

یہ قمر کا دن ہے ستارہ اس کا قمر ہے تمام کاموں کے لیے یہ دن مبارک ہے۔ شادی کے لیے، بچے کا نام رکھنے کے لیے، نیا مکان بنانے کے لیے بچے کو مدرسے میں داخل کرنے کے لیے، غسل صحت کے لیے بہت مبارک دن ہے اگر سفر جنوب و مغرب کی طرف کرے یقینی کامیابی ہو البتہ بیماری کے لیے یہ دن اچھا نہیں اگر بچہ پیدا ہوگا تو بڑا نیک دل ہوگا۔

منگل

یہ مریخ کا دن ہے ستارہ اس کا مریخ ہے، نحس و صغیر ہے، بعض کاموں کے لیے اچھا ہے۔ اور بعض کے لیے بُرا۔ اس دن اگر نقل مکان اور خرید و فروخت کرے تو کوئی حرج نہیں۔ مگر نیا لباس پہننا اور کتروانا نہیں چاہیے اگر مشرق یا جنوب کی طرف سفر کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اس دن جو بچہ پیدا ہوگا وہ نیا تندرست ہوگا۔

پنچ

یہ عطارد کا دن ہے ستارہ اس کا عطارد ہے یہ دن بھی اچھا ہے، دنیا لباس پہننے کے لیے، نئے مکان میں جانے کے لیے، مکتب میں بچے کو بٹھانے کے لیے۔ زمین جو تنے کے لیے مبارک دن ہے۔ اگر مشرق و مغرب کی طرف سفر کرے تو کوئی حرج نہیں جو بچہ اس روز پیدا ہوگا۔

وہ علم کا شائق اور قابل و لائق ہوگا۔

جمعرات

یہ مشتری کا دن ہے ستارہ اس کا مشتری ہے مبارک خیال کیا جاتا ہے اس روز نیا لباس پہننا، ملاقات کرنا، تجارت شروع کرنا، شادی بیاہ کرنا، نیامکان تبدیل کرنا مبارک ثابت ہوگا۔ خرید و فروخت کے لیے بھی یہ دن اچھا ہے۔ سفر کے لیے یہ دن سب سے بہتر ہے۔ جو بچہ اس روز پیدا ہوگا وہ نیک بخت ہوگا۔

جمعہ

یہ زہرہ کا دن ہے ستارہ اس کا زہرہ ہے۔ یہ بڑا مبارک دن ہے۔ اس دن تجارت کرنا اور نیامکان بنانا، شادی بیاہ کرنا، بچے کو مکتب میں بٹھانا بہت ہی مبارک ہے۔ جو کام اس روز شروع کرے اس میں کامیابی ہو۔ اس روز جمعہ کی نماز کے بعد سفر کرنا بہت مفید ہے۔

ہفتہ

یہ زحل کا دن ہے ستارہ اس کا زحل ہے۔ نجومیوں کے نزدیک یہ دن نحس اکبر ہے اس روز نئے کپڑے بنانا، قطع کرنا درست نہیں۔ اس روز کوئی نیا کام نہیں کرنا چاہیے اور نہ سفر کرنا چاہیے جو بچہ اس روز پیدا ہوگا اس کی صحت خراب رہے گی۔

علم قیافہ سے

حالات معلوم کرنا

انسانی زندگی میں علم قیافہ بھی ایک نہایت ہی اہم اور ضروری فن تصور کیا جاتا ہے اس علم کی مدد سے ہم کو ظاہری شکل و صورت دیکھ کر ایک انسان کے متعلق صحیح رائے قائم کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے ہم سروں کی نیک و بد خصلتوں کے سلسلے میں کچھ علامات درج کرتے ہیں ان علامات کی مدد سے بڑی حد تک ایک شخص کے متعلق صحیح رائے قائم کی جاسکتی ہے۔

بالِ سر

- ۱۱۔ سیاہ ملائم ہوں۔ دولت مند ہوں۔
- ۱۲۔ باریک ہوں، حسین نیک مزاج ہوں۔
- ۱۳۔ سخت تر ہوں، تنگ دست اور بے ادب ہوں۔
- ۱۴۔ سرخی مائل بیٹھے ہوئے تو مجلس و بریشان روزگار ہوگا۔

کاسٹریٹس

- ۱۱۔ لمبائی ہو تو اقبال و ناز سے بھر کرے۔

- ۱۲۔ متوسط ہونا دولت مندی کے آثار ہیں۔
 ۱۳۔ زیادہ تر بڑا ہونا مغسلی و پریشانی کا نمونہ ہے۔

پیشانی

- ۱۔ بلند، خوش نصیبی اور دولت مندی کی علامت ہے،
 ۲۔ کشادہ، علم و دانش کی علامت ہے۔
 ۳۔ تنگ اور پست، کوتاہی عمر اور بے نختی کی علامت ہے۔
 ۴۔ ہموار و پست و بلند، رنج و محنت کی علامت ہے عمر سختی میں گزرے۔

پیشانی پر رتل

۱۔ بخت آوری کی علامت ہے۔

خط پیشانی

- ۱۔ اگر ایک خط ہے شقیقہ سے شقیقہ تک یعنی ایک کنیٹی سے دوسری کنیٹی تک تو علامت مال و دولت کی ہے، ورنہ خسران مال ہے۔
 ۲۔ دو خط سلطنت و درازی عمر کی علامت ہے۔
 ۳۔ تین خط وزارت و شہر پاری کی علامت ہے۔
 ۴۔ چار و پانچ خط بے دولتی و درویشی کی علامت ہے۔
 ۵۔ اگر کوئی خط نہ ہو تو ترک دنیا کی علامت ہے۔

ابر و یعنی بھنویں

۱۰۔ دونوں باریک خوب صورت کمان کی طرح ہونا دولت و سلطنت کی علامت ہے۔

۱۱۔ ملی ہوئی بھنویں چوری کی علامت ہے۔

۱۲۔ ابرو کے بال نہ ہونا یا کم ہونا غربت کا سبب ہے۔

۱۳۔ ابرو کے بالوں کا سخت ہونا بد بختی کے آثار ہیں غربت کا سبب ہے۔

آنکھ

۱۴۔ اگر سفید یا سیاہ ہوں اور سرخ ڈورے اس میں پڑے رہتے ہوں اقبال مندی و خوشحالی و شاہد پرستی کی علامت ہے عورتوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچے۔

۱۵۔ اگر مثل شیروں کے خشم آلود ہوں یعنی غصہ بھری ہوئی تو شجاعت و تہور کی علامت ہے۔

۱۶۔ اگر مثل دیدہ مرغاں ہو (مرغ یعنی آنکھ، جیسا کہ مرغ کن آنکھیوں سے دیکھتا ہے) تو بے شرمی اور بے حیائی کی علامت ہے۔

۱۷۔ اگر آنکھیں پتی کی طرح نیلی اور سبز رنگ ہوں۔ تو بد خلقی بے مروتی کی علامت ہے۔

۱۸۔ مثل چوکر کے آنکھوں کا ہونا چالاکی اور بے وفائی کے آثار ہیں۔

پلکِ آنکھ

- ۱۔ پلکوں کے بال کم ہوتا زندگی عیش و عشرت سے بسر ہونے کی علامت ہے
 ۲۔ سخت زیادہ ہونا مغسی و شوریدہ بختی کی علامت ہے۔

ناک

- ۱۔ بلند اور بڑی ناک علامت دولت مندی و سعادت کی ہے۔
 ۲۔ خوب صورت مثل منقار طوطی و خرطوم پہن ہونے سے ذی عقل پرہیزگار صاحب اقتدار ہو یعنی طوطے کی چونچ جیسی ٹیڑھی اور پھیلی ہوئی۔
 ۳۔ جو درازی و کوتاہی بلند پستی باریکی و فرہی میں میانہ و خوش اندام و خوشنما ہوتو علامت نیکی کی ہے۔
 ۴۔ بہت بلند و باریک و پشتہ دار ہونا علامت سبک ساری کی ہے۔
 ۵۔ موٹی چھوٹی پست ہونا علامت کوتاہ عقل (کم عقلی) و پریشانی روزگار کی ہے۔

سوزا رخِ ناک

- ۱۔ بڑے ہونا بے جیا ہونے کی علامت ہے۔
 ۲۔ تنگ ہونا ذی عقل اور باجیا ہونے کا نمونہ ہے۔

کان اور کانوں کی نو

- ۱۔ اگر لمبے ہوں نیک طبیعت باثروت (دولتمند) رہے عمر دراز ہو۔
- ۲۔ اگر درازی و کوتاہی و لاغری و پنہاوری (یعنی بیٹھی ہوئی) بحد اعتدال ہو علامت نیکی اور اخلاقی پسندیدگی کی ہے۔
- ۳۔ زرگوش اگر کٹیٹی سے جدا ہوں، علامت خوشحالی کی ہے۔
- ۴۔ اگر ٹے ہوئے مگر باریک ہوں، علامت خوش حالی کی ہے۔
- ۵۔ اگر کان پر بال ہوں تو علامت محنت و رنج کی ہے۔

چہرہ

- ۱۔ کتابی آفتابی چہرہ ہونا خوش نصیبی اور اقبال مندی کی دلیل ہے۔
- ۲۔ مثل موش (چوہا) و آہو (ہرن) ہونا بدبختی و گداگری کا ثبوت ہے۔
- ۳۔ پرگوشت و خوب صورتی ہونا نیک مرد یا اولاد ہونے کے آثار ہیں۔
- ۴۔ سپینگ (چیتا) کے چہرہ ہونے سے صاحب ثروت و حشمت ہونے کا ثبوت ہے۔

زبان

- ۱۔ سرخ زبان علامت دولت و مال کی ہے۔
- ۲۔ سفید زبان علامت نکبت و فلاکت ہے۔

لَب

- ۱۱۔ سرخ لب علامت سعادت و دولت ہے۔
۱۲۔ لب ہائے سیاہ علامت نکبت و مغربی و بے دولتی ہے۔

دانت

- ۱۱۔ باریک دانت مثل انار کے دانے کے علامت دولت و سعادت ہے۔
۱۲۔ سفید دانت علامت دولت و مال ہے یا فقیر و ترک دنیا کی ہے۔

آواز

- ۱۱۔ بلند آواز ہونا جاہ جلال کا ثبوت ہے۔
۱۲۔ آواز میں بادل کی سی گرج ہونا نیک مردی کے آثار ہیں۔
۱۳۔ مثل طارِس (مور) ہنگے ہونا دولت مند کی و ناموری کا نشان ہے۔

ڈاڑھی

- ۱۱۔ سیاہ ملائم ہونا دولت مند کی و ناموری کا نشان ہے۔
۱۲۔ سرخی مائل ہونا بے رحمی و غصہ کی علامت ہے۔

شگافِ دہن

- ۱۔ چوڑا اور کشادہ منہ ہونا ناقص العقل و پریشان حالی کی علامت ہے۔
 ۲۔ متوسط کشادگی ہونا اوسط حالت میں بسر ہونے کی دلیل ہے۔
 ۳۔ تنگ دہن ہونا عمر عیش و طرب میں بسر ہونے کی نشانی ہے۔

ٹھوڑی

- ۱۔ مدور (گول) ہونا عقل مند و اہل فن ہونے کی علامت ہے۔
 ۲۔ کوتاہ ہونا، عیبی کا نشان ہے۔
 ۳۔ ٹھوڑی کا خالی ہونا بد خصالی کی علامت ہے۔
 ۴۔ بلند ہونا، دولت مندی کی دلیل ہے۔

گردن

- ۱۔ لمبی ہونے سے شوریدہ بنختی و ذلیل ہونے کی دلیل ہے۔
 ۲۔ متوسط ہونا، اوسط درجے میں بسر ہونے کی علامت ہے۔
 ۳۔ کوتاہ ہونا حرام زندگی کی نشانی ہے۔
 ۴۔ بہت بڑی ہونا چوری کی علامت ہے۔

خطِ گلو

- ۱۔ ایک خط ہونا عمرِ طبعی پر پہنچنے کی دلیل ہے۔
- ۲۔ دو خط نیک بخت و عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔
- ۳۔ تین خط سے صاحبِ ثروت مگر پر شکوہ ہونے کا نشان ہے۔
- ۴۔ چار خط پریشانی اور بے قراری کا علل ظاہر کرتے ہیں۔

پیلٹ

- ۱۔ خور درمیانہ علامت دولت و سلطنت ہے۔
- ۲۔ حدِ اعتدال سے درازی علامت فلاکت نکبت (بے وقوفی) ہے۔

بازو

- ۱۔ دراز بازو علامت دانائی و ہوش مندی کی ہے۔
- ۲۔ متوسط بازو علامت سعادت دولت ہے۔

ہاتھ

- ۱۔ اگر داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ سے بڑا ہو تو علامت تہور و شجاعت کی ہے۔
- ۲۔ اگر بایں ہاتھ داہنے ہاتھ سے بڑا ہو تو علامت بے چینی و بدولی کی ہے۔

کہنی

۱۔ شیر کی سی کہنی جو پر گوشت و خوش اندام ہو دولت کی علامت ہے۔
۲۔ خشک و باریک بندر کی سی کہنی کے مثل علامت نکبت و فلاکت ہے۔

انگلیاں

۱۔ اگر چھنگلیا اپنی برابر والی سے بڑی ہو تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص مرتبہ میں باپ سے بڑھ جائے گا۔

پیٹ

۱۔ پر گوشت جس کو مہندی میں تو نذ کہتے ہیں علامت نعمت و دولت ہے
۲۔ پیٹ کا بڑا اور بے گوشت ہونا علامت نکبت و فلاکت (مغلسی محتاجی کی ہے)۔

ناف

۱۔ عمیق خوش گوشت علامت مال و دولت ہے۔

ران

۱۔ ران پر گوشت مثل ران آہو علامت دولت و ثروت ہے۔

- ۶۔ گھوڑے کی ران کے مانند ہونا علامت دیہقانی اور کشادہ روزی کی ہے
- ۷۔ شیر کی ران کی مانند ہونا علامت دولت و مال کی ہے۔
- ۸۔ بہت بڑی اور کم گوشت و بدنما ہونا ران کا بزدلی کی دلیل ہے۔

پنڈلی

- ۱۔ پنڈلی پر گوشت اور خوش اندام ہونا علامت دولت ہے۔
- ۲۔ پنڈلی توی ہونا مثل جاسوس کی پنڈلی کے علامت خوب صورت عورت ملنے کی ہے۔

پاؤں

- ۱۔ پاؤں کا خوش اندام و پر گوشت ہونا علامت سعادت و دولت ہے۔
- ۲۔ کم گوشت اور تلوے کا گہرا ہونا علامت سعادت و دولت ہے۔
- ۳۔ تلوے کا پر گوشت ہونا کہ تلوہ از زمین پر لگے، علامت بد چلنی ہے۔

جَدْوَلُ قَالِ الْأَبْجَدِ

و ا و	و د و	و د و	و ج ج	و و و
و ب و	و ج د	و ب ج	و ج ب	و ب و
ب ب و	ب و و	ب ب و	ب ب و	ب ب و
ب ب و	ب و د	ب ب و	ب ب و	ب ب و
ب ب و	ب ج ج	ب ب و	ب ب و	ب ب و
ب ب و	ب ج د	ب ج و	ب ج و	ب ج و
ب ج و	ب ج و	ب ج و	ب ج و	ب ج و
ب ج و	ب ج و	ب ج و	ب ج و	ب ج و
ب ج و	ب ج و	ب ج و	ب ج و	ب ج و
ب ج و	ب ج و	ب ج و	ب ج و	ب ج و
ب ج و	ب ج و	ب ج و	ب ج و	ب ج و
ب ج و	ب ج و	ب ج و	ب ج و	ب ج و
ب ج و	ب ج و	ب ج و	ب ج و	ب ج و
ب ج و	ب ج و	ب ج و	ب ج و	ب ج و

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ
 وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ حَتّٰی اللّٰهُ
 عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَاَحْبَابِهٖ اَجْمَعِیْنَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ

اما بعد، یہ فالنامہ حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ عامل کو چاہیے کہ بیری کے درخت کی ایک موٹی سی ہری چار انگلی کی لکڑی لیکر اسے ایک پھیل کر چوکور (چار کونے) بنا لے، پہلے پہلو پر الف (ا) دوسرے پہلو پر بے (ب)، تیسرے پہلو پر جیم (ج) اور چوتھے پہلو پر وال (د) کو لکھے۔ یہ چاروں حروف نیک سماعت میں جمع کیے گئے ہیں، یہ بڑے برکت کے حروف ہیں۔ اس فالنامہ کا نام فال الابدھر کہا گیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ جب عامل کے پاس کوئی فال کھلوانے کے لیے آئے تو عامل کو چاہیے کہ وہ فال کھلوانے والے کو وضو کرائے۔ پھر اس سے سورۃ فاتحہ (الحمد شریف) ایک بار اور سورۃ اخلاص (قل ہو اللہ شریف) تین بار پڑھوائے۔ اور جن بزرگان دین کے نام اوپر لکھے ہیں ان کی روحوں کو ثواب پہنچائے اگر فال والے کو ان کے نام یاد نہ ہوں تو عامل ان کے نام ثواب پہنچاتے وقت اس کو بتانا جائے۔ پھر عامل فال والے کو وہ

لکڑی دسے جس پر حروف لکھے ہوئے ہوں اور وہ اس سے کہے کہ تم جس نیت سے فال چاہتے ہو اپنے دل میں اس کی نیت کر کے اس لکڑی کو اس تختی پر رڑکاؤ۔ تین مرتبہ یہ لکڑی رڑکوائی جائے اور ہر بار لکڑی کے اوپری حصہ پر جو حرف ہو اسے عامل یاد رکھے۔ یا کاغذ پر لکھ لے۔ پھر ان تینوں حرفوں کو ترتیب وار لکھے۔ مثلاً پہلی بار الف تھا دوسری بار جیم تھا اور تیسری بار وال، ان تینوں حرفوں کو اس ترتیب (اج و) سے لکھ لے اب جدول میں دیکھے۔ جدول کے خانوں میں سے کسی خانے میں یہ تینوں حرف اسی ترتیب سے لکھے ہوئے ملیں گے اور ان حروف کے اوپر نو کا نمبر لکھا ہوگا اب فالنامہ میں اسی نمبر پر یہ حروف اس شکل [ابج] میں ملیں گے وہیں فال کا حال لکھا ہوا ہوگا اس کو پڑھ کر پورا حال معلوم ہو جائے گا۔

فالنامہ ابجد

بسم اللہ الرحمن الرحیم

إِنَّا قَتَلْنَا لَكَ قَتْلًا مَبِيئًا ۱۱۱

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
 [۱۱۱] تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اسے فال کھلانے والے نے جو نیت کی ہے وہ مبارک ہے اور تجھے کوئی غم و الم نہ ہوگا اور اپنا دل خوش رکھ اور اپنی ہر مراد میں کامیاب ہوگا اور حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اسے فال والے نے جو نیت کی ہے حق تعالیٰ تیرے تمام کام بہتر بنائے گا اور تجھے بھلائیاں حاصل ہوں گی۔

سَأَوَّلُ اللَّهِ ذُو الْقَمَلِ الْعَظِيمِ ۝ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ

اج ج اے فال والے خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا کہ تیری روزی

اور زیادہ ہو جائے اور یہ کبھی ناشکری نہ کرنا، خدا کی نعمتیں تجھ پر ہوتی رہیں گی۔ سفر و حضر میں تیرے مال کی خدا حفاظت کرے گا حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ تو خدا تعالیٰ سے مدد مانگتا رہ، اور ہر وقت خدا کا دھیان رکھ، جو چیز تیری گم ہو گئی ہے وہ تجھے ضرور ملے اور اس سے بھی زیادہ بہتر مہربانی ہو، صدقِ دل سے انشاء اللہ تعالیٰ کہہ۔

سَيُؤْتِيكَ قَوْلًا فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ ۝

ادا حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے فال والے خدا

تعالیٰ کا شکر ادا کر، خدا تعالیٰ تیری سب بلاؤں کو دور فرمائے گا، حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں اے فال والے صبر کر اور تونے جو ثواب دیکھا ہے، ابھی تو اپنے کام میں لگا رہ۔ انشاء اللہ تعالیٰ کہہ لے، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اے فال والے تجھے اور تیرے دوستوں کو خوشخبری ہو کہ تجھ پر روزی کے دروازے کھل جائیں گے، تو دشمنوں پر فتح پائے گا، اور تیرے کام درست ہو جائیں گے۔

سَمِ قَاتِنَ جَهَنَّمَ لِمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ حضرت دانیال علیہ السلام

ادر فرماتے ہیں کہ اے فال والے لوگوں نے تجھے بہت کچھ

سمجھایا لیکن تجھ پر کچھ اثر نہ ہوا اور نہ دوستوں کا کہنا مانا تو نے اپنا مال برباد کر کے رنج اٹھایا، خدا کے لیے ایسے کام نہ کر، غریبوں، محتاجوں کو صدقہ و خیرات دے

اور صبر کر اور برے کام سے دور رہ۔ تاکہ خدا تعالیٰ تیرے کام درست فرمائے۔
حضرت لقمانؑ فرماتے ہیں کہ جو تیری نصیحت نہ مانے اس سے دور رہ
تاکہ تیرے سب کام انجام کو پہنچیں تو خود سمجھ دار ہے حضرت امام جعفر صادق
فرماتے ہیں اے فال والے اگر تو داناس ہے تو ان کاموں سے بچ۔ دیکھ جو
شخص خرد مند اور دانا ہوتا ہے وہ کبھی زہر نہیں کھاتا اور وہ اہی ہونی کا کبھی
طالب نہیں ہوتا۔

رہ
یُبَشِّرُهُمْ وَيُخَبِّرُهُمْ بِالْخَيْرِ وَيُنذِرُهُمُ الْيَوْمَ وَانِيَالِ عَلَيْهِ السَّلَام
اب ا
فرماتے ہیں اے فال والے تجھے اس فال سے کشادگی
رزق کی خوشخبری ہو اور ہر طرح تو کامیاب ہو گا اور تو کسی کی جانب سے خوف
نہ کرے تیرے تمام رنج و غم راحت اور آرام سے بدل جائیں گے صدقِ دل
سے انشاء اللہ تعالیٰ کہہ لے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے فال
والے تجھے بشارت ہو تیری روزی کشادگی ہوگی۔ تو گنج و نعمت میں زندگی
گزارے گا اور تو محنت و مشقت میں سستی اور کاہلی نہ کرے تیرا مقصد ضرور حاصل
ہوگا۔

رہ
قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا
اب د
حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے فال والے تیری
فال ہارون علیہما السلام کی ہے۔ یہ فال تیری مبارک ہے اور تیرے سب
کام اور تیری سب امیدیں پوری ہوں گی اور تجھے ایک خوشی بہت جلد حاصل
ہوگی اس کے علاوہ تو بہت سی خوشیاں دیکھے گا۔
کہہ انشاء اللہ تعالیٰ۔

۸
اج ب اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مُنْقِذَنَا
 ہیں، تیری فال حضرت ہو اور علیہ السلام کی فال ہے تیرے بدخواہ تیری
 تو نگری پر حسد کرتے ہیں لیکن تیرا خدا مددگار ہے یہ سال تیرے لیے
 بہت مبارک ہے۔ تجھے سب بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ اور اگر تیری
 کوئی چیز گم ہو گئی ہے وہ تجھے بہت جلد مل جائے گی۔ اور اگر تیرا کوئی
 آدمی غائب ہو گیا ہے وہ جلد آ جائے گا۔

۹
اب ج كَمَثَلِ حَبِيْبَةٍ اٰنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَاطِلَ
 ہیں اے فال والے تو اپنا دل خوش رکھ اور اسی حال
 میں تو شادمان ہو گا اور اگر بیمار ہے تو صحت پائے گا اگر تیری تھوڑی
 سی بھی طلب ہے وہ یوری ہوگی تیری فال سے دوست خوش ہوں
 گے اور تیرے دشمن سرنگوں ہوں گے۔ انشاء اللہ۔

۹
اج د كَلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
 والے گہرا نہیں خدائے تدوس تجھے دشمنوں کی زد سے بچائے گا اور تیرے
 کاروبار میں خیر و برکت ہوگی۔ تو ہر حال میں خدا کا شکر کر اور حضرت امام جعفر
 صادق فرماتے ہیں اے فال تجھے خوش خبری ہو کہ خدائے عزیز و برتر
 تجھے دنیا میں عزیز و مکرم فرمائے گا۔ اور وہ تجھے کثرت سے روزی
 دے گا اور تیرے تمام کام درست فرمائے گا۔ اور تو تمام غموں سے
 بے غم ہو جائے گا۔

مذا
فَنَادَتْ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَدَالِهِ إِلَّا أَنْتَ سَبِّحْنَاكَ إِنِّي كُنْتُ
ادرج **ب** مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے
فال والے تیری فال حضرت یونس علیہ السلام کی ہے غم نہ کر، تیری خوشی
بالکل تیرے قریب آچکی ہے اور یہ سال تیرے لیے بڑی برکت والا ہے
انشاء اللہ تعالیٰ کہہ۔

مذا
عَلَىٰ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَذَائِمَتِ النَّاسِ ۝ حضرت امام جعفر صادق
باب ب **ب** فرماتے ہیں اے فال والے تیری فال حضرت ادریس علیہ السلام
کی ہے چونکہ خدائے برتر نے ان کی مدد فرمائی تھی تو اپنی کامیابی پر خوش ہو
اور تو ہر غم سے نجات پائے گا اور تیرے کاروبار اونچے ہوں گے۔ اور
تیرے تمام مقصود پورے ہوں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

مذا
ب ب ا **ب** وَلَا تَعْتَوْنِي الَّذِينَ مُفْسِدِينَ ۝ حضرت امام جعفر صادق فرماتے
ہیں اے فال والے اپنے کام میں جلدی نہ کرو، صبر کرو، آخر تیرا کام تو ہو کر رہے
گا اور تو اپنے دل میں جو خیال رکھتا ہے اس سے باز آ، ورنہ توجان

مذا
ب ب و **ب** إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ۝
حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے فال والے تیری بڑی امید
پوری ہوگی بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تیری روزی کشادہ ہوگی تیرے کام
درست ہوں گے تیری حاجت پوری ہوگی۔ شک اپنے دل سے نکال۔

تیرے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

سُرًّا مِّنْ عَمَلٍ صَالِحًا تَأْتِيهِمْ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا حضرت امام جعفر

ب ۱۱ صادق فرماتے ہیں اسے فال والے تیری فال لوط علیہ السلام

کی ہے تجھے اس کام میں خوش ہونا چاہیے۔ اپنے کام میں لگا رہنا تاکہ
خدا سے برتر تجھے اس کام میں بڑی خوشی ہوگی، اگر تیرا نکاح کرنے کا ارادہ ہے
یا جیسی بھی طلب ہے تجھے اس کام میں بڑی خوشی ہوگی، اگر تیرا نکاح کرنے
کا ارادہ ہے یا جیسی بھی طلب ہے وہ سب حاصل ہوگی۔ یہ تیری فال
مبارک ہے۔

مَا قَالَ لَا تَخَفْ نَجْوَتَ مِنَ الظَّالِمِينَ حضرت امام جعفر

ب ب ج صادق فرماتے ہیں اسے فال والے تیری فال پیغمبر خدا صلی اللہ

علیہ وسلم کی فال ہے تجھے ایک سفر درپیش ہے وہ تیرے لیے مبارک
ہے، تیری حاجت پوری ہوگی جس قدر تو سفر کرے گا تیرے لیے بہتر ہوں
گے اور اگر تو نے کسی اور کام کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ بھی پورا ہوگا۔ حضرت
جعفر فرماتے ہیں تو اپنی مراد کو ضرور حاصل ہوگا۔

انشاء اللہ تعالیٰ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

ب ب د اَنْتُمْ تَقْلِحُونَ حضرت امام جعفر صادق فرماتے

ہیں اسے فال والے تو اس کام سے بچ یہ کام اچھا نہیں ہے۔ جلدی کرنا
شیطان کا کام ہے۔ تجھے کچھ دنوں صبر کرنا چاہیے محتاجوں کو کچھ صدقہ دینا

چاہیے تو خدائے برتر سے مدد مانگ تاکہ تیری آفت دور ہو، تیرے سب کام درست ہو جائیں گے۔

انشاء اللہ تعالیٰ۔

۱۷ اَوَّاسِيخَ عَلَيكُمْ نِعْمًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا حضرت امام جعفر صادق

ب ا ج

فرماتے ہیں اے فال والے تیری فال حضرت شعیب علیہ السلام کی فال ہے خدا تعالیٰ اپنی نعمیں تجھے پوری عطا فرمائے گا۔ تیری جو چیز کم ہو گئی ہے وہ تجھے ضرور ملے گی۔ اور جو تیری مراد ہے وہ پوری ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

۱۸ يَوْمَ تَقَلَّبُ وِجْوَاهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا سَمِعْنَا حَقَّ مَا نَادَىٰ

ب ج ا

صاف فرماتے ہیں اے فال والے اس اندیشے سے بچ تاکہ تو کسی بلا میں گرفتار نہ ہو اور اس نیت سے دور رہ، کیونکہ تیری یہ نیت اچھی نہیں ہے، تو خدا سے دعا کر کہ بلا تجھے نہ پہنچے کچھ صدقہ دے تاکہ خدائے کریم تجھ سے یہ بلا دور فرمائے۔ آگے توجان،

۱۹ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ

ب ا د

حضرت امام جعفر فرماتے ہیں اے فال والے تیری فال حضرت جرجیس علیہ السلام کی ہے اس کام میں تجھے کچھ دولت ملے گی اور تیری حالت اچھی ہو جائے گی اور تیری روزی کشادہ ہو جائے گی۔ اور تو اپنے دشمن پر فتح پائے گا۔

۲۰ قُلْ لِلنَّوْمِنِينَ يَنْصُرُونَ مِنَ ابْصَارِهِمْ حضرت امام جعفر

ب د ا

صاف فرماتے ہیں اے فال والے اس کام کا خیال تک نہ

کر، اس نیت سے باز رہ۔ کچھ ضرورت نہیں، اگر یہ کام کرے گا۔ رنج اٹھائے گا۔ اور تو بڑا پچھتائے گا۔ باقی تو اچھی طرح سمجھ لے۔

۲۱ وَإِنْ يَتَنَكَّرُوا إِلَيْكَ فَإِنْ هُمْ كَانُوا عَلَىٰ رِجَالِكَ فَتَفْجِئْنَاهُمْ بِمَسْجِدٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْمَكِّيِّ ذَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ أَتَقَاتُونَ

باب اب حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اسے فال والے چند دن گزر چکے ہیں تجھے کچھ رنج و ملال پہنچے۔ خدائے برتر نے انہیں دور فرما دیا اب تجھے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور تجھے کسی غائب شخص سے کچھ فیض پہنچے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

۲۲ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ حضرت

باب ج ب امام جعفر صادق فرماتے ہیں اسے فال والے تیری فال حضرت دانیال علیہ السلام کی ہے تجھے بالکل یقین کرنا چاہیے تو اپنے دشمن پر فتح پائے گا۔ اگر تو دشمن سے ڈرتا ہے تو تجھے اس سے ڈرنا نہ چاہیے۔

۲۳ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعَلِّمُهَا إِلَّا مَن يُهَوِّدُ حضرت امام جعفر

باب دب صادق فرماتے ہیں اسے فال والے اس کام میں بڑا فائدہ ہوگا۔ خدائے برتر آج تجھے بڑی خوشیاں دکھائے گا۔ تنگ دل نہ ہو خوش رہ۔ تیرے دن بہت مبارک ہیں تجھ پر غیب کے دروازے کھل جائیں گے تو جو مانگے گا خدا تجھے دے گا اور تو سارے غم بھول جائے گا اور تیرا سزا کار بہتر رہے گا واللہ اعلم۔

۲۴ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اے فال والے

باب ج ج اس کام میں تیری کوشش کرنا بیکار ہے تجھے ابھی صبر کرنا

چاہیے، صبر سے بگڑے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں تو بہ کا دروازہ کھلا ہے
تو بہ کرتا کہ تو کسی بلا میں گرفتار نہ ہو اور صبر سے تو بھلائیاں ہی دیکھے گا۔

۱۲۵ اِنَّا نُنْفِقُ بِمِحْنَةٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَهُوَ خَادِعٌ عَصِيْبٌ

ب ج د صادق فرماتے ہیں اے فال والے تو نے جو نیت کی ہے
تو اس نیت سے باز آ، اور اس سے بچ، اس سے تیرے ہاتھ کچھ نہ لگے
گا۔ اپنے لیے مصیبت مول نہ لے۔ خدائے تعالیٰ سے رشتکاری طلب کر
تا کہ تو کسی بلا میں مبتلا نہ ہو۔ باقی تو جان۔

۲۶ يَا يٰجِييْ خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَاذِّنْهُ الْحٰكِمَ صٰبِغًا

ب د ج امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے فال والے تیری فال حضرت
یحییٰ علیہ السلام کی ہے اس کام سے اندیشہ نہ کر اور غم نہ کر تجھے کچھ بدگمانی
پیدا ہو گی ہے تیری مراد پوری ہو گی۔ اگر تیری کوئی حاجت ہے پوری ہو
گی۔ اگر تو بیمار ہے تو اچھا ہو جائے گا۔ اگر تیرا کوئی عزیز سفر میں ہے خیرت سے
واپس آئے گا۔ اور جو کچھ تو چاہے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

۲۷ سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبِّ الرَّحِيْمِ

ج ج ج فرماتے ہیں نعمت، دولت و قوت تجھے ضرور ملے گی۔ وہ وقت
قریب آچکا ہے کہ تیرے سب کام درست ہو جائیں گے۔ حضرت لقمان
فرماتے ہیں اگر تیری نیت سفر کرنے کی ہے تو اس سفر میں تیری مرادیں
حاصل ہوں گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ اے
فال والے تجھے خوش خبری ہو سلامت سے رہنے کی اور غم سے نجات

حاصل ہونے کی تیرے ٹھپ کام درست ہو جائیں گے تجھے امید کے پورے ہونے کی جو آس لگی ہوئی ہے۔ وہ اچھے طریقے سے پوری ہوگی۔
انشاء اللہ تعالیٰ۔

۲۸ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رَّبِّكَ كَوْنًا
ج اد عباس فرماتے ہیں تجھے کوئی غم نہیں پہنچے گا جو تجھ سے غائب ہو گیا ہے۔ اس سے تو شاد مارو، اگر تو بیمار ہے تو صحت پائے گا۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں تیری بڑی عزت ہوگی، اس لیے کہ تیری فال مشتری کی ہے تجھے بڑی کامیابی ہوگی حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اسے فال والے تیری فال سیدنا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی فال ہے اپنی کامیابی پر اور اپنی خوش قسمتی پر خوش ہو تیرے سب اندر وہ غم رخصت ہوئے اب راحت ہی راحت ہے۔

۲۹ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
ج دا فرماتے ہیں یہ فال بہت سی نعمتوں پر دلالت کرتی ہے حضرت لقمان فرماتے ہیں یہ فال خوشدلی اور خوشحالی کی ہے۔ اور گم شدہ چیز کے ملنے پر خوشی ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس کام میں تجھے خوشی حاصل ہوگی۔

۳۰ قُلْ يُعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ
ج ب ر حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں یہ فال بزرگی کی دلیل ہے۔ تجھے غلق سے بہت فائدہ پہنچے گا تیری دولت بہت ہوگی کہہ

انشاء اللہ تعالیٰ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے فال والے خدا تیرا
نگہبان ہے بس تو اسی سے ڈرتا رہے۔ تیرا یہ کام پورا ہوگا اور تو بہت
خوش رہے گا۔

۳۱ اَزْكَصِيْبِ بْنِ السَّمَاءِ زَيْدٍ ظَلَمْتُ ذِي عَدَا وَبَنِي ۵ حضرت
ج ج ا ج **ج** دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں جو کام کر سوچ سمجھ کر کرو اور دشمن
سے غافل نہ رہو، حضرت لقمان فرماتے ہیں، جلدی نہ کرو، اور چند روز صبر کر لیا نہ
ہو کہ تو کسی بلا میں گرفتار ہو جائے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے
فال والے! ہوشیار رہ، بقول پیران زمان کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تم زندگی
اٹھانی پڑے۔

۳۲ لَتَعْلَمُنَّ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۵
ج ج د ب **ج** حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے دور رہو اور
اس سے پرہیز کرو اور تو اپنا راز کسی پر ظاہر نہ کرو اور اس کام کو چھوڑو اور آپرواں
کے اندر اینٹ پھینکنے سے پانی رُکا نہیں کرتا، صبر کرو، تیرا کام صبر کرنے سے بن
جائے گا باقی تو جان، اور حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے فال والے
ان کاموں میں کوشش نہ کرو اسی میں تیرے لیے بہتری ہے۔

۳۳ نَفَقْنَا ابْوَابَ السَّمٰوٰتِ فَنَرٰ رَبَّنَا فَنَرٰ جَهَنَّمَ ۵ حضرت امام جعفر صادق فرم
ج ج ب ج **ج** فرماتے ہیں اے فال والے فتح و کشادگی کی آمد ہے، تنگ
دل نہ ہو، خدا کی نعمتیں تجھ پر زیادہ ہونگی تیرے بندکاروں کو کھل جائیں گے
اور حاسدوں سے تو نڈر رہو جائے گا اور تیری روزی کٹا رہے گی۔

اور تیرا انجام بخیر ہوگا۔

۳۴۲ وَ كَيْبًا لَّنْهَم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۝ حضرت دانیال علیہ

ج ج در السلام فرماتے ہیں تیرا ستارہ نخص ہے۔ اب سعد ہو گیا اس کے بعد تجھے قوت اور دولت ملے گی اور تو مراد کو پہنچے گا اور حکیم حضرت لقمان فرماتے ہیں تیری مثال اس مرد کی سی ہے۔ جو ناامید ہو چکا ہے اور اچانک اس کا کام بن جائے۔ اور پھر آرام ہی آرام ہے اور اس کے بعد تجھے عزت اور دولت ملے گی۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے فال والے! تجھے خوش خبری ہو کہ خوف سے بے خوف ہو گیا۔ رنج کے عوض گنج اور درد و غم کے عوض خوشیاں حاصل ہوں گی۔ خدا پر بھروسہ کر اور اس سے ہر وقت مدد مانگے۔

۳۴۵ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ حِينٍ

ج ج ب حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں یہ فال مراد کے پورے ہونے میں دلیل ہے۔ دس دن تک کے بعد مراد پوری ہوگی۔ اور سب کام درست ہو جائیں گے۔ اور حضرت لقمان فرماتے ہیں تیرا طالع سیدھا ہوگا۔ تجھے راحت ملے گی۔ اور تیرے سب کام درست ہوں گے۔ سچ بولنے کی عادت ڈال اور حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ اے فال والے نیک بنا رہ اور تو اس کام سے خوش رہ تیری مراد جلد پوری ہوگی۔ تجھے چند دنوں میں بہت خوشیاں حاصل ہوں گی۔ ان سے تو بہت خوش ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ کہہ۔

۳۶۔ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ بِمَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ صَلَّیٰ عَلَیْكَ حَضْرَتِ اِمَام

ج ذر جعفر صادق فرماتے ہیں اے فال ولے اس کام میں کوشش

نہ کر، ابھی کام نہ ہوگا اور اپنے اوپر تو ملامت نہ کر اور خیانت سے پرہیز کر۔

۳۷۔ الَّذِیْنَ یَتَّقُوْهُمُ الْعَلٰیْقَةُ حَضْرَتِ دَانِیَال عَلَیْهِ السَّلَامُ فرماتے ہیں

ج اب اس فال میں خدا کی مدد ہوگی، اور تیرے کام پورے ہوں گے،

اور حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں، تیرے طالع کا ستارہ قوی ہے تیری تمام

مزدیں پوری ہوں گی اور تیرے غم سے چھٹکارا پائے گا اور اپنے دشمنوں

سے نڈر ہو جائے گا، اور حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے فال

والے! تجھے ان کاموں کے پورا ہونے کی خوشخبری ہو اور تو نے جو نیت

کی ہے، اچھی ہے۔

۳۸۔ وَاصْبِرْ وَمَا بَرِّکَ اِلَّا بِاللّٰهِ حَضْرَتِ لُقْمٰنِ حَکِیْمِ فرماتے ہیں

ج دج اس وقت تو پریشان ہے جب تیرا یہ حال ہو گیا تو اب

خوابِ غفلت سے بیدار ہو اسے، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں

اے فال ولے جلدی نہ کر اپنا دل خدا سے لگا اور اس سے در مانگ

تو بہ استغفار کر، تاکہ تیرا دشمن ذلیل ہو۔

۳۹۔ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا فِیْ اَنْفُسِکُمْ فَاخْذَرُوْهُ صَلَّیٰ

ج ۱۱ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں اس کام میں ہاتھ

اٹھا کیے ہوئے کام کو نہ کر۔ یہ کام اچھا نہیں، حضرت حکیم لقمان فرماتے

ہیں تو اپنے کو دوبارہ ہلاکت میں نہ ڈال، خدا کے برتر اپنی کتاب میں

فرماتا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ .. اور حضرت، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اے فال والے اس کام سے بچ اور اپنے دشمن سے دور رہو، اور دیکھو زنا کاری نہ کرو، پچھتائے گا۔

۴۱۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خذوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي آيَاتِكُمْ خذوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي آيَاتِكُمْ خذوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي آيَاتِكُمْ

ادب فرماتے ہیں اس کام میں جلدی نہ کرو اور دشمن سے دور رہو۔ تاکہ تو کسی بلا میں گرفتار نہ ہو حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں لوگوں نے تجھے بہت سمجھایا تو نے نہ مانا اور تو نے اپنے کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں منافق لوگوں سے دور رہو۔

۴۲۔ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

اج ۱ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں جو نیک و بد کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ خدا حافظ و نامرہے، حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں دل خوش رکھو جو تو مانگے گا ملے گا۔ اور تیرا مقصود بہت جلد حاصل ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اک کام میں چند روز تو اور محنت کرو اور کچھ خرچ بھی کر۔ یہ دوست نہیں۔ ان سے نقصان اٹھائے گا اور تو دل قوی رکھو۔ تیرا دوست (خدا) بہت قوی ہے۔

۴۳۔ وَاحْذَرُهُمْ إِنَّ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا آتَاكَ اللَّهُ

اد حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں اس کام میں چند روز اور محنت کرو اور کچھ خرچ بھی کر یہ تابع ہو جائے گا۔ اگر تو کسی سے یہ کہے گا اس سے تجھے کچھ فائدہ نہ ہوگا، حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں اپنے کام

کا انجام سوچ۔ یہ کام ہونے والا نہیں ہے اور حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اسے فال والے یہ کام اچھا نہیں ہے بلکہ اس میں اندیشہ اور خطرہ ہے۔
خدا پر بھروسہ کرو یہی کام بنانے والا ہے۔

۲۳ - **وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ** ط حضرت دانیال علیہ السلام

فرماتے ہیں اگر تو نے کچھ دنوں صبر کر لیا تو تیرا کام ہو جائے گا۔ **۱۱ ب**

اب اس وقت کوشش کرنا بے سود ہے باقی تو جان اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لوگ تجھ پر حسد کرتے ہیں تو ان لوگوں سے بچ ورنہ نقصان اٹھائے گا۔
حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اسے فال والے! تو اپنے اس ارادہ میں صبر کر اور خدا پر بھروسہ کر اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر نقصان اٹھائے گا۔

۲۴ - **بَرِّتْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ بِمَا آتَمَّهُمُ اللَّهُ مِنْ تَضَلُّبِهِ** ط حضرت

امام جعفر صادق فرماتے ہیں اسے فال والے! تیرا رنج و غم **۱۱ ج**

دور ہو گیا بس راحت ہی راحت ہے دل خوش رکھ، تیری مراد پوری ہو گی۔ آمین کہہ۔

۲۵ - **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَ**

الْأَزْلَامُ۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کام کا آغاز **اب ب**

و انجام سوچ۔ دیکھ دشمن گھات میں ہے۔ اور حکیم لقمان فرماتے ہیں جو کچھ خرچ کر رہا ہے۔ وہ ضائع ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح جیسے جاری پانی میں اینٹ مارتے والا ہوتا ہے۔ سلامتی اسی میں ہے۔ اس کام سے باز آ، اور حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اسے فال والے! دشمنی سے

پر مہینہ کرنا وہ لوگ اور عورتوں کے کہنے پر کوئی کام نہ کرے۔

۴۶۔ لَیْسَ عِبَادَاتُ مَا هُوَ وَ لَا کِتَابُ اللّٰهِ یَدْبِرُ مَا یَشَاءُ عَرَبِ

ج ب ب حضرت و انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے برابر کوئی بھی بیوقوف ہے۔ گھر کی کچی پٹیاں تو رکھنا ہٹے وہاں ہوگی۔ جب گھر سے باہر آتا ہے تو پریشان ہوتا ہے اور حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں تیرے اس ارادہ میں فائدہ نہیں ہے۔

۴۷۔ اِذَا جَاءَ فَخْرًا لِّلّٰهِ وَالْفَتْحُ وَ اٰیَّتِ النَّاسِ حضرت و انبیاء

د د علیہ السلام فرماتے ہیں تو کچھ اندیشہ نہ کر، تیری سزا پوری ہوگی حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں اس فال سے پہلی بات گئی اب اس کا بدل ہوگا۔ خدا کے فضل و کرم سے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے فال والے! دشمنوں پر فتح یابی کی تبھی خوش خبری ہو۔ اور جو تو خدا سے مانگے گا ملے گا۔

۴۸۔ فَسَیْجِ کَانَ یَرْجُو الْعَاقِبَةَ وَ یَسْتَعِیْلُ عَلٰی مَا لِحَاطِ

د د ب حضرت و انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں تو کون ہے کہ گمشدہ چیز بھی تجھے مل جائے۔ حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں تیرا طالع سعد ہو گیا ہے اب تو روزانہ اپنے دوستوں اور اپنے عزیزوں سے بھلائیوں دیکھے گا۔ اور جس بات کا تجھے اندیشہ ہے دور ہو جائے گا۔ اور حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ اے فال والے، خوش ہو، روشنی آچکی ہے تیرا کام ضرور پورا ہوگا۔

۱۹۔ آيَةُ يَصَدَّقُ الْكَلْبُ وَالطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ ط

دوج

حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اسے فال والے اتونے جو نیت کر رکھی ہے اس میں جلدی نہ کر۔ خدانے تجھے جو دے رکھا ہے قناعت کر اس سے زیادہ طلب نہ کر۔ تو زیادہ رحمت نہ اٹھا، روزی دہینے والا تیرا خدا ہے۔ تیری قسمت کا تجھے ضرور ملے گا۔ صبر کر تو مراد کو پہنچے گا۔

۲۰۔ اِنْ يَنْصُرَكَ اللَّهُ فَاَنْغَالِبْ لَآ يَكُودُ حضرت زینب علیہ السلام

دوا

فرماتے ہیں اگر تیرا سفر کرنے کا ارادہ ہے یا کسی تجارت کرنے کی نیت ہے تو یہ ارادہ اور یہ نیت تیرے لیے بہت مفید ہے۔ حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں اسے فال والے! تجھے دولت و سعادت ملے گی۔ جس طرح تیرا دل چاہتا ہے۔ بالکل اس کے موافق۔ انشاء اللہ۔

۲۱۔ خُذُوهُ فَخُذُوهُ ثُمَّ اجْبِدُوهُ خُذُوهُ حضرت امام جعفر صادق فرماتے

دوا

ہیں اسے فال والے تیری یہ نیت اچھی نہیں ہے اس نیت کو چھوڑ اور ابھی صبر کر، اپنی احتیاط کر، تیری مراد ضرور پوری ہوگی۔

۲۲۔ وَاَمَّا الَّذِيْنَ نَسَقُوا فَمَا زِدْنٰهُمُ ط حضرت امام جعفر

دبب

صادق فرماتے ہیں۔ یہ آیت فاسقوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس نیت سے باز اور نہ تو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور بادشاہوں سے دور رہے۔ اور ناپاک لوگوں سے بچ اور اپنا راز کسی سے نہ کہنا۔ تو ہمیشہ امان میں رہے گا۔

۵۳۔ فَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعِبَادُوا الصَّالِحِينَ ۝ حضرت امام جعفر

د ج د صادق فرماتے ہیں اے فال والے! تجھے خوشخبری ہو تیرا یہ ارادہ بہت اچھا ہے تجھے مبارک ہو جو کچھ تو چاہتا ہے تجھے ضرور ملے گا تیری مراد پوری ہوگی۔ تیری نیت بہت جلد پوری ہوگی۔ یقین رکھ۔

۵۴۔ وَاللَّهُ غَدِيْبُ السَّعِيْرَاتِ ذَا الْأَرْحَامِ ۝ حضرت امام جعفر صادق

د ج د فرماتے ہیں اے فال والے! تجھے خوشخبری ہو، یہ فال بہت اچھی ہے اور تیری یہ نیت درست ہے۔ اسی کو اختیار کر جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کرو، تیری مراد پوری ہوگی۔ تیری روزی کشادہ ہوگی اور تیرا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ تجھے دولت ملے گی۔ جس سے تو بہت خوش ہوگا۔

۵۵۔ وَعِنْدَ اللَّهِ آيَاتٌ لِّمَن أَسْرَأَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۝ حضرت امام جعفر

د ج ب صادق فرماتے ہیں اے فال والے! تو نے جو نیت کر لی ہے تجھے بشارت ہو، اپنے دل میں مہلائی کی امید رکھ، دل تنگ نہ رکھ۔ تیرے بند کام سب کھل جائیں گے۔

۵۶۔ وَإِسْبِرْ صَبْرًا جَبِيْلًا ۝ حضرت امام جعفر صادق فرماتے

د ا د ہیں اے فال والے! تو نے جو نیت کی ہے ابھی تجھے صبر کرنا چاہیے، صبر سے سب کام بن جاتے ہیں اگر تو نے جلدی کی تو بہت پشیمان ہوگا اس نیت کو چھوڑ دے ابھی یہ کام نہ کرو، تیری مراد پوری ہوگی۔

۵۷۔ لِيُنزِلَ عَلَيْكَ مِنْ سَمَاءٍ مِّنْ لَّدُنْكَ آيَاتٌ ۝ حضرت امام جعفر

د ا ب صادق فرماتے ہیں اے فال والے! تجھے خوشخبری

ہو کہ تو نے جو نیت کی ہے نہایت ہی اچھی ہے تجھے بہت مال ملے گا۔ اگر تیرا سفر کا ارادہ ہے بہت اچھا ہے اس سفر میں تجارت کا خیال ہے اس میں بہت نفع ہوگا۔

۵۵۔ رَبَّنَا إِنَّ بَيَانَ أَبْدَانِيهِمْ سَدًّا دَرَمِنَ خَلْفِهِمْ ط حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں اے فال والے! اس نیت سے باز آ، اور خدا پر بھروسہ کر، اور جو لوگ تجھے نصیحت کرتے ہیں ان کی نصیحت قبول کر۔

۵۹۔ إِنَّ اللَّهَ يَخَافُ غَيْبَ الْأَمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ط حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں اے فال والے! تیری نیت اچھی ہے تو بہت خیر و خوبی پائے گا۔ اگر تیرا مال ضائع ہو گیا ہے تو اس کا بدلہ ملے گا۔ سفر میں تیرے لیے مفید ہے۔

۶۰۔ جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَنَا بِئِهِمْ ط حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں اے فال والے! تیری فال بہت اچھی ہے تو جن بلاؤں میں گمراہ ہو اے، تجھے ان بلاؤں سے رہائی ملے گی۔ اگر نکاح کرنے کا ارادہ ہے، مبارک ہے، خدا تجھے نیک فرزند دے گا۔ اگر سفر کا خیال ہے تو سفر کر، اگر تیرا کوئی عزیز غائب ہے وہ جلد آئے گا۔ تیری ہر مراد پوری ہوگی۔

۶۱۔ رَبِّ اغْنِنِي وَهَبْ لِي ط حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں اے فال والے! جو تو نے نیت کی ہے وہ بہت اچھی

عباس نیت سے کچھ بہت فائدہ پہنچے گا۔ کوشش میں لگا رہے۔ تیری مراد پوری ہوگی۔ تیرا غائب عزیز بھی جلد آئے گا۔ تو بیت شاداں ہوگا۔ ہر اعتبار سے انجام اچھا ہوگا اور تیری ہر مراد پوری ہوگی۔

۶۲۔ وَلَا تَوَيْبًا لِلَّهِ الْأَتَايَةُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ خَائِضَاتِ الْمَغْيبَاتِ ۝

دبدر فرماتے ہیں اے فال والے! تجھے خوشخبری ہو کہ تو اپنی نیت درست رکھ اور خدا سے عافیت مانگ، تجھے عافیت ملے گی۔ جو تو کام کر رہا ہے۔ ان میں تجھے خوشی ملے گی۔ تیری روزی کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اب تجھے کچھ رنج و غم نہیں ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

۶۳۔ وَاللَّهُ سَابِقُ الْغَيْبَاتِ وَهُوَ شَهِيدٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ غَافِلٌ لِّمَن يَخْتَرُ ۝

ج ج ۱ علیہ السلام فرماتے ہیں جلدی نہ کرو، ورنہ پشیمانی ہوگی۔ صبر کرو۔ تیری مراد پوری ہوگی۔ آمین کہہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر تیرا سفر کا ارادہ ہے تو سفر نہ کرو، ابھی ٹھہرا رہے، اگر سفر کیا پھٹتا ہے گا اگر بیمار ہے تو کچھ صدقہ دے۔ اگر تیرا کوئی عزیز غائب ہے، ابھی نہیں آئے گا اور حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں،

دو اے فال والے! تو جس قدر محنت و مشقت اور رنج اٹھائے گا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس کام کا ارادہ چھوڑ کر کچھ دنوں ابھی صبر کرو، تیرا کام ضرور ہوگا اور تیری مراد پوری ہوگی۔

انشاء اللہ تعالیٰ۔

فَاخِرُ عَوْنِنَا إِنَّا بِنِعْمَةِ رَبِّنَا بِالنَّاسِ كَاثِرُونَ ۝

ہدایت

حضرت! اس مجربات میں جس قدر بھی عملیات ہیں وہ سب فقیر کے آزمودہ ہیں اس میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو خطا کر جائے یا اگر کسی عامل ہی سے کچھ فرود گذاشت اور بھول چوک ہو جائے اور عمل کام نہ دے وہ امر آخر ہے ورنہ اپنا تجربہ تو یہی ہے کہ اس مجربات کا ہر ایک عمل اپنی جگہ پر تیر بدف کا کام دیتا ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ عاملین کے لیے متقی پرہیزگار ہونا بہت ضروری ہے۔

عاملین حضرات کو چاہیے کہ ہر حال میں خدائے قدوس کی ذات پر نگاہ رکھیں اور نہایت ہی خشوع و خضوع سے عمل پیرا ہوں اگر ان باتوں کے ہوتے ہوئے بھی کوئی عمل کامیاب نہ ہو تو یہی سمجھنا چاہیے کہ خدائے برتر کی مشیت (إِنِ الْكُفْرَانُ لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا سِوَىٰ خَشْيَةِ اللَّهِ) یہ سب کچھ اسی کے قبضہ میں ہے۔

نقط

فقیر عزیز الرحمن پانی پتی غفرلہ

۱۳۸۰ھ

پہلیاے سعادت

اُردو

حجۃ الاسلام امام محمد غزالی کی شہرہ آفاق
کتاب کا سلیس و دلکش ترجمہ

ترجمہ مولانا مولوی خطیب اعظم عالیجناب محمد سعید نقشبندی
خطیب مسجد داتا گنج بخش، لاہور



یوسف فاکیٹ پبلسٹریز

152795

پروگرامنگ

حرفِ سبکی

عملیاتِ تہذیب اور لغتوں کی قرآنی کاموں پر

جوہرِ قسم کی بیماریوں اور حاجتوں زود اثر ہے

مؤلف

حضرت خواجہ اشرف علی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ

یوسف مارکیٹ غزنی سٹریٹ
اردو بازار لاہور ☎ 7352795

پروفیسر سید سعید

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَا يَرْزُقْهُ اللَّهُ فَيَظْلِمَ شَيْئًا

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَا يَرْزُقْهُ اللَّهُ فَيَظْلِمَ شَيْئًا